

بُرجوں اور علم الاعداد کی روشنی میں



7777

ناموں کا خزانہ



مکتبہ
سید ارتضیٰ علی کرمی

مرجوع الہدایہ و تصدیق و توثیق

7777

ناموں کا خزانہ

مرتبہ

سید ارتضیٰ علی کرمانی

پبلشرز

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۳۲۲ مٹیا محل اردو مارکیٹ جامع مسجد دہلی ۱۱۰۰۰۶

فون: ۲۲۶۱۹۹۸، ۲۲۶۵۴۰۶ رھائش: ۲۲۶۲۳۸۶

خوبصورت اور معیاری
کتابیں آپ سب کے لیے

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان
17	اسماء الحسنی
18	اسماء النبی
19	اسماء صحابہ کرام
20	اسماء اولیاء کرام
21	اسماء گرامی ازواج مطہرات
22	اسماء ائمہ کرام
23	علم الاعداد
27	اعداد کا شخصیت پر اثر
36	الف
58	ب
74	پ
80	ت
94	ث
100	ج
112	چ
118	ح
134	خ
146	د
158	ذ

صفحه نمبر	عنوان
164	ر
184	ز
194	س
214	ش
232	ص
224	ض
250	ط
258	ظ
262	ع
284	غ
292	ف
306	ق
316	ک
326	گ
332	ن
340	ہ
364	و
378	و
386	ہ
392	ہ

عرض حال

اللہ کریم غفور الرحیم کلام اللہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ”کہہ دو کہ تم (اللہ کو) اللہ (کے نام سے) پکارو یا رحمان (کے نام سے) پکارو“ اس کے سب نام اچھے ہیں۔ 115:17 ناموں کو تاریخ اقوام میں شروع ہی سے کلیدی درجہ حاصل رہا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نام ہی شناخت کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ ہر قوم و مذہب میں ناموں سے ہی الگ پہچان ممکن ہوتی ہے۔ کلام اللہ شریف میں ایک اور جگہ وارد ہوا ہے کہ ”وہ معبود (برحق ہے) اس کے سوا کوئی معبود نہیں“ اس کے (سب) نام اچھے ہیں۔ 20-7۔ یوں خیال فرمائیے کہ اللہ کریم آپ کو اور ہمیں تلقین فرماتے ہیں کہ اپنے ناموں کو مت بگاڑو بلکہ اچھے نام اختیار کرو۔

اس کی یعنی ناموں کو بگاڑنے کی ممانعت کرنے کی وضاحت اس حدیث قدسی سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے کہ ”اور اللہ کے سب نام ہی اچھے ہیں۔ تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی (اختیار) کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو“ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔ 185:7

اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ناموں کو بگاڑنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے ناموں کو مت بگاڑو بلکہ اچھے اچھے ناموں سے منسوب کرو۔ ناموں کو بگاڑنے کا عمل ہمیں بھارت کے چند صوبوں میں بکثرت نظر آتا ہے اور ہمارے ہاں بھی کمی نہیں ہے۔ بھارت کے ایک علاقہ مالا بار میں دستو۔ مصطفیٰ کو مصو۔ جعفر کو جعفو۔ قادر کو قادو۔ محی الدین مہودو۔ احمد کو آمو۔ ابوبکر کو آوکر وغیرہ۔ یہ طریقہ کچھ ٹھیک نہیں اس سے کسی بھی قسم کی اپنائیت کا اظہار نہیں ہو پاتا ہے بلکہ ایک طرح کی تضحیک کا پہلو نکلتا ہے۔ سب لوگوں کو چاہئے کہ ناموں کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیں اور ایسے ناموں کو اختیار کریں جس میں ان کے مذہب سے پیار کا پتہ ملتا ہو۔ اور اپنے

بزرگوں سے بھی اظہار عقیدت ہوتا ہو۔

مگر ہمارے ہاں اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ حمید کو ہم لوگ بگاڑ کر حمیدہ۔ رشید کو شیدا۔ رزاق کو جھاکا اور جھاک۔ فیاض کو پھاجو اور پھجیو۔ عمران کو مانی۔ اقبال کو بالا۔ ادریس کو دیسہ۔ رمضان کو جھانا۔ یعقوب کو کوہی۔ مقصود کو سودی۔ منیر کو منیرا۔ غلام محمد کو گاما۔ اظہار الحق کو جھارا۔ معراج محمد کو ما جھا۔ سراج کو سا جھا۔ شریف کو شیفاف۔ حفیظ کو فیجاف۔ اور نذیر کو نجا جیسے ناموں سے بگاڑنے کی رسم عام ہو چکی ہے۔ یہ مقدس نام ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہئے کہ ان کی توقیر کریں۔ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔

اسی طرح ہمارے ہاں خواتین کے بھی الٹ پلٹ ناموں کا رواج چل پڑا ہے۔ جیسا کہ رضیہ کو بگاڑ کر رجو۔ نسیم کو جھیمال۔ شاہدہ کو شادو۔ پروین کو ہینو۔ عابدہ کو آبو۔ رابعہ کو رابی۔ زبیدہ کو بیدی۔ بیگم بی بی کو بیگال۔ تاج بی بی کو تاجاں۔ زینب کو زہبی۔ ساجدہ کو ساجی۔ عنایت بی بی کو نیتاں کہنے کا رواج ہو چلا ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں تو آپ یقینی طور پر اتفاق فرمائیں گے کہ نوعمری میں تو یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے مگر سن بلوغت کو پہنچ کر یہ بگاڑا ہوا نام کبھی اچھا نہیں لگتا اور پھر یہ مرحلہ شادی بیاہ کے بعد اور بھی برا لگنے لگتا ہے۔ مگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا نام بگڑ جاتا ہے۔ مرتے دم تک یہی برقرار بھی رہتا ہے۔

عرفیت کو برا نام نہیں بنانا چاہئے۔ اچھی عرفیت بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں ابو ہریرہؓ۔ ان کا اصلی نام تک لوگ بھول چکے ہیں۔ اس نام سے تو لوگوں کی عقیدت پنہاں ہے کیونکہ یہ نام سرکارِ دو عالمؐ نے عطا فرمایا تھا۔ جبکہ ایک اور نام بھی تاریخ کا حصہ ہے جو ہے ابو جہل کا۔ ابو جہل بھی عرفیت ہے۔ حالانکہ اس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا مگر ابو جہل سے پکارا اور لکھا گیا۔ اس نام میں لوگوں کی عقیدت نہیں بلکہ نفرت نظر آتی ہے۔ اس لئے انتہائی مناسب ہے کہ پیار کے اظہار کے لئے بھی ہمیں بچوں کے نام نہیں بگاڑنے چاہئیں۔

جبکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض مسلمانوں کے نام ایسے ہیں کہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے

کہ اس نام کا حامل مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ ہمارے ہاں تو عیسائیوں اور مسلمانوں کے ناموں میں بھی چند نام بالکل مشترک ہو چکے ہیں۔ جیسے آج کل و سیم طاہر وغیرہ قسم کے نام عیسائی بھی رکھ لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہئے کہ مسلمانوں کو اپنے بچوں کے لئے عین اسلامی نام منتخب کرنا چاہئیں جس سے پتہ چلے کہ یہ بچہ مسلمان ہے۔ اس کے لئے ہمارے پاس اصحابہ کبار اور اولیائے کرام کے اسمائے گرامی کے علاوہ اللہ پاک کے اور رسول کریمؐ کے نام بھی موجود ہیں۔

☆ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک پسندیدہ ترین نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے۔

☆ سنن ابوداؤد میں ابودہبؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ اے مسلمانو! جہاں تک ممکن ہو اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام کے ناموں پر رکھا کرو۔ اور اللہ کریم کے نزدیک بہترین نام عبداللہ، عبدالرحمن ہیں اور مزید فرمایا کہ بہترین نام تو حارث اور ہام بھی ہیں جبکہ ”حرب“ ”مرہ“ جیسے برے نام بھی ہیں۔

☆ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو ملک الملوک نام اختیار نہیں کرنا چاہئے کیونکہ سوائے اللہ پاک کے کوئی بھی بادشاہوں کا بادشاہ نہیں کہلا سکتا۔

☆ ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول پاکؐ نے فرمایا کہ پیدائش کے ساتویں روز بچے کا نام تجویز کرو اور اس کے سر کے بال بھی منڈواؤ اور عقیقہ بھی کر دو۔

☆ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ میری بیوی کے لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر خدمت نبویؐ میں حاضر ہوا۔ آپؐ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور چبا کر لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور بچے کے لئے دعا خیر فرمائی۔ یہ میرا پہلا بچہ تھا۔

☆ ترمذی میں سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضورؐ ناپسندیدہ ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔

☆ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب کا نام ”برہ“ تھا یعنی نیکی اور بھلائی۔ لوگوں کے اعتراض پر سیدہ دو عالمؓ نے ان کا نام تبدیل فرما کر زینب رکھ دیا۔

☆ مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہؓ کا نام ابتداء میں ”برہ“ تھا۔ یعنی بھلائی اور نیکی۔ آپؐ نے ان کا نام تبدیل کر کے ”جویریہ“ رکھ دیا۔

☆ سنن ابوداؤد میں حضرت بشیر بن میمونؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا نام احرم تھا یعنی کاٹنے والا اور کترنے والا۔ آپؐ نے اس کا نام دریافت فرمایا تو فرمایا کہ نہیں تمہارا نام تو ”ضراع“ ہونا چاہئے۔ یعنی کھیتی کرنے والا۔

☆ موطا امام مالک میں حضرت یحییٰ بن سعیدؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے ایک اونٹنی کو کھڑا کر کے فرمایا کہ اس کا دودھ کون دوھے گا۔ یہ سن کر ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ آپؐ نے اس کا نام دریافت فرمایا اس نے اپنا نام ”مرہ“ بتایا جس کا مطلب ہے کڑوا۔ آنحضرتؐ نے اس کو بیٹھنے کو کہا۔ پھر آپؐ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس اونٹنی کا دودھ دوھے گا۔ اب دوسرا شخص کھڑا ہوا۔ اس کا نام بھی دریافت کیا اس نے بتایا کہ میرا نام ”صرب“ یعنی جنگ ہے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹھ جانے کو کہا۔ اب ایک مرتبہ پھر سرکار دو عالمؐ نے پوچھا کہ کون اس اونٹنی کا دودھ دوھے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا۔ اس کا نام دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام معیش یعنی عیش کی زندگی گزارنے والا ہے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور اس کو دودھ دوھنے کا حکم بھی فرمایا۔

☆ سنن ابوداؤد میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھ لی۔ جب اس کا علم سیدنا فاروق اعظمؓ کو ہوا تو آپؓ نے اپنے بیٹے کو پیارا اور سخت ست کہہ کر کنیت ختم کر دادی۔ انہی دنوں ایک مشہور صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے بھی اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھ لی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ نے

حضرت مغیرہؓ کو دیکھ کر فرمایا اے مغیرہ کیا یہ مناسب ہے کہ تم اپنی کنیت عبد اللہ رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ درحقیقت یہ کنیت مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی تھی۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ مگر ہم تو آپؐ کے بعد بھی اپنے دو سرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ کیا معلوم ہو کہ ہمارے ان طور طریقوں کا اثر آنے والی نسلوں پر کیا پڑے گا؟ مطلب یہ ہے کہ زمانہ بگڑتا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مشتبہ نام کی وجہ سے لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ حضرت عیسیٰ کے بھی کوئی باپ تھے۔ حضرت عمرؓ کی اس عالمانہ بات کا اثر حضرت مغیرہؓ پر بھی فوری ہوا اور انہوں نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ کی جگہ ابو عبد اللہ اختیار کر لی۔

از
سید ارتضیٰ علی کرمانی

بچے کی پیدائش کے فوری بعد اسلامی اقدار

اللہ کریم غفور الرحیم کی بے پناہ نوازشات میں سے اولاد کی نعمت کا کوئی بھی نعم البدل اس کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ پاک کلام اللہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہیں بیٹے دیں اور جسے چاہیں بیٹیاں دیں اور جسے چاہیں کچھ بھی نہ دیں۔ اولاد کی کمی کو کسی بھی چیز سے پورا نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا درد تو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس نعمت باری تعالیٰ سے محروم ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ کریم رؤف ورحیم ان پر بھی رحمتیں فرمائیں۔ بچے ہماری زندگی کے شگفتہ پھول اور ہماری امیدوں کا محور ہوتے ہیں مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر تو بے حد خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ جبکہ بیٹی کی پیدائش ماں کے لئے ایک طعنہ بن جاتی ہے۔ انہی حالات کی وجہ سے بعض اوقات گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ ایسے بالکل نہیں کرنا چاہئے کیونکہ بطور مسلمان ہم سب کا یہی عقیدہ ہے۔ سبھی امور اللہ کریم کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے وارد ہوا ہے کہ اچھی طرح بیٹیوں کی پرورش کر کے شادی کرنے والے والدین پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لئے بیٹیوں کی پیدائش پر غم و غصے کا اظہار محض جاہلیت ہی کی جاسکتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو پاک صاف کر کے اس کے کانوں میں سب سے پہلے اذان کی آواز پہنچانے کا حکم ہے۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ دائیں کان میں اذان پڑھی جائے اور بائیں کان میں تکبیر یعنی اقامت اس فرض کے بعد صدق دل سے دعا کریں کہ

”اے اللہ پاک میں اس کے اور اس کی اولاد کے لئے شیطان

مردود سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔“

ایک مرتبہ قل شریف پڑھ کر دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا کریں اور جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہوں اس نومولود کے لئے پڑھیں۔ اللہ پاک دعاؤں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔

دعاؤں کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ زندگی کی پریشانیوں میں اولاد کے لئے والدین کی دعاؤں کا بڑا عمل دخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ اولاد کے معاملہ میں والدین کی دعاؤں کو اللہ کریم کی بارگاہ میں پذیرائی بخشی جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبویؐ ہے کہ اولاد کو سخت غصے میں بھی بددعا نہ دی جائے۔

اللہ کریم سے جو چیز والدین بہتر مانگ سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں وہ ہے ان کے لئے ہدایت تقویٰ اور نماز کا عادی ہونا۔ آپ کو یقینی طور پر علم ہو گا کہ محض والدین ہی بچوں کے لئے دعائیں مانگتے سبھی مسلمان بھی اپنے والدین کے لئے ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں۔

”اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور میری اولاد کو بھی“

اے میرے رب ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے میرے رب میری

معفرت فرما اور میرے والدین کی بھی اور جملہ مومنین کی بھی روز جزا

کے دن۔ (سورۃ ابراہیم: 40)

اللہ کریم غفور الرحیم سے دعاؤں میں اپنے اور اپنے بچوں کے لئے نیکی اور بھلائی ہی مانگنی چاہئے تاکہ اللہ پاک خوش ہو کر رحمت فرمائیں۔

گھٹی

یہ وہ چیز ہے جو کہ بعد از اذان بچہ کی منہ میں ڈالی جاتی ہے۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریمؐ نومولود بچہ کو اپنے دہن مبارک میں کھجور چبا کر بچہ کے منہ میں ڈالتے تھے۔ کس قدر خوش قسمت بچے ہوں گے۔ آج کل ہمارے ہاں نومولود بچہ کو شہد چٹوایا جاتا ہے۔ اس سے بچہ کی آنتوں اور معدہ کی صفائی سہرائی بھی ہو جاتی ہے۔

بچہ کی پہلی غذا

بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد لازمی طور پر اپنی خوراک چاہتا ہے اور اللہ کریم نے

ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوری بعد ہی ماں کی چھاتیاں دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ یہی وہ طاقت اور ٹانک ہے جو بچے کو بڑھاپے تک سنبھالے رکھتا ہے۔ کلام اللہ شریف میں حکم ہوا ہے کہ ”اور مائیں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں“ اسی بارے میں مزید حکم یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے میاں بیوی میں علیحدگی کی نوبت آن پہنچے تو جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے اس وقت تک تمام اخراجات شوہر برداشت کرے گا۔ بچہ کو ہمیشہ پاک صاف ہو کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دودھ پلانا چاہئے۔ اور خود کو ویڈیو وغیرہ میں نہیں بلکہ یاد الہی میں مشغول رکھنا چاہئے تاکہ بچہ مسلمان بنے۔ اسلام میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ اگر ماں اپنا دودھ نہ پلانا چاہے تو اخراجات برداشت کر کے کسی آیا کا بندوبست بھی کیا جاسکتا ہے۔

عقیقہ

اللہ کریم کے محبوب پاک سرکار دو عالمؐ کا ارشاد پاک ہے کہ ”بلا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر صدقہ اور عقیقہ صدقہ ہی ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتویں روز بچہ کے سر کے بال منڈوا دو اور عقیقہ کر دو۔ کیوں کہ ہر بچہ عقیقہ کے رہن میں ہوتا ہے۔ ساتویں روز اس کا نام بھی رکھ دو۔

عقیقہ کے بارے میں ارشاد نبویؐ ہے کہ ”اگر تم میں سے کوئی اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے۔ تو لڑکے کی طرف سے دو بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا بکری۔

معتول بات تو یہی ہے کہ ساتویں روز ہی عقیقہ کر دیا جائے اگر کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو بعد میں کیا جاسکتا ہے اور حالات موافق نہ ہوں تو بحر حال اللہ سب دیکھتا اور جانتا ہے۔

”واللہ سميع وبصير“

دو بکروں کی جگہ اگر خرابی حالات ہوں تو ایک بکرا بھی قربان کیا جاسکتا ہے۔

آنحضرتؐ نے حضرت حسنؑ کی طرف سے عقیقہ کے موقع پر ایک بکرا ہی ذبح فرمایا تھا۔ ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ آجکل عقیقہ کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے

اور نمود و نمائش بھی کی جاتی ہے۔ حالانکہ عقیقہ کے موقع پر قربان کئے گئے جانوروں کا گوشت تقسیم بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہزار پانچ سو آدمیوں کو دعوت کھلا کر ہی اس سنت کو پورا کیا جائے۔ عقیقہ کا گوشت بچہ کے والدین اور والدین کے والدین پر کسی بھی طرح ممنوع نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ابہام پیدا کر رکھا ہے۔

بچوں کا نام تجویز کرنا۔

مسلمان بچوں کے ناموں کو با معنی ہونا چاہئے اور اگر ان کو صائین، صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے ناموں سے منسوب کر دیا جائے تو نہایت ہی مناسب بات ہے۔ آنحضرت کو اگر کوئی نام کسی کا پسند نہیں آتا تھا تو آپ تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔

اسی لئے آپؐ نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ با معنی نام اختیار کرو، اور قیصر اور پردیز جیسے ناموں کو اختیار مت کرو۔ قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا اور پردیز انیران کا بادشاہ تھا۔ مگر آج کل تو لوگ سبھی نام رکھ رہے ہیں اور خود کو بہت بڑا سیکور ثابت کرنے کے چکر میں بہت آگے تک جانا چاہتے ہیں۔

ایک جگہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ

”جس کا نام میرے نام پر خوش نصیبی کی امید میں رکھا جائے، وہ خوش نصیب ہو گا اور قیامت کے روز تک امن میں رہے گا۔“

”اور اگر میری نسبت میں برکت کے ارادے سے اس کا نام محمد رکھے گا تو وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائے گا۔“ (کنز العمال)

رسول کریمؐ نے ایسے ناموں کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے جن سے شرک کا اظہار ہوتا ہو۔ مثلاً ”اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کے نام کے ساتھ عبد لکھ دیا جائے یا پکارا جائے۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالمؐ نے ذاتی غرور کو ظاہر کرنے والے ناموں کو بھی اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آج کل عام طور پر بچوں کے ناموں کا اختیار ان کی پھوپھی کو دے دیا جاتا ہے یا پھر جنسیوں سے مدد لی جاتی ہے۔ ان قسم کی باتوں کی اسلام نے پابندی نہیں لگائی۔ مگر جنسیوں سے مدد لینا بھی اسلامی رو سے درست نہیں کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کریم کو ہی ہے۔ یہ تو ہم پرست قسم کے لوگوں کے مشاغل ہیں۔ اسلامی

ناموں کو بگاڑنا بھی نہیں چاہئے۔ بلکہ اپنے اسلامی ناموں پر تو سب کو فخر ہونا چاہئے۔
 اب آپ کہیں گے کہ بگاڑا کیسے جاتا ہے تو جناب ایک بھارتی مسلمان گلوکار نے
 ہندوؤں کے ساتھ اس قدر عقیدت کا مظاہرہ کیا کہ اس نے اپنا نام شبیر حسین کی بجائے شبیر
 کمار رکھ لیا۔ اس کے اس فعل سے مسلمانوں کو سوائے شرمندگی کے اور کیا حاصل ہوا
 ہو گا۔

چودھری محمد طارق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خروج اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

هُوَ اللَّهُ	الَّذِي إِلَه	الْأَهْو	الرَّحْمَن	الرَّحِيم	الْمَلِك	الْقُدُّوس	السَّلَام
وہ اللہ	کونسی کوئی پوز	مگر وہ	بڑا مہربان	بہایت رحم والا	بادشاہ	پاک	سلامت رکھنے والا
الْمُؤْمِن	الْمُهَيِّم	الْعَزِيز	الْجَبَّار	الْمُتَكَبِّر	الْخَالِق	الْبَارِئ	الْمُصَوِّر
امین دینے والا	تہیان	قاب	تقصاں پورا کرنے والا	بڑا والا	بہا کرتے والا	حاکم کرتے والا	صورت بنانے والا
الْقَهَّار	الْقَهَّار	الْوَهَّاب	الزَّارِق	الْفَتَّاح	الْعَلِيم	الْقَابِض	الْبَاسِط
بھٹنے والا	زبردست	بہت دینے والا	رزق دینے والا	کھولنے والا	جانتے والا	بند کرنے والا	کھولنے والا
الْمُنَافِق	الزَّافِع	الْمُعِز	الْمُذِل	السَّمِيع	الْبَصِير	الْحَكَم	الْعَدْل
پست کرنے والا	بڑھانے والا	عزت دینے والا	خوار کرنے والا	سننے والا	دیکھنے والا	حاکم	عدل کرنے والا
الْكَبِير	الْعَلِي	الشَّكُور	الْغَفُور	الْعَظِيم	الْحَلِيم	الْخَبِير	الْكَافِي
بڑا	تہسند	شکر پسند	بخشنے والا	بزرگ	نرم دہا	خبر دار	ہر ایک میں
الْحَفِظ	الْمَقِيت	الْحَصِيب	الْجَلِيل	الْكَرِيم	الْقَرِيب	الْمُجِيب	الْوَاسِع
تہیان	قوت دینے والا	کالی	بزرگ	سخی	تہیان	جواب دینے والا	فراموش دینے والا
الْحَكِيم	الْمُكِيل	الْمُعِيد	الْمُؤَجِّر	الْأَوَّل	الْمُقِط	الْجَامِع	الْهَادِي
حکمت والا	کار ساز	دوبارہ پورا کرنے والا	بچھلا	اول	صل کرنے والا	جمع کرنے والا	لا دھکنے والا
الْوَدُود	الْقَوِي	الْمُحِي	الْمُقَدِّم	الْآخِر	ذُو الْاَلَالِ	الْبَاقِ	الْبَدِيع
دوست بڑا	طاقت والا	زور دینے والا	پہلا	آخر	ذو الالہ	بہشت پروردگار	نیا پیدا کرنے والا
الْمُجِيد	الْمُتِين	الْمُحِيت	الْمُقَدِّر	الظَّاهِر	فَالِك الْمَلِك	الْوَارِث	الْرَّشِيد
بزرگ	مضبوط	مارنے والا	صانع برکات	آشکارا	ملک کا مالک	مالک	راہنما
الْبَاعِث	الْوَلِي	الْحَي	الْقَادِر	الْبَاطِن	الزَّوْف	الْصُّبُور	الْقَنِي
اٹھانے والا	دوست	زنده	قدرت والا	بہشتیہ	بہت مہربان	بڑا تحمل والا	سچے پرواہ
الشَّهِيد	الْحَيِّد	الْقَيُّوم	الْحَسْب	الْوَلِي	الْعَفُو	الْمُعْزِي	الْبَانِع
گواہ	قابل توبہ	بہشت پروردگار	بے نیاز	کار ساز	معاف کرنے والا	دوستیز کرنے والا	منع کرنے والا
الْحَق	الْمُحْيِي	الْوَاحِد	الْأَحَد	الْمُعَال	الْمُسْتَقِيم	الْبَاقِع	الْمُؤَسِّر
سچا	گھیرنے والا	پانے والا	ایکلا	برتر	جولہ لینے والا	نفع دینے والا	روشنی والا
الْمُبْدِي	الْمُجِد	الْوَاحِد	الْبَدِ	الْمُتَوَكِّل	الْمُتَوَكِّل	الْمُتَوَكِّل	الْمُتَوَكِّل
پیدا کرنے والا	بزرگ والا	ایک	اسمان کرنے والا	توکل کرنے والا	توکل کرنے والا	توکل کرنے والا	توکل کرنے والا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خروج اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

مُحَمَّدٌ	أَحْمَدٌ	حَامِدٌ	مُحَمَّدٌ	قَاسِمٌ	عَاقِبٌ	قَاتِمٌ	شَاهِدٌ
تربیت والا	سجہ نیکو کر والا	سر پہنے والا	سرا لیا	بانٹنے والا	بچھنے والا	کھولنے والا	گواہی دینے والا
حَاشِرٌ	رَفِيعٌ	مَشْهُودٌ	بَشِيرٌ	نَذِيرٌ	دَاعٍ	شَافٍ	هَادٍ
اٹھنے والا	نیک	گواہی دینا	خوشخبری دینے والا	دُعا کرنے والا	دُعا کرنے والا	شفاعتی والا	اُدی
مَهْدٍ	مَاجِرٌ	مُنِيرٌ	نَاہٍ	رَسُولٌ	نَبِيٌّ	أَرْحَمُ	تَهَامِيٌّ
ہدایت والا	محو کرنے والا	نجات والا	منع کرنے والا	رسول	نبی	ان پرہیزگار	تہامی
هَاشِمِيٌّ	أَبْطَحِيٌّ	عَزِيزٌ	حَرِيصٌ	رَعُوفٌ	رَجِيمٌ	ظَهَامٌ	مُبْتَلِيٌّ
ہاشمی	ابلیغ والا	غالب	خوش ترغیب والا	رحیم دل	رحیم والا	ظہر	چٹا ہوا
طَسٌّ	مُرْتَفَعٌ	حَمٌّ	مُصْطَفًى	يَسٌّ	أَوَّلٌ	مُزَقِّلٌ	وَلِيٌّ
عس	برتر	خمر	چنا ہوا	یس	بہتر	کسل والا	دوست
مُذَكِّرٌ	مَتِينٌ	مُصَدِّقٌ	كَلِيمٌ	نَاصِرٌ	مَنْصُورٌ	مُصْبِحٌ	أَمِيرٌ
خبر دہنے والا	مضبوط	سچا کہنے والا	گفتگو	مدد دینے والا	مدد دینا	چند بار	نعم دینے والا
جَبَّارٌ	تَوَّارٌ	قَرِينٌ	مُضَرِّيٌّ	نَبِيُّ التَّوْبَةِ	حَافِظٌ	كَامِلٌ	صَادِقٌ
جبار والا	مضربین کا لڑاکا	قرین	مضر والا	متوبہ پر موعظ نبی	یاد رکھنے والا	کامل (پہلا)	سچا
أَمِينٌ	عَبْدُ اللَّهِ	كَلِيمُ اللَّهِ	حَبِيبُ اللَّهِ	نَبِيُّ اللَّهِ	صَفِيُّ اللَّهِ	خَاتَمُ الْكَلِمَاتِ	حَسِيبٌ
امانت دار	اللہ کا بندہ	اللہ سے کلام کرنے والا	اللہ کا دوست	اللہ کا راز دار	اللہ کا مخلص	انبیاء کا ختم	کافی
مُجِيبٌ	مُقِصِدٌ	قَوِيٌّ	مَأْمُونٌ	حَقٌّ	صَاطِعٌ	أَوَّلٌ	ظَاهِرٌ
تجربہ کرنے والا	مقصد کی پے	طاقت والا	امن والا	سچا	تابعدار	آجل	ظاہر
شُكْرٌ	رَسُولُ اللَّهِ	حَقٌّ	مَعْلُومٌ	مَبِينٌ	رَسُولُ اللَّهِ	أَخِرٌ	بَاطِنٌ
شکر گزار	پہلوانی رسول	خبر رکھنے والا	علم والا	ظاہر	راست والا رسول	پچھلے	پوشیدہ
نَبِيُّ الرَّحْمَةِ	يَتِيمٌ	كَرِيمٌ	حَكِيمٌ	خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ	سَيِّدٌ	سَرَّاجٌ	مُسَيِّرٌ
مہربانی والا نبی	یتیم	سخی	مکت والا	رسول کا ختم	سر دار	یگانہ ہوا	چراغ
مُحَرَّمٌ	مَكْرَمٌ	مُبْتَرٌ	مَذْكُورٌ	مُطَهَّرٌ	قَرِيبٌ	خَلِيلٌ	مَدْعُوٌّ
محرم کرنا والا	عزت والا	خوشخبری دینے والا	نصبت کرنے والا	پاکیزہ	قرب	دوست بانی	دعوت دینے والا
	جَوَادٌ	خَاتِمٌ	عَادِلٌ	شَهِيدٌ	شَهِيدٌ	رَسُولُ اللَّهِ	
	سخن	ختم کرنے والا	عدل کرنے والا	شہید	شہرت والا	رسول اللہ	

100 اسمائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ابوبکر صدیق رضی	عمر فاروق رضی	عثمان غنی رضی	علی المرتضیٰ رضی
خالد بن ولید رضی	ابو عیینہ بن الجراح رضی	عبد اللہ بن زبیر رضی	عبد اللہ بن عمر رضی
عبد الرحمن بن عوف رضی	عباس بن عبد المطلب رضی	سعد بن ابی وقاص رضی	ابوذر غفاری رضی
زبیر بن عوام رضی	عبد اللہ بن زبیر رضی	معاویہ بن ابی سفیان رضی	حمزہ بن عبد المطلب رضی
ابو قحافہ رضی	عکرمہ بن ابی جہل رضی	صفوان بن امیہ رضی	حارث بن ہشام رضی
بلال بن رباح رضی	عبد اللہ بن جہش رضی	عمار بن یاسر رضی	طلحہ بن عبد اللہ رضی
مقداد بن اسود رضی	جنادہ بن امیہ رضی	بشیر بن مشافہ رضی	عمرو بن العاص رضی
عدی بن حاتم رضی	زید بن ثابت رضی	سعید بن زید رضی	زبیر بن ابو سلمہ رضی
عمرو بن جہنی رضی	حویطب بن عبد العزیٰ رضی	نصیر بن حارث رضی	مصعب بن عمیر رضی
طلحہ بن عبید رضی	ضام بن ثعلبہ رضی	عمیر بن وہب رضی	عروہ بن مسعود رضی
سلمان فارسی رضی	ابو ہریرہ رضی	زید بن سعید رضی	طفیل بن عمرو دوسی رضی
خباب بن ارت رضی	عثمان بن مظعون رضی	جعفر بن ابی طالب رضی	عتیق بن ابی طالب رضی
مقدد بن اسود رضی	صہیب بن شان رضی	واقلدہ بن اسقع رضی	معاذ بن عمرو رضی
ابود جاندہ ساک رضی	معاذ بن عفران رضی	قنادہ بن نعمان رضی	عمرو بن معدی کرب رضی
سلمہ بن اکوع رضی	برابن مالک رضی	عبد اللہ بن حذافہ رضی	ابوذر غفاری رضی
عبد الرحمن بن ابوبکر رضی	عبد اللہ بن عباس رضی	ابو موسیٰ اشعری رضی	شریل بن حبشہ رضی
ابو سلمہ بن عبد اللہ رضی	ابن ام مکتوم رضی	ارقم بن ابی ارقم رضی	عبیدہ بن حارث رضی
حاطب بن ابی بلتعہ رضی	عکاشہ بن محض رضی	عبد اللہ بن مخرمہ رضی	ثمامہ بن اثال رضی
عمرو بن عیسیٰ رضی	عبد اللہ بن ابوبکر رضی	ابودرہم غفاری رضی	کعب بن مالک انصاری رضی
ابی بن کعب انصاری رضی	زید بن ارقم رضی	عبد اللہ بن عمرو بن حرام رضی	ساک بن خرشہ رضی
عبد اللہ بن رواحہ رضی	عمرو بن جوح رضی	معاذ بن جبل رضی	عبد اللہ بن سلام رضی
ابولیبہ رفاعہ رضی	عبد العزیز بن سعد بن ربیع رضی	حبیب بن زید رضی	بشیر بن سعید انصاری رضی
خزیمہ بن ثابت حطینی رضی	ضحاک بن سفیان رضی	عتاب بن اسید رضی	عبد الرحمن بن سمرہ رضی
قیس بن عاصم فتصیری رضی	حجیم بن اوس داری رضی	قعقلع بن عمرو رضی	جریر بن عبد اللہ بکلی رضی
ابوایوب انصاری رضی	حذیفہ بن الیمان رضی	ابوسفیان بن مخزوم رضی	عوف بن مالک اجمعی رضی

100 اسمائے اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم

شیخ عبدالقادر جیلانی، علی بن عثمان داتا گنج بخش، خواجہ جنید بغدادی، بہاؤ الدین زکریا، خواجہ فرید الدین گنج شکر، شاہ رکن عالم، خواجہ معین الدین اجمیری، نظام الدین اولیا، شیخ شہاب الدین سروردی، قطب الدین میراں حسین زنجانی، حاجی وارث علی شاہ، بوعلی قلندر، شاہ شمس بریز، شاہ شمس سزوری، حاجی امداد اللہ مہاجر کی، احمد رضا خاں بریلوی، عبدالقدوس گنگوہی، موسیٰ فردوسی، خواجہ منصور، یعقوب سروری، منصور عارف، یحییٰ مدنی، خواجہ غلام محی الدین، ابراہیم ادھم، محمد نبی رضا شاہ، ابوالحسن نقوی، ابوالحسن شاذلی، شاہ ہمدان، فضیل بن عیاض، غلام مرتضیٰ زہیری، خواجہ ابو تراب، داؤد طائی، نجیب الدین آبر فردوسی، صمن غزالی، معروف کرفی، عبدالصمد کنعانی، ابو بکر شبلی، شاہ محمد غوث، خواجہ شرف الدین واسطی، حافظ منعمدری، حسن داؤد، جلال الدین رومی، اخوند سعید، محمد علی فخری، بہاؤ الدین جنیدی، مخی سلطان، نجیب الدین متوکی، خواجہ فرید الدین عطار، خواجہ قطب الدین بختیار کاکلی، خواجہ علاء الدین صابر، جلال الدین بٹائی، ضیاء الدین برنی، جعفر برکی، مبارک حقانی، شاہ عبدالرحیم، بشیر حقانی، شیخ محمد معصوم، بیہبہ الدین، ابوالقاسم گرگانی، عبید اللہ اصرار، عبدالرحمان جامی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالرحیم بدیع الدین شاہ مدار، خواجہ سراج الدین چشتی، شمس الدین پانی پتی، امام غزالی، خواجہ باقی باللہ، شاہ احمد عبدالحمید محدث، معظم شاہ، خدام الدین سوختہ، شاہ رحیم اللہ، خواجہ قطب الدین مودور چشتی، محمد رشد مجددی، علاؤ الدین عطار، بایزید بٹائی، شاہ محمد ابوالنعمانی، سری سقطی، فخر الدین رازی، شاہ عبدالعزیز، محمد حسن علی شاہ ہوی، احمد بن حنبل، شفیق بلخی، امام محمد بن اسماعیل بخاری، شاہ عبدالقادر محدث، مخدوم جہانیاں جہاں گشت، جلال بخاری، حسن محمد چشتی، ذوالنون مصری، شاہ رفیع الدین محدث، سید احمد شہید، حسین بن منصور جلاح، ابو عثمان مغربی، خواجہ ناصر الدین محدث، خواجہ حبیب عجمی، صفی القدر مجددی، سعد الدین کاشغر، شیخ نجم الدین کبریٰ، شاہ میتا، علی خواصی ترمذی، صدر الدین عارف، حمید الدین ناگوری، شرف الدین واسطی۔

اسمائے گرامی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن

ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ؓ

ام المومنین سیدہ سودہ ؓ

ام المومنین سیدہ عائشہ ؓ

ام المومنین سیدہ حفصہ ؓ

ام المومنین سیدہ زینب ؓ

ام المومنین سیدہ ام سلمہ ؓ

ام المومنین سیدہ جویریہ ؓ

ام المومنین سیدہ حبیبہ ؓ

ام المومنین سیدہ صفیہ ؓ

ام المومنین سیدہ میمونہ ؓ

اسمائے اولاد پاک جناب رسالت

سیدہ زینب ؓ

سیدہ ام کلثوم ؓ

سیدہ رقیہ ؓ

سیدہ فاطمۃ الزہراء ؓ

سیدنا ابراہیم ؓ

سیدنا قاسم ؓ

سیدنا طیب ؓ

سیدنا طاہر ؓ

اسمائے آئمہ کرام

سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ
 سیدنا امام حسن بن علی المرتضیٰ
 سیدنا امام حسین بن علی المرتضیٰ
 سیدنا امام علی بن حسین زین العابدین
 سیدنا امام محمد بن علی بن حسین باقر بن امام زین العابدین
 سیدنا امام جعفر صادق بن امام باقر
 سیدنا امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق
 سیدنا امام علی رضا بن موسیٰ کاظم
 سیدنا امام محمد تقی بن علی بن موسیٰ
 سیدنا امام علی بن محمد عسکری
 سیدنا حسن بن علی زکی

☆☆☆☆☆☆

سیدنا امام مالک
 سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی
 سیدنا امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ
 سیدنا احمد بن حنبل

علم الاعداد

اعداد کا شخصیت پر اثر

سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ نام کا عدد کس طرح معلوم کیا جائے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ علم الاعداد میں ایک تو نام کا عدد معلوم کیا جاتا ہے اور دوسرے تاریخ پیدائش کا عدد بھی معلوم کر کے حالات زندگی کو پرکھا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ انسان کی قسمت اور کائنات میں تغیر و تبدل کے ساتھ اعداد کا انتہائی گہرا تعلق ہے۔ علم الاعداد کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو ہندسوں کے عدد یاد رکھنا لازمی ہے۔ اعداد کا جدول آپ کی خدمت میں پیش ہے۔

اعداد	حروف	اعداد	حروف
800	ض	1	الف
9	ط	2	ب-پ
900	ظ	3	ج-چ
70	ع	400	ت-ث
1000	غ	500	ث
80	ف	8	ح
100	ق	600	خ
20	ک-گ	4	د-ڈ
30	ل	700	ذ
40	م	200	ر-ڑ
50	ن	7	ز-ژ
6	و	60	س
5	ہ	300	ش
10	ے	90	ص

جیسا کہ آپ نے جدول میں ملاحظہ فرمایا کہ تمام حروف کے اعداد آپ کو معلوم ہو چکے ہیں۔ اب نام کا عدد نکالنے کے لئے آپ پہلے تو نام کے ہجے علیحدہ علیحدہ کریں۔ اب ان تمام حروف کے آگے عدد لکھتے جائیں۔ اس کے بعد تمام اعداد کو جمع کر لیں عدد حاصل ہو جائے گا۔

محمد علی کے اعداد اس طرح حاصل ہوں گے۔

40	م
8	ح
40	م
4	د
70	ع
30	ل
10	ی

اب ہمارے پاس اعداد 202 حاصل ہوئے ان کو ہم اب اکائی کی صورت میں یوں لائیں گے کہ

$$2+0+2 \text{ یعنی حاصل ہوا ہے عدد } 4-$$

مثال =!

محمد ضیاء الحق

40	م
8	ح
40	م
4	د
800	ض
10	ی
1	ا

1	ا
30	ل
8	ح
100	ق
1042	

اکائی کی صورت میں اس طرح آئے گا۔

$$7 = 1 + 0 + 4 + 2$$

یعنی ہمارے پاس عدد حاصل ہوا۔ 7

محمد نواز شریف

40	م
8	ح
40	م
4	و
50	ن
6	و
1	ا
7	ز
300	ش
200	ر
10	ی
80	ف
746	

اکائی کی صورت میں اس طرح لکھیں گے۔

$$17 = 7 + 4 + 6$$

اب حاصل شدہ عدد کو اکائی میں یوں تبدیل کریں گے۔

$$8 = 1 + 7$$

یعنی ہمیں عدد حاصل ہوا۔ 8

اس طرح تاریخ پیدائش کا بھی عدد نکالا جاسکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر مثال۔

کسی کی تاریخ پیدائش 9 ستمبر 1958ء ہے۔ تو یوں لکھا جائے گا۔

$$41 = 9 + 9 + 1 + 9 + 5 + 8$$

اب عدد 41 کو اکائی میں اس طرح لکھیں گے۔

$$5 = 4 + 1$$

یعنی ہمارا حاصل شدہ عدد 5 ہے۔

مثال

کسی کی تاریخ پیدائش 16 جون 1978ء ہے۔ تو یوں لکھا جائے گا۔

$$38 = 1 + 6 + 6 + 1 + 9 + 7 + 8$$

اب عدد 38 کو اکائی میں اس طرح حاصل کریں گے۔

$$2 = 1 + 1 = 11 = 3 + 8$$

یوں ہمارے پاس عدد حاصل ہوا 2

مثال

اگر کسی کی تاریخ پیدائش 10 مئی 1980ء ہے تو یوں لکھا جائے گا۔

$$24 = 1 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 0$$

اب عدد 24 کو اکائی میں یوں حاصل کریں گے۔

$$6 = 2 + 4$$

یعنی ہمارا حاصل شدہ عدد ہے۔ 6

اب حاصل شدہ اعداد کو اکائی میں اس طرح تبدیل کریں۔

$$14 = 6 + 0 + 8$$

اس طرح ہمیں اعداد حاصل ہوئے۔ 14

اکائی میں اس طرح لکھا جائے گا۔

$$5 = 1 + 4$$

یعنی اتوار کو پیدا ہونے والوں کا عدد ہے 5

اعداد کا شخصیت پر اثر

1

اگر کسی کا عدد 1 ہے اور دن کا عدد تین ہے تو ایسے لوگ آزاد طبع واقع ہوتے ہیں۔ ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جاسکتی۔ ان لوگوں کی طبیعت میں تکبرانہ پن کی واضح جھلک موجود ہوتی ہے۔ یہ کسی کے مشوروں کو بھی استقدر اہمیت نہیں دیتے بلکہ اپنے خیال ہی کو بہتر گردانتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے لوگ فیصلے بہت عموماً سے کرتے ہیں ان کے فیصلوں میں کوئی نقص یا جھوٹ نہیں ہوتا۔

اسی طرح ایسے لوگ بلا کے قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے سپرد کوئی کام کر دیا جائے تو اپنی بہترین کاوش کو بروئے کار لا کر انجام دیتے ہیں۔ ایسے لوگ تحکمانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا حوصلہ ہمیشہ بلند دکھائی دیتا ہے اور ایسے لوگوں میں بہادری کا عنصر بہت نمایاں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ عام طور پر مضبوط قدم و قامت کے مالک ہوتے ہیں اور خوب لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔

قابل رشک صحت کے مالک یہ لوگ ہوتے ہیں۔ نڈر اور جیباک فطرت کے مالک ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی رنگت سرخ ہوتی ہے۔ مگر ان کو امراض قلب امراض چشم کا خطرہ موجود رہتا ہے۔

2

اگر کسی کا عدد 2 اور یوم پیدائش کا عدد بھی 2 ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جنس مخالف کے دیوانے ہوتے ہیں۔ عشق میں یہ تن من دھن کی پراہ نہیں کرتے۔ مگر یہ کسی ایک پر تکیہ بھی نہیں کرتے ایک کے بعد دوسرا۔ یہی ان کی تمام زندگی کا اصول ہوتا ہے۔ ایک عشق اگر ناکام ہو جاتا ہے تو دوسرا جلد ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کو قرار نہیں ہوتا۔

ایسے لوگوں کی طبیعت میں ٹھنڈاؤ نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر وقت دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بے جا جلت پسندی ان لوگوں کو نقصان سے بھی دوچار کر دیتی ہے اور ایسے لوگ عام طور پر تنگدستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں تفریح کا بہت شوق ہوتا ہے۔ تنگدستی میں بھی یہ تفریح کا کوئی موقع نہیں گنواتے۔

جن لوگوں کا عدد 3 اور یوم پیدائش کا عدد 4 ہوتا ہے۔ ان کے متعلق یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ فریہ اندام اور مذہب کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہی فراخ دل اور سخاوت پسند ہوتے ہیں۔ بلکہ انکی سخاوت اور فیاضی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ خود مالی مشکلات کا بھی وقتی طور پر شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں ان کو آپ دو سروں کے لئے پریشان اور مدد گار ہی کے طور پر دیکھیں گے۔

دوسرے کی مدد یہ ہر حال میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہے ان کے اپنے نقصان ہی کا اندیشہ کیوں نہ ہو۔ یہ اس بات کی بھی پراہ نہیں کرتے کہ ان کے احسان کا کوئی بدلہ بھی اتارے گا کہ نہیں اور ہوتا بھی یہی ہے۔ جب یہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کو کسی دوست سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ مگر ان کو کسی سے شکایت کرتے نہیں دیکھا جاتا۔ بلکہ ہمیشہ بلند ہمتی اور بلند خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔

بہت زیادہ دولت بھی ان کی انکساری کو ختم نہیں کرتی۔ بلکہ یوں کہنا نہایت مناسب ہو گا کہ یہ لوگ دولت کو بہت زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ان کو خوشی تو بس خرچ کرنے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ بلند پیشانی ہوتی ہے۔ مگر اکثر ان کے بال سروں سے بہت جلد غائب ہو جاتے ہیں۔

انہیں امراض معدہ اور جگر سے خطرہ رہتا ہے۔ کیوں کہ ان کو دو سروں کے بارے میں بہت سے تفکرات گھیرے رہتے ہیں۔

جن افراد کا عدد 4 اور یوم پیدائش 3 ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ مگر آرام و آسائش میں اگر کسی بھی وجہ سے خلل پڑ جائے تو خواجواہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اکثر حالات کا شکوہ کرتے دیکھا گیا ہے۔ اپنی غیر سنجیدہ منصوبہ بندی سے یہ لوگ اکثر مالی طور پر مستحکم نہیں ہو پاتے۔ چونکہ ان کی مالی حالت بہتر نہیں ہو پاتی۔ اس لئے ان کے دلوں میں کینہ اور حسد جیسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو اپنے آپ پر قابو پانا آجائے تو نہایت کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ چونکہ اپنے آپ کو مضبوط تصور نہیں کرتے اس لئے دوسروں سے عام طور پر نفرت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ مذہبی طور پر یہ لوگ جنونی ہوتے ہیں۔

ظاہری نمود و نمائش کے بہت دلدادہ ہوتے ہیں اور اپنی جمع پونجی بھی بے دریغ خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اور اسی لئے ان کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ فائدہ اٹھانے والوں کو نفرت سے دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو عام طور پر جلدی امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

جن لوگوں کا عدد 5 اور یوم پیدائش 6 ہوتا ہے۔ وہ لوگ معصوم صفت ہوتے ہیں۔ اسی لئے چھوٹے بچوں سے اکثر الفت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ کاروباری ملاحتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ کاروبار میں انہیں نقصان سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ بہت ہی کم یہ لوگ ملازمت کرتے نظر آتے ہیں اور اگر بہ امر مجبوری انہیں کسی جگہ ملازمت کرنا بھی پڑ جائے تو ہمہ وقت ان کے سر پر اپنے کاروبار کا ہی بھوت سوار رہتا ہے۔

ان لوگوں کی آنکھیں درمیانی ہوتی ہیں۔ مگر ذہانت کی چمک ان کی آنکھوں میں نمایاں ہوتی ہے۔ یہ لوگ طویل قامت بھی ہوتے ہیں اور پست قامت بھی۔ مگر دونوں صورتوں میں عملی جدوجہد میں یہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کسی بھی کام کو جلد ہی سرانجام دینے کی کوشش میں عام طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جبکہ دوسرے ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں۔

ان لوگوں کو عام طور پر دماغی اور اعصابی عارضے کا شکار دیکھا گیا ہے۔ ان حالات میں ان کا حافظہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات اسی وجہ سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔

انہیں چونکہ دماغی اور اعصابی عارضے گھیرے رہتے ہیں اس لئے آخر عمر میں یہ لوگ فالج اور لقوہ جیسے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔

جن لوگوں کا عدد 6 اور یوم پیدائش کا عدد 7 ہوتا ہے۔ وہ لوگ سہل زندگی گزارنے کے آرزو مند ہوتے ہیں۔ ان کے خیالات ہمیشہ عیش و نشاط کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ یہ بہت کم تخریبی سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن ہمیشہ صلح اور امن کو ہی اچھا سمجھتا ہے۔ ان کو اپنا خاندانی وقار بہت عزیز ہوتا ہے اور خاندان کے بھی افراد سے بے حد محبت کرتے ہیں۔

انہیں دنیا فساد سے بہت نفرت ہوتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ امن و سکون سے زندگی گزارنا ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ان کو تکلیف کے نام ہی سمجھتا ہوتا ہے۔ اور اگر ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو از حد ملول ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جسمانی ساخت متناسب اور خوبصورت ہوتی ہے۔ مگر سہل پسندی کی وجہ سے جلد ہی موٹے ہو جاتے ہیں۔

ان لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان کو جنس مخالف میں خاصی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جنس مخالف ان کی خوبصورتی سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات حد سے بھی گزر جاتے ہیں۔

انہیں مخصوص عوارض لاحق ہونے کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے۔ جبکہ ان کو امراض گردہ بھی پریشان کئے رکھتے ہیں۔

7

جن لوگوں کا عدد 7 اور یوم پیدائش کا عدد 8 ہوتا ہے وہ لوگ عام طور پر فربہی مائل ہوتے ہیں۔ جبکہ زردی مائل رنگ کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا مزاج کافی تیز ہوتا ہے اور ان کا غصہ مشہور ہوتا ہے۔ انہیں قائل کرنا بہت مشکل امر ہوتا ہے۔ اپنے مزاج کے خلاف تو یہ بات برداشت کر ہی نہیں سکتے۔

اصولوں پر سختی سے کاربند رہتے ہیں اور صاف گوئی کی وجہ سے لوگ ان کو مغرور اور بددماغ سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کو عام طور پر آپ پریشان ہی دیکھیں گے۔ ارادوں کے بڑے مضبوط رہتے ہیں۔ اگر کچھ کہہ دیا تو پھر اس سے منہ نہیں موڑتے۔ بلکہ اس کو سرانجام دیئے بغیر دم نہیں لیتے۔

ان کو بہت سخت گیر آفیسریا کارباری سمجھا جاتا ہے۔

جن لوگوں کا عدد 8 اور یوم پیدائش کا عدد 9 ہوتا ہے۔ ان کی ساری زندگی پریشانیوں میں کٹ جاتی ہے۔ بلکہ خود غرض اور ریاکار ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان کو ناکامیوں اور محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لئے یہ لوگ خود غرضی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان پر کوئی بھی بھروسہ کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوتا۔ ان کو احسان فراموش تصور کیا جاتا ہے۔ مگر اصل وجوہات کوئی نہیں دیکھتا۔

اپنے حالات سے تنگ آکر آدمی غلط فیصلے ہی کرتا ہے۔ تفکرات اور پریشانیوں سے چہرے کی خوبصورتی رخصت ہو جاتی ہے اور رنگت بھی سیاہی مائل ہو جاتی ہے مزید یہ کہ صحت بھی گرتی چلی جاتی ہے۔ جبکہ اکثر ان کو ان کے مزاج کے خلاف ہی خبریں ملتی ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ جاتا ہے۔ ان کے مزاج میں کسی پر بھروسہ کرنا ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان سے بہت سارے لوگ مخلص بھی ہوتے ہیں۔

ان لوگوں کو سینے کے امراض اور ٹی بی جیسی بیماری گھیر لیتی ہیں اور طویل عرصہ ان کا انہی بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے۔

جن لوگوں کا عدد 9 اور یوم پیدائش ایک ہوتا ہے۔ ان میں ایمانداری اور راست گوئی بہت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ ان لوگوں میں بد طینت لوگ بہت کم ملیں گے۔ وسیع القلب لوگ ہوتے ہیں۔ فطرت کے لحاظ سے نہایت عمدہ ہوتے ہیں۔ ان میں سوچنے سمجھنے اور سمجھانے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ لوگ بڑے سے بڑا کارنامہ بھی سرانجام دے دیتے ہیں۔

یہ لوگ جنگجو طبیعت کے حامل ہوتے ہیں اور ہمیشہ دنگ لہجے میں بات کرتے ہیں۔ جبکہ صاف گوئی ان کا شعار ہوتی ہے۔ اس لئے عوام ان کو اپنا ہیرو تصور کرتے ہیں۔ ڈر اور خوف تو ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا ہوتا ہے۔ اسی لئے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ کسی کو بلا وجہ کبھی تنگ نہیں کرتے۔ مگر ان کو اگر تنگ کیا جائے تو ہر قسم کے حالات میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔

یہ بڑے سخت منظم اور سخت گیر ہوتے ہیں۔ اسی لئے ان کی اشیاء بہت ہی کم ادھر ادھر ہوتی ہیں۔ ان کو اکثر زخم بھی لگ جاتے ہیں۔ مگر زخم ان کو پریشان نہیں کرتے۔ ناگمانی مصائب و آلام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اچانک حادثات کا ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے۔

یہ لوگ سرخ رنگت کے مالک ہوتے ہیں اور مضبوط ڈیل ڈول رکھتے ہیں۔ ان کی آنکھیں پرکشش اور چمکدار ہوتی ہیں۔ جبکہ انہیں جنس مخالف سے کوئی خاصی رغبت نہیں ہوتی۔ جن سے شادی ہو جاتی ہے۔ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔

تمام اعداد کے حالات مختصر تحریر کر دیئے ہیں۔ یہ محض اس لئے تحریر کئے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک عدد کا حامل ہے تو اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر آسانی سے قابو پاسکے اور کسی کو دوسرے کا عدد معلوم ہو تو اس کی کمزوریوں کو نظر انداز کر سکے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو دور بھی کر سکے۔

اگر کسی کو اپنا عدد معلوم ہو تو وہ اپنی شخصیت کو بہت اچھی طرح جان سکتا ہے۔ پھر اپنی صلاحیتوں سے پورا پورا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ جبکہ اپنی خامیوں کو دور بھی کر سکتا ہے۔ ایک اچھا مستقبل اس کا منتظر ہوتا ہے۔

الف

نام کا ابتدائی صرف	الف
برج کا نام	حمل
ستارے کا نام	مریخ
موافق پھل	سورج بھی
موافق رنگ	سرخ
موافق پتھر	لعل، حجر الالم، حجر سیلان
اعداد	1

حمل اور مریخ کے باہم ملنے سے اثرات

فیاضی اور حکمرانی کا جذبہ نیز خود غرضی اور انانیت کا جذبہ ان لوگوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ انانیت اور خود غرض طبع کی وجہ سے کبھی کبھار ازدواجی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ مگر غیروں سے تعلقات بہتر رکھتے ہیں، اپنے اعزاء سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ترقی کے از حد خواہاں ہوتے ہیں، ان میں حکم چلانے کا جذبہ، اعلیٰ سرکاری حکام سے رابطہ کی سعی۔ بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ خود نمائی کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ بلاشبہ ان کا ذہن ہر وقت کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا ہی سوچتا رہتا ہے۔ عقل مندی ان کی سرشت میں شامل ہوتی ہے۔

نام	مذکر / مؤنث	بہان	عدد	مطالب و معانی
آزاد	صفت	فارسی	4	بے فکر، بے غم، قید سے چھوٹا ہوا، خود مختار، عام طور پر آزاد کو بطور لقب ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ ابوالکلام آزاد اور خطیب شاہی مسجد کا نام ہے مولانا عبدالقادر آزاد
آدم	مذکر	عربی	9	حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے۔
آباد	مذکر	فارسی	8	رونق والا، بھرا پرا، اس کو عام طور پر آبادیوں کے ناموں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اسلام آباد، فیصل آباد۔
آزر	مذکر	عربی	1	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بڑا شہنشاہ کا نام۔ مطلب اس کا ہے کسی چیز کا احاطہ کرنا اور آگ کے معنوں میں بھی مستعمل ہے۔
آرزم	مذکر	عربی	5	جنگ، لڑائی، جنگ۔
آرندہ	مذکر، صفت	فارسی	8	میاں کرنے والا، مجموعہ، اکٹھا کرنا۔
آصف الدولہ	مذکر	عربی، اردو	4	اودھ کے نواب کا نام جو اپنی فیاضی اور ادب نوازی میں یکتا تھا۔
آصف جاہ	مذکر	فارسی، اردو	9	مغل امرا کا لقب، مطلب اس کا ہے بلند مرتبہ والا۔
آصفیہ	مؤنث	فارسی	6	لائق و فائق، ضبط و تحمل کی حامل
آسیہ	مؤنث	اردو، ہندی	3	فرعون کی مومنہ بیوی۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
آسیا	مونث	فارسی	9	بھروسہ، امید کی کرن۔
آبدار	مذکر	فارسی	1	شیشے کی مانند صاف، چمکدار
آبدار	صفت	فارسی	9	آب و تاب، موتیوں جیسی چمک
آغا پنا	مونث	اردو	5	ہنگال کی مینا
آبرو	مونث	عربی	2	عصمت، عزت، بزرگی، نیک نامی
آدرش	مذکر	اردو	1	شیشہ، اصول سیرت
آتش	مذکر	فارسی	8	آگ، اردو کے معروف شاعر خواجہ حیدر علی آتش کا تخلص
آبتون	مذکر	فارسی	4	فریدون کے باپ کا نام، جو ایران کا ساتواں بادشاہ تھا۔
آبص	مذکر	عربی	3	خوش نصیب، شاداں و فرحاں
آرب	مذکر	عربی	5	توانا، مستحکم، مضبوط
آریز	مذکر	عربی	2	قومی راہنما
آرب	مذکر	عربی	5	عقل و فہم والا
آژ میر	مذکر	فارسی	6	پرہیزگار، چاق و چوبند
آفندی	مذکر	ترکی	1	محترم، سلطنت عثمانیہ میں افسروں کا لقب
آفریدی	مذکر	فارسی	8	بختونوں کے ایک قبیلے کا نام
آلبوج	مونث	فارسی	6	میٹھی، مصری کی ڈلی
قرباب	مونث	فارسی	1	ملاپ، یکجائی
آبنوس	مذکر	عربی	8	ایک قیمتی سیاہ رنگ کی لکڑی
آرائش	مونث	فارسی	7	سجاوٹ، دکھاوا
آشم	صفت	عربی	9	عاصی، گنہگار، عام طور پر شاعر حضرات اس کو بطور تخلص اختیار کرتے ہیں

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
آخذ	صفت	عربی	5	حاصل کرنے والا، گرفت میں لینے والا
آدھین	مذکر	اردو	7	عاجزی سے پیش آنے والا، اطاعت کرنے والا
آصف	مذکر	عربی	9	لائق، قابل، عبور رکھنے والا
آئینکت	مذکر	ترکی	8	سعد چاند
آئق	مذکر	عربی	7	خوش و خرم ہونا
آئینور	مذکر	ترکی	6	چاند کا ہالہ
آسودہ	مذکر	فارسی	4	خوشحال، خوش باش، امیر کبیر
آس	مذکر	فارسی	7	امید، طلب، خواہش
آفاق	مذکر	اردو، فارسی	2	آسمان کے کنارے، افق
آثر	مذکر	عربی	8	بلند آسمان مصمم ارادہ
آزف	مذکر	عربی	8	قرابت دار، عزیز از جان
آشام	مذکر	فارسی	9	بھرا ہوا، پینے والا، تکبر کی چال والا
آشفقت	مذکر	فارسی	3	حیران، عاشق ایک نامور شاعر کا تخلص
آقا	مذکر	اردو	3	مالک، آقا، عزت والا
آتیہ	مونث	فارسی	6	توقع، آنے والی، مہیا کرنے والی
آئمہ	مونث	عربی	6	گناہ گار عورت غلط کار
آولہ	مونث	عربی	4	دلیل دینے والی، پختہ بات کرنا
آراش	مونث	فارسی	1	تلی، راحت، الفت
آزلہ	مونث	عربی	8	منع کرنے والی، بچانے والی
آسرہ	مونث	اردو	1	امید، سہارا
آسمہ	مونث	فارسی	7	ششدر، حیران
آفرین	مونث	فارسی	8	نعرہ تحسین، تعریف کرنا، ہمت افزائی کرنا

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
آلفہ	مونث	عربی	8	اپنی طرف راغب کرنا، الفت جتانہ
آمغہ	مونث	عربی	2	سچ، حقیقت
آنسہ	مونث	عربی	7	محبت کرنے والی، کنواری
آمنہ	مونث	عربی	5	سرکار دو عالم کی والدہ ماجدہ کا نام ثانی ہے۔ مطلب راست باز، مطمئن اور بے خوف و ڈر
آنیہ	مونث	فارسی	2	جانب، اتاد خود داری
آویز	مونث	فارسی	6	محبت، متوجہ کرنا، اچھا لگنا
آئلہ	مونث	ترکی	5	چاند جیسی
آزہ	مونث	ترکی	4	قابل عزت
آلمیہ	مونث	عربی	2	چاند
اللہ	صفت	عربی	4	خالق کائنات کا ذاتی نام
احمد	صفت	عربی	8	اللہ کریم کی حمد و ثنا کرنے والے، نبی اکرم کا نام ثانی اسم گرامی
ابراہیم	مذکر	عربی	7	الشہاک کے ایک پیغمبر کا نام
اسماعیل	مذکر	عربی	5	سیدنا ابراہیم کے صاحبزادے کا نام
ابوبکر	مذکر	عربی	6	خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق
اجسام	مذکر	عربی	9	جائز، اجازت
ابسام	مذکر	عبرانی	5	امن کا داعی
امیرار	مذکر	عربی	8	پاک باز، پرہیزگار
ابراز	مذکر	فارسی	4	بھید کھلانا، ظاہر کرنا
ابرام	مذکر	عربی	1	حاجت، مضبوط گرفت
اثرہ	مونث	عربی	2	کسی چیز کا اثر، نتائج

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالبت و معانی
اجالا	مونث	اردو	4	روشنی
ایریق	مذکر	عربی	7	چمکتی تلوار، چھانگل
ایڑ	مذکر	عربی	1	آسان، بلند و بالا، عالی رتبہ
ابوعبیدہ	مذکر	عربی	8	ایک صحابی کا نام جن کا شمار عشرہ مبشرہ کی پاک ہستیوں میں ہوتا ہے
اجرہ	مونث	فارسی	2	بدلہ، انعام و اکرام، تحفہ
اجیہ	مونث	فارسی	1	نمائت عالی شان، بہت خوب
اباط	مذکر	عربی	1	کشادہ ترین، چوڑا، وسیع
ابشام	مذکر	عربی	2	ایک درخت جو خوشبودار ہے
احصہ	مونث	عربی	4	مضبوط کرنا، بچتہ کرنا، پائیداری
احلاء	مونث	عربی	4	مشاس، شیریں
احمر	مذکر	عربی	6	سرخ رز
احمرن	مونث	عربی	4	سرخ رنگت والی
ابصار	مذکر	عربی	6	دیکھنا، علم حکمت
ابيض	مذکر	عربی	3	انڈے کی طرح سفید
احواد	مونث	عربی	2	سیاہ آنکھوں والی، بے حد خوبصورت
اختر	مذکر	فارسی	6	مطلب ستارہ، مقدر
اؤفیرین	مونث	عربی	6	بلند رتبہ والی
انابک	مذکر	ترکی	1	حفاظت کرنے والا، تعلیم دینے والا
اتصاف	مذکر	عربی	5	تقریف کرنا، صفت بیان کرنے والا
اتحاف	مذکر	فارسی	4	اتحاف دینے والا
اتمام	مذکر	سندھی	8	روایت، تاریخ، حکایت
ادالہ	مونث	عربی	5	دولت و ثروت، فتح مندی

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
ازاحت	مونث	عربی	3	کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی
ازالہ	مونث	عربی	8	علیحہ کرنے والی، بدلہ
ازلہ	مونث	عربی	7	تیز رفتار سفر، رخت سفر باندھنا
اثیر	مذکر	فارسی	9	بلند آسمان، عرش بریں
اثیل	مذکر	فارسی	1	عالی خاندان کا چشم و چراغ
اجمل	مذکر	عربی	2	بلند رتبہ، خوب رو
اجمال	مذکر	فارسی	3	قلیل، مختصر
اجمر	مذکر	عربی	1	تیز رفتار
اجود	مذکر	فارسی	5	دانا، عقل، فہم و فراست
اجلال	مذکر	اردو، فارسی	2	بزرگی، شاہ، عظمت و حشمت
اجیالہ	مذکر	اردو	5	روشنی والا، چمک دمک والا
اؤکیہ	مونث	عربی	7	عقل والی، دانائی والی
اؤمہ	مونث	عربی	8	اختیار، حق، عزت، حفاظت
اؤین	مونث	فارسی	4	سجانا، سنوارنا
اریدہ	مونث	عربی	4	پسند کی جانے والی، طلب کی جانے والی
آروین	مونث	فارسی	5	امتحان، آزمائش
اشیم	مذکر	عربی	2	عاصی گناہ گار
احتشام	مذکر	عربی	3	بلند رتبہ، بزرگی، شان
اخلاص	مذکر	اردو، عربی	2	بغیر مطلب کے، خلوص سچی دوستی، کلام اللہ کی ایک سورہ
اخیر	مذکر	عربی	2	آزمائے والا، خبر دینے والا
اخلاق	مذکر	عربی، اردو	3	خصائل، عادات
احتضار	مذکر	عربی	7	آواز ہونا، حاضر ہونا

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
اجتنبی	مذکر	عربی		پسندیدہ، چنا ہوا
اخضر	مذکر	عربی	8	سرسبز، ہرا بھرا
اخوت	مذکر	عربی	8	بھائی چارہ، برادری
ارقم	مذکر	عربی	8	لکھاری، رقمطراز، مشہور صحابی رسول جن کا گھر دارالارقم پہلا گھر تھا۔ جہاں نبی کریم، اصحاب کرام، کو تبلیغ دین فرماتے تھے۔ اس گھر میں امیر حمزہؓ اور فاروق اعظم مشرف بہ اسلام ہوئے۔
ارحام	مذکر	عربی	7	رحم، رحم کرنے والا
ارتضیٰ	مذکر	عربی	7	پسند کیا گیا، راضی ہوا
ادریس	مذکر	عربی	5	مشہور پیغمبر، درس دینے والے
ارسطو	مذکر	فارسی	6	یونان کا شہرت یافتہ دانشور، عقل و فہم والا
ادیم	مذکر	عربی	1	سرخ رنگت والا، خوشبودار چمڑا
ارقام	مذکر	عربی	9	رقطراز ہونا، لکھنا
ادیب	مذکر	عربی	8	ادب لکھنے والا، لکھاری
ارنی	مذکر	عربی	3	کسی کی حفاظت میں آنا
ازفر	مذکر	عربی	9	عالی رتبہ لوگ
ارفع	مذکر	عربی	9	عالی درجہ، بلند وبالا
اذعان	مذکر	عربی	2	تابع فرما، اطاعت گزار
ارسی	مذکر	عربی	4	جما ہوا، ثابت قدم
ارفعہ	مونث	عربی	5	عالی شان رتبہ والی
ازفیہ	مونث	عربی	8	کسی کی حفاظت میں آنے والی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ارما	مونث	ترکی	8	منضوط، طاقتور
از غلہ	مونث	عربی	5	خوش کرنے والی
ازلفہ	مونث	عربی	6	راہنمائی کرنے والی
استے	مونث	ترکی	2	چاہے جانے والی، خواہش کی جانے والی
ارشاد	مذکر	عربی	2	حکم، نصیحت
ارکن	مذکر	ترکی	9	علی الصبح، صبح صادق
ارزاق	مذکر	عربی	3	باران رحمت، بارش
ارسلان	مذکر	فارسی	8	ایران کے سلجوق خاندان کا بادشاہ، تحفہ
ارتاخ	مذکر	عربی	4	چست و چالاک، خوش اطوار
ازہاب	مذکر	عربی	7	مالک مختار، پالنے والے
ارشند	مذکر	عربی	1	ہدایت پانے والا
اسماء	مونث	عربی	3	حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی اور حضرت زبیر بن العوام کی زوجہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ماجدہ، جو آنحضرت کی خطاب یافتہ تھیں۔
اشنہ	مونث	عربی	8	خوشبودار، معطر
اسمر	مونث	عربی	4	گندم گوں رنگت والی
اشکما	مونث	عربی	2	دشوار، مشکل، جنگل
ارشق	مذکر	فارسی	7	عزت والا، بلند رتبہ
ارباب	مذکر	اردو عربی	8	پالنے والے، پرورش کرنے والے
اریل	مذکر	ترکی	7	مردانگی کا شکار، بے خوف
ازاعت	مونث	فارسی	2	مشہور و کرنے والی نمایاں کرنے والی
اریس	مذکر	عربی	1	کھیتی باڑی کرنے والا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
اریب	مذکر	عربی	6	عقل و فہم والا، دانائی والا
ارتضیٰ	صفت	عربی	7	پسندیدہ ہونا
اسدہ	مونث	عربی	7	اسد کی مونث شیرنی
اشہر	صفت	عربی	2	مشہور، مقبول
اسیاف	مونث	عربی	8	ڈھیر سازی تلواریں
اشک	مونث	ترکی	6	روشنی، جبکہ اردو میں آنسو
اصقہ	مونث	عربی	7	قریب کرنا، ملانا
اردم	مذکر	ترکی	2	دیانت دار، اعلیٰ ظرف، عالی سیرت
اردل	مذکر	ترکی	1	مردانہ وجاہت، بہادر، جری مرد
ارمغان	مذکر	فارسی	5	تحفہ، سوغات
ارید	مذکر	عربی	8	چاہت، خواہش
ازہر	مذکر	عربی	6	روشنی، ٹکھری رنگت والا، مصر کی ایک مشہور یونیورسٹی جامعہ الازہر
ازحف	مذکر	عربی	6	بلند رتبہ، عالی ہمت
ازہران	مذکر	عرب	3	سورج اور چاند
ازرق	مذکر	عربی	2	نیلا آسمان
اصابت	مونث	عربی	8	راست گو، پابندی
اسوہ	مونث	عربی	9	چال، روشنی، نمونہ، مثل
افشانده	مونث	فارسی	8	چہرہ کا ہوا، چمکایا ہوا
افشان	مونث	فارسی	9	طلائی سفوف
ازہار	مذکر	فارسی	7	رغبت رکھنا، چاہنا، اختیار کرنا، کلیاں
ازداد	مذکر	عربی	6	اضافہ کرنا، بڑھانا
ازعم	مذکر	عربی	1	اطاعت گزار

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
اسامہ	مذکر	عربی	8	ایک مشہور صحابی اور صحابی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زیدؓ کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا
اسطر	مذکر	فارسی	9	ترازو، مساوی
اسحاق	مذکر	عبرانی	8	مشہور پیغمبر، حق پر قائم رہنے والا
اسفہار	مذکر	فارسی	9	اجالا ہونا، نکھر اہونا
اسجل	مذکر	عربی	4	اچھے کام کرنے والا
اخبا	مونث	عربی	8	کسی کا ہاتھ تھامنے والی
افسوں	مونث	فارسی	8	مبہوت کرنا، جادو کرنا
اطارت	مونث	فارسی	8	اونچی اڑان، بلند پرواز
افروں	مونث	فارسی	9	پھلنا، پھولنا، ہرواں چڑھنا
اسحر	مذکر	عربی	8	طلوع صبح
اسار	مذکر	فارسی	5	فسانہ شب
اسفندیار	مذکر	عربی	1	ایرانی فوج کا مشہور جرنیل حق قدرت
اسد	مذکر	عربی	2	شیر، حضرت امیر حمزہؓ کا لقب اسد اللہ واسد الرسولؐ
اسکندر	مذکر	فارسی	2	یونان کا فاتح اعظم، عربی محققین اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں
اسرار	مذکر	عربی	3	بہید، راز، خفیہ باتیں
اطالہ	مونث	فارسی	1	طویل
افزیشم	مونث	فارسی	1	ریشم جیسی نرم و ملائم
اظہرہ	مونث	عربی	8	جھکانا، خم دینا
افرہ	مونث	فارسی	7	ماہر، کھلا ہوا نمایاں

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
اسعاد	مذکر	فارسی	1	حمایت کرنا، امداد کرنا
اسلم	مذکر	عربی	5	حد درجہ محفوظ
اسلام	صفت	عربی	6	اللہ کریم کا پسندیدہ دین، اطاعت کرنا
اسعد	مذکر	عربی	9	خوش نصیب، مددگار
اسلان	مذکر	ترکی	7	تیر
اسعاف	مذکر	فارسی	5	کسی کی حاجت پوری کرنا، مددگار
اسعار	مذکر	فارسی	8	بھاؤ ناؤ کرنا
اطمہ	مونث	عربی	1	بلند کرنا
اطلعه	مونث	عربی	7	ستارے طلوع ہونا
اعتلہ	مونث	عربی	1	بلندی
افرحہ	مونث	فارسی	6	خوش کرنے والی
افروزہ	مونث	فارسی	4	روشن کردہ، شمع
افروز	مونث	فارسی	8	چمکدار
افشین	مونث	فارسی	9	افشاں سے بھرپور
افراح	مونث	فارسی	2	خوش کرنا، فرحت دینا
افضاء	مونث	عربی	9	وسیع و عریض، جگہ، راز بتانا
افق	مونث	عربی	1	از حد کھلا، آسمان
اسباب	مذکر	فارسی	6	باتونی، جنگلوں کا راہی
اسید	مذکر	عربی	3	صحابی، کانام شیر پالنے والا
اسہام	مذکر	عربی	8	بذریعہ تیر فال نکالنے والا
اسیف	مذکر	فارسی	7	تابع قرماں، اطاعت گزار
اسیر	مذکر	عربی	1	غلام، محبت و الفت میں گرفتار
اشبر	مذکر	عربی	8	فضیلت و بلند مرتبہ دینا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
اشہب	مذکر	عربی	2	شعلہ
امیہ	مونث	عربی	7	ذی عزت، عالی قدر، شاہزادی
اصغری	مونث	عربی	5	چھوٹی
اکبری	مونث	عربی	8	بڑی، فضیلت والی
انوری	مونث	عربی	6	نور والی، روشنی کرنے والی
اقالہ	مونث	عربی	2	معذرت چاہنے والی، منکسر المزاج
الماظ	مونث	عربی	9	چکھنے کی چیز
اقراء	مونث	عربی	5	پڑھنے کا حکم
اشتیاق	مذکر	عربی	5	شفقت کی جمع، شفیق عنایات
اشتال	مذکر	عربی	3	بلند و بالا ہونا، بلند ہونا
اشبال	مذکر	عربی	1	مہربانی و کرم کرنا
اشبلی	مذکر	عربی	9	شفقت و احسان کرنا
اشتر	مذکر	عربی	1	حضرت علیؑ کے ایک جرنیل، پورا نام مالک اشتر
اشر	مذکر	عربی	6	شرارت کا شوقین
اشکن	مذکر	ترکی	2	تندرست و توانا
اقیہ	مونث	عربی	8	قیافہ، سوچ، خیالات
الماس	مونث	عربی	3	ایک چمکتا ہوا پتھر جس کو ہیرا بھی کہتے ہیں
اقلیم	مونث	فارسی	1	زمین کا ایک حصہ
الما	مونث	عربی	9	جس سے سب پیار کریں، خوش کن، دل پسند
البالہ	مونث	عربی	6	ایسی ڈبیہ جس میں خوشبو رکھی جاتی ہے۔

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
الجا	مونث	عربی	8	اپنے امور کو اللہ پر چھوڑ دینا، توکل کرنا
الغایہ	مونث	عربی	7	جتنا کی کلی
الفت	مونث	عربی	7	پیار، رغبت
اشرف	مذکر	عربی	5	بلند درجہ، شریف، بزرگ
اشباح	مذکر	عربی	6	بدن، جسم، قالب
اشب	مذکر	عربی	2	سیاہ گھوڑا
اشجع	مذکر	عربی	5	دیر بہادر، بے خوف
اشہاد	مذکر	عربی	5	گواہ
اشہر	مذکر	عربی	2	بے حد مشہور و مقبول
النساء	مونث	عربی	7	عورتوں کے ناموں کا جڑ
امنہ	مونث	عربی	6	سعادت مند، عالی قدر، رتبہ والی
امانہ	مونث	عربی	7	وفاداری، نبھانے والی، حفاظت کرتے والی
امواز	مونث	فارسی	1	نور، روشنی کرنے والی
الہ	مونث	عربی	4	امید، آس
الویہ	مونث	عربی	7	نشان علم، جھنڈا
امروزیہ	مونث	فارسی	8	آج کی خاتون، ٹالنے والی
اشہل	مذکر	عربی	3	روشن، چمکدار
اشغاف	مذکر	عربی	2	الفت و یگانگت کا دیوانہ پن
اشعر	مذکر	عربی	4	عقل و فہم میں یکتا، دراز بالوں کا مالک
المالت	مذکر	عربی	9	شرافت، پاکیزگی، اصل
المحارت	مذکر	عربی	8	اوپنی اڑان، بلند پرواز

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
اصغر	مذکر	عربی	4	چھوٹا، حضرت امام حسین کے صاحبزادے جو جنگ کربلا میں شہید ہوئے ان کا نام علی اصغر تھا
اصبر	مذکر	عربی	5	صبر دلانے والا، حوصلہ دینے والا
اضغور	مذکر	فارسی	3	دینار، طلائی رنگ
اضار	مذکر	عربی	7	علم عروض کے دیگر حروف
ام	مونث	عربی	5	ماں، خواتین کے ناموں کا ایک حصہ
امامہ	مونث	عربی	6	راہنما، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ
امبر	مونث	اردو	9	بادل، آسمان
امل	مونث	عربی	8	آرزو، خواہشات، تمنائیں
امرحہ	مونث	عربی	2	خوشیوں والی
امثال	مونث	عربی، اردو	5	تاییدار، فرماں بردار
امثلہ	مونث	عربی	9	مثال دینا، کسی کی مثال بننا
اصفیاء	مذکر	عربی	2	منتخب لوگ، عالی مرتبت اشخاص
اصمہ	مذکر	عربی	9	بددگار ہونا
اضاف	مذکر	عربی	9	جلد بازی، تیز رفتاری
اصباح	مذکر	عربی	2	صبح صادق
اصلاح	مذکر	عربی	4	غلطی دور کرنا، اچھی بات بتانا
اصفاح	مذکر	عربی	9	بات رد کرنا
اصدار	مذکر	عربی	8	ناظر کرنا، حکم صادر کرنا
اصلکان	مذکر	ترکی	2	شریف النسب
اشغاف	مذکر	عربی	2	محبت اور الفت کی وارفتگی
انگ	مونث	فارسی، اردو	2	ذوق و شوق، جوش

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
امید	مونث	فارسی 'اردو	1	خواہش، آرزو
امیہ	مونث	عربی	2	مادرانہ
امیرہ	مونث	عربی	4	صاحب حیثیت خاتون
امینہ	مونث	عربی	6	امانت دار خاتون، معتمد خاتون
امیدہ	مونث	عربی	6	انحضرت کی سگی بھوپھی، ہدایت دینے اور رہنمائی کرنے والی خاتون
اطراب	مذکر	فارسی	6	خوشیاں منانا
اعوان	مذکر	عربی	2	عون کی جمع، حامی و مددگار
اعتزاز	مذکر	عربی	9	پھیلاتا، خوبیاں، بہت پسند و عزیز ہونا
اطراز	مذکر	فارسی	2	نقش و نگار بنانے والا
اعلام	مذکر	عربی	7	باخبر کرنا، آگاہی دینا
اعتصام	مذکر	عربی	8	گناہوں سے خود کو بچانا، پارسائی اختیار کرنا
اطھر	مذکر	عربی	8	پاک و صاف
اتا	مونث	عربی	7	پندار، شعور
انیسہ	مونث	عربی	9	انس کرنیوالی، غم خوار
ایلا	مونث	اردو	2	بھولی بھالی، نادان اور معصوم
انجلا	مونث	فارسی	3	صاف چمکدار
انیقہ	مونث	عربی	4	نادر چیز، خوش آئند
انجم	مونث	عربی	4	ستارے
انیتا	مونث	عبرانی	2	خوبصورت، دل کو اچھی لگنے والی
انزیلہ	مونث	عربی	4	اترنا، نازل ہونا
انگبین	مونث	فارسی	7	شہد

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
انور	مونث	عربی	9	رحم دل، خوبصورت روشن کرنے والی
اعصام	صفت	عربی	4	مشک باندھنے کی رسی
اعظم	مذکر	عربی	3	بڑا، بزرگ
اطیب	مذکر	عربی	4	از حد پاک و صاف
اعظام	مذکر	عربی	4	عظمت و بزرگی
اعتماد	مذکر	عربی	1	دیدار کرنا
اطمان	مذکر	عربی	7	اطمینان و تسلی بخش
اعتدال	مذکر	عربی	2	یکساں، برابر، حدود میں رہنا
اعتصار	مذکر	عربی	6	حفاظت میں آنا
اظفر	مذکر	عربی	2	فتح مند، کامیاب و کامران
اظفار	مذکر	عربی	3	کامیابیاں، ظفر کا جمع، خوشبودار
اظہار	مذکر	عربی	9	عیاں ہونا
اظہر	مذکر	عربی	8	ظاہر ہونا، دکھائی دینا
اعضاف	مذکر	عربی	7	پرہیز گاری
انوشہ	مونث	فارسی	2	خوشیوں سے بھرا ہوا
انشراح	مونث	عربی	1	خوشیاں، عیاں
اوج	مونث	اردو	1	سر بلندی، ذی شان
ایواز	مونث	فارسی	7	آراستہ و پیراستہ
ایرہ	مونث	عبرانی	9	مخاطب
اوزگل	مونث	ترکی	1	بے حد خوبصورت، حسین و جمیل
افتخار	مذکر	عربی	4	سر بلندی، نمایاں عزت
افضل	مذکر	عربی	2	بڑائی، عالم نمایاں
انجام	مذکر	عربی	8	دلائل دینے والا

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
افریاب	مذکر	فارسی	3	توران کا بادشاہ
افہام	مذکر	عربی	4	عزت کرنا
افضال	مذکر	عربی	3	کرم کرنا، فضل کرنا
افغم	مذکر	عربی	5	خوشبو سے لبریز
افروز	مذکر	فارسی	6	چمکانے والا
الضح	مذکر	عربی	7	خوش گفتار
افراز	مذکر	فارسی	1	چوٹی، بلندی
افگن	مذکر	فارسی	7	زائر کرنے والا، اس نسبت سے عام طور پر لوگ شیر افگن نام رکھتے ہیں
افشار	مذکر	عربی	6	نچوڑنے والا
افہام	مذکر	عربی	1	عقل و شعور، آگہی
اوریل	مونث	لاطینی	4	چمکانا ہوا، طلائی
ایوا	مونث	عبرانی	9	حیات آفریں، زندگی، توانائی
ایراق	مونث	عربی	6	کلی کو تھیل
افراہیم	مذکر	عبرانی	4	پہلدار، نتیجہ خیز، شہر آور
افسر	مذکر	فارسی، اردو	8	صاحب عزت سردار
افراض	مذکر	عربی	2	سر بلند ہونا
اقمر	مذکر	عربی	8	چاند جیسا، خوبصورت، سفید
اقدار	مذکر	عربی	9	قدر کی جمع، خاندانی و قومی عزت
اقبال	مذکر	عربی	8	علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کا نام، طالع، اقرار، تقدیر، اعتراف
اتدا	صفت	عربی	2	پیر و کار، تدبیر والا
اتسط	صفت	عربی	8	انصاف کرنے والے

نام	مذکر / مؤنث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
اقدس	صفت	عربی	3	پاک و صاف، عالی مرتبہ
اقدار	صفت	عربی	4	حکومت، اختیار
اقامت	صفت	عربی	2	قائم ہونا، قرار
اقدام	صفت	عربی	1	اولیت دینا، مقدم
اقطاب	صفت	عربی	5	اولیائے کرام کا ایک درجہ قطب کی جمع
اقرب	صفت	عربی	6	ملاپ، قریب کرنا
اقرار	صفت	عربی	7	آبادہ ہونا، یقین دلانا
اقلیم	صفت	فارسی	1	حکومت، کرہ ارض کا ایک حصہ
اکرام	مذکر	فارسی	1	کرم کرنے والے
اکمل	مذکر	عربی	1	تکمل، کامل
اکرام	صفت	عربی	1	عزت، امداد، کرم
اکرم	مذکر	عربی	9	مہربانی کرنے والا
اکنان	صفت	عربی	5	پردہ
اکمال	صفت	عربی	2	پورا کرنا، پائیہ تکمیل تک پہنچانا
اکبر	صفت	عربی	7	مغل بادشاہ جلال الدین اکبر، بہت بڑا
اکناف	صفت	عربی	8	مدد دینا
الاسلام	صفت	عربی	1	اللہ کی اطاعت کرنا
الباش	صفت	عربی	1	سربر آوردہ، حاکم
البحا	صفت	اردو، فارسی	3	رحم مانگنا، درخواست کرنا
البان	صفت	عربی	2	سفیدی مائل، ایک درخت کا نام
التش	صفت	ترکی	6	ہندوستان کے ایک سلطان کا نام سلطان
الحاف	صفت	عربی	4	شمس الدین التمش، ہراول دستہ نوازشات

نام	مذکر / مؤنث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
الدین	صفت	عربی	4	یعنی دین، ناموں کا ایک حصہ، مغل بادشاہوں نے اس کو ضرور استعمال کیا
الفت	صفت	عربی	7	چاہتا، پیار کرنا
الیاس	مذکر	عبرانی	3	ایک پیغمبر، اللہ کا پیارا
الماس	صفت	عربی	6	ایک قیمتی پتھر جس کو اردو میں ہیرا کہتے ہیں
امام	صفت	عربی	1	سردار، راہنمائی کرنے والا، پیش امام
امانت	صفت	عربی	6	رکھوائی ہوئی چیز تحویل میں دی ہوئی چیز
امجد	صفت	اردو، عربی	3	شریف النفس، بزرگ
البادر	صفت	عربی	4	سرعت العمل، جلد عمل کرنے والا
امان	صفت	عربی	2	حفاظت، آرام
امبر	صفت	اردو	9	آسمان
امیاز	مذکر	عربی	9	فرق، جدا
امیر	صفت	عربی	8	رئیس، حاکم
امین	صفت	عربی	2	آنحضرتؐ کا قبل از بعثت لقب، ایماندار اور امانت دار
انتخاب	مذکر	عربی	1	منتخب کرنا، پسند کرنا
انتصار	صفت	عربی	3	فتح، یاب ہونا
انتظار	صفت	عربی	4	راہ دیکھنا
انتمام	صفت	فارسی	3	معطر ہونا
انجم	مذکر	عربی	3	ستارے
انس	مذکر	عربی	3	آنحضرتؐ کے صحابی، آواز سننا
انشا	صفت	فارسی	9	ایک مشہور شاعر ابن انشا، عبارت لکھائی

نام	مذکر / مؤنث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
انصار	صفت	عربی	9	مددگار
انظام	مذکر	فارسی	1	مرتب کرنا، آراستہ کرنا
ایق	صفت	عربی	9	نادر، خوش آئند
انیس	صفت	عربی	3	ایک مشہور مرثیہ گو میر انیس، ہمدرد
اورنگ	صفت	فارسی	6	شاہی تخت
اورنگ زیب	صفت	فارسی	7	شاہی تخت جس کو زیب دے مغل بادشاہ کالقب
اولیں	مذکر	عربی	5	مشہور ہستی، حضرت اولیں قرنی، عطا کردہ
ایک	صفت	عربی	6	غلام، ایک بادشاہ قطب الدین ایک کا نام
ایلاک	مؤنث	عربی	9	نیا چاند
ایثار	صفت	عربی	5	قربانی، دوسروں کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کرنے کا جذبہ
اوکان	صفت	ترکی	5	تیر چلانے والا
اوغور	صفت	ترکی	3	شرافت کا پیکر، مشہور
ایشاق	صفت	فارسی	9	فولادی گرفت
ایجاز	صفت	عربی	4	مختصر کرنا
اعجاز	صفت	عربی، اردو	1	معجزہ، کرامات
ایراد	مذکر	عربی	9	دولت پہنچانا
ایلاف	صفت	عربی	5	باہمی پیار و الفت
ایغل	صفت	ترکی	9	آرزو، خواہش
ایوب	مذکر	عبرانی	1	پیغمبر مشہور کا نام، جن کے صبر کا ذکر کلام اللہ شریف میں آیا ہے

نام	مذکر / مؤنث	ب زبان	عدد	مطلب و معانی
ایقان	صفت	عربی	9	پختہ یقین کرنا اور ہونا
ایاز	صفت	عربی	1	سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام
ایلام	صفت	فارسی	3	بجلی، برق
احسن	مذکر	اردو، عربی	1	بہت نیک طینت، اچھائی کا حامل
ارشق	مذکر	فارسی	7	قد آور شخصیت، عالی قدر
الہی	مذکر	عربی	1	میرے اللہ، ناموں کا حصہ
امثال	مذکر	عربی، اردو	9	تابعدار، فرمان بردار
افقر	مذکر	عربی	3	فقیر طبیعت، غریب
اطق	مذکر	عربی	4	واقعی، ناموں کا حصہ، سچائی، اللہ سے نسبت
ادھم	مذکر	عربی	5	سیاہ سانپ، ایک ولی کامل حضرت ابراہیم بن ادھم

ب

نام کا ابتدائی حرف	ب
برج کا نام	ثور
ستارے کا نام	زہرہ
موافق پھول	سرخ و سفید پھول
موافق رنگ	زردی مائل، گلابی اور نیلا
موافق پھر	فیروزہ اور زمرہ
اعداد	2

نور اور زہرہ کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ علم ہندسہ سے رغبت رکھتے ہیں۔ ان کی فطرت میں جنگ و جدل کی بجائے صلح کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ اپنا نام مشہور کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے مذہب سے بہت ہی زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ جبکہ ان کے خیالات یکجہانیں ہو پاتے۔ حسن پرستی کے قائل ہوتے ہیں اور لڑائی مار کٹائی سے دور ہی ان کو دیکھا گیا ہے۔ انہیں غیروں سے زیادہ اپنے اعزاء سے پیار ہوتا ہے۔ اپنوں میں ان کو دلی راحت میسر آتی ہے۔ حکمرانی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ بلا کے بااخلاق ملنسار ہوتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
باقی	صفت	عربی	5	اللہ پاک کا صفاتی نام، ہمیشہ باقی رہنے والا، جس کو فنا نہ ہو، دیگر مطالب میں بچ جانے کو عام فہم زبان میں باقی کہا جاتا ہے
باقی باللہ	صفت	عربی	1	ایک مشہور ولی کامل کا نام
باقر	مذکر	عربی	6	امام باقر کا نام، شیر، عالم فاضل
باہو	مذکر	عربی	5	سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا نام، مطلب عصا
باری	مذکر	عربی	6	اللہ رب العزت، یعنی پیدا کرنے والا
باجل	مذکر	فارسی	9	صاحب عزت، عالی مرتبہ والا
بابر	مذکر	ترکی	7	شیر، مثل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر
بابرہ	مونث	اردو، فارسی	3	بابر کا مونث، مطلب شیرنی
بتول	صفت	عربی	6	سیدہ فاطمہؑ کا لقب، اظہر، کنواری
بتولہ	صفت	عربی	2	تارک الدنیا، کنواری
باکرہ	مونث	عربی	3	غیر شادی شدہ، کنواری، دوشیزہ
باترہ	صفت	عربی	4	تلوار
بارقہ	صفت	عربی	2	بجلی کی چمک، روشنی
بارک اللہ	صفت	عربی	9	اللہ کریم آپ پر برکتیں نازل فرمائے
بارق	مذکر	فارسی	6	روشن، اجلا
بالہ	مذکر	عربی	1	تلوار سے مسلح ہو کر لڑنا
باسط	مذکر	عربی	9	اللہ پاک کا صفاتی نام، پھیلانے والا
بابک	مذکر	فارسی	7	اصول، آئین
بادر	صفت	فارسی	9	چالاک، ڈرپوک
باعد	صفت	عربی	5	دور ہونے والا

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
بادرہ	صفت	فارسی	5	تیز رفتار، چالاک
بازغہ	صفت	عربی	7	چمکیلی، روشنی
بانو	مونث	فارسی	5	معزز خاتون، محترم خاتون
بادلہ	صفت	اردو	6	سونے اور چاندی کا تار، زربفت
باسطہ	مونث	عربی	9	باسطہ کا مونث، فراخی دینے والی
باقیہ	مونث	عربی	1	لافانی، ہمیشہ رہنے والی
بادسیر	مذکر	فارسی	7	معزز شخص
باصر	مذکر	عربی	5	دیکھنے والا، آنکھوں والا
بازق	صفت	عربی	2	انگور کا شیرہ
بادشاہ	مذکر	فارسی	6	حکمران
باطش	صفت	فارسی	6	سخت گیر
بازغ	مذکر	عربی	2	طلوع ہونے والا، چمکنے والا
بارج	مذکر	عربی	4	جگہ سے ہٹانا
باسل	مذکر	عربی، یونانی	3	عربی میں شیر، دلیر اور یونانی میں شاہانہ
بازل	صفت	عربی	4	صفات کا حامل
بارد	صفت	عربی	9	غنی، بخشش کرنے والا
باسق	مذکر	عربی	1	مال غنیمت
باسم	مذکر	عربی	4	اونچا، لمبا، بلند و بالا، اجلا
بازف	صفت	عربی	9	خوش مزاج
بایزید	صفت	فارسی	7	فخر کرنا، اترانا
بابو	مذکر	اردو	2	برکتوں والا، دولت مند، ایک ولی کامل
				حضرت بایزید بٹائی
				پڑھا لکھا، افسر، بڑا آدمی

نام	مذکر / مونث	بی زبان	عدد	مطالب و معانی
ہماء	مذکر	عربی	8	رونق، روشنی، ایک مشہور بزرگ حضرت ہماء الدین زکریا
باسبان	مذکر	ترکی	8	(برائی کو) جڑ سے اکھاڑا پھینکنے والا
باشی	مذکر	ترکی	7	افسرا علی
باسعود	صفت	عربی	8	بابرکت، مبارک
بانندہ	صفت مذکر	فارسی	7	جولاہا، کپڑا بننے والا
بالم	مذکر	اردو	1	محبوب، عاشق
باسمہ	مونث	عربی	9	پسنے والی
بستی	مونث	فارسی	5	عاجزی، نیاز مندی
بالک	مذکر	اردو، ہندی	8	چھوٹا بچہ، نادان
بالکا	مذکر	اردو، ہندی	9	مرید، شاگرد
بازکشا	مونث	فارسی	7	تمیز کرنے والی، پرکھنے والی
بالیدہ	صفت	فارسی	7	جوشیلا، روئیدہ
باندی	مونث	اردو	4	نوکرانی، کنیز
باشق	مذکر	عربی	7	تیز رفتار شکاری پرندہ
بابل	مذکر	اردو	8	والد
بارمان	مذکر	فارسی	6	توران کا بڑا پہلوان
باکی	مونث	ہندی	2	طرح دار عورت، رکھ رکھاؤ والی
باد	مونث	فارسی	7	ہوا
باشہ	مذکر	فارسی	2	شکاری پرندے کا نام
بارندہ	صفت	فارسی	1	برسنے والا
بازیاب	مذکر	فارسی	5	مل جانے والا، حاصل ہونے والا
باز	مذکر	فارسی	1	شاہین کو باز بھی کہتے ہیں

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
باطیہ	مذکر	عربی	9	جام و ساغر
بادہ	مذکر	فارسی	3	شراب
بادیہ	مذکر	فارسی	4	بڑا پیالہ، منک، صحرا، خیمہ
بادران	مذکر	عربی	6	فرشتے کا نام، پگھلایا ہوا دینے والا
بازگو	مذکر	فارسی	9	قصے سننے والا
باسلیق	مونث	اردو، یونانی	5	دل اور جگر سے ہاتھ تک آنے والی رگ
باننا	مونث	اردو، ہندی	6	خوشبو
باسلاح	مذکر	عربی	3	تھیاریوں سے لیس
باشلق	مذکر	ترکی	1	امیر، افسر اعلیٰ
باقل	مذکر	عربی	7	نوعمر لڑکا، سبزی فروش
بانخ	مذکر	فارسی	9	راستہ، طریقہ
باخویش	مذکر	فارسی	1	غوطہ خور، اپنے آپ میں مگن
باداش	مونث	فارسی	2	نیکی کا صلہ مکافات عمل
بادپا	مذکر	فارسی	1	تیز رفتار گھوڑا
بازک	مذکر	فارسی	3	باز کی قسم کا چھوٹا پرندہ، جو چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے
بمباز	مذکر	فارسی	6	سخت کوشی، محنت کرنا
بتید	مذکر	فارسی	9	از حد، بہت زیادہ
بخش	صفت	فارسی	2	عطا، عنایت
بخت رسا	مذکر	فارسی	3	قسمت کا دھنی
بختیار	مذکر	فارسی	6	اچھی قسمت والا، حضرت بختیار کالی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
بخاری	صفت	فارسی	3	بخارا شہر سے نسبت رکھنے والے عام طور پر اپنے نام کے آگے بخاری لکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے مؤلف حضرت ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری
بخور	مذکر	عربی	8	ایک ایسی لکڑی جس کو جلانے سے خوشبو آتی ہے
بھندن	مونث	عربی	1	دھان پان سی لڑکی
بدیل	مذکر	عربی	1	حکیم خاقانی کا نام
بدر	صفت	عربی	8	چودھویں کا چاند
بدین	مذکر	عربی	3	مونا، تنور
بدران	صفت	عربی	5	چودھویں کا چاند
بداغ	مونث	عربی	8	تکوار، پگھلتی شاخ
بداغ	مونث	عربی	6	وسیع و عریض، زمین
بدرقہ	مذکر	عربی	5	راہنمائی کرنے والا، سہارا دینے والا
بدو	مذکر	اردو	3	عربوں کے خانہ بدوشوں کو بدو کہا جاتا ہے
بدیا	مونث	اردو	8	علم جاننا، چالاکی
بدیسی	صفت	ہندی	5	اجنبی، غیر ملکی
بدھو	مذکر	اردو	8	کم عقل، بے وقوف
بدیع	صفت	عربی	5	نرالا، انوکھا، حیرت انگیز
بدہ	مونث	عربی	4	محترم خاتون
بختاور	مونث	عربی	3	خوش نصیب
بدیہ	مونث	عربی	3	چالاک، صاحب علم
بذل	مونث	عربی	3	سخاوت، چالاکی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
بذلہ	مونث	عربی	8	انعام، غنی، سخاوت، شوخی
بزم افروز	صفت	فارسی	1	محفل کو رونق بخشنے والا
بزم آرا	صفت	فارسی	8	محفل کا انتظام و انصرام کرنے والا
بر	مذکر	عربی	4	نیک اطوار
بر	صفت	اردو	4	زمین، خشکی
برکت	مونث مذکر	اردو، عربی	1	اضافہ، اللہ کا فضل و کرم
برجی	مذکر	عربی	4	خوشی کا اظہار
برار	مذکر	عربی	7	عہد پورا کرنے والا
برہان	مذکر	عربی	6	دلیل، ثبوت
بروگن	مونث	اردو، ہندی	8	فراق زدہ خاتون
بروگی	مذکر	اردو، ہندی	4	فراق زدہ مرد
برید	مذکر	فارسی	9	پیغام دینے والا
براعت	مذکر	اردو، عربی	7	وضاحت، فضیلت
برکات	مذکر	عربی	2	برکت کی جمع
برجیس	مذکر	فارسی	5	چھوٹے ستارے، مشتری
برقش	مذکر	عربی	8	ایک پرندہ جس کی آواز بہت ہی دلکش ہے
براہین	مذکر	عربی	7	برہان کی جمع، دلائل
برزم	صفت	فارسی	6	کرشمہ سازی، نغز، آرائیں
بریق	صفت	فارسی	6	چمکدار
برنی	مذکر	عربی	1	نوعمر، نوجوان
برید	مذکر	عربی	9	پیغامبر، قاصد
برناک	مذکر	فارسی	3	مندی، نوجوان

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
بریہ	مونث	اردو، عربی	1	مخلوق
برتاس	مذکر	فارسی	6	قدیم زمانے کے ایک پہلوان کا نام
برجسہ	مونث	عربی	6	برجیس کا مونث، ستارے، مشتری
برکہ	مونث	فارسی، عربی	2	فارسی میں اس کا مطلب ہے ستارہ سل جبکہ عربی میں افزائش اور اونٹ کی پشم کا ایک کپڑا
برینا	مونث	اردو	2	عزت والی خاتون، شہزادی
برین	مونث	فارسی، عربی	9	عربی میں اس کا مطلب ہے کم کاج اور فارسی میں دنیا، عالم
بزی	صفت	اردو، فارسی	5	بزم سے مطلقہ، محفل کی جان
بزرگ	مذکر	فارسی	49	بڑا، دانا
بزرجمہر	مذکر	فارسی	7	نوشیروان عادل کا ایک وزیر
بزجہ	مونث	عربی	4	سجانا، آرائیگی
بزمنہ	مونث	فارسی	9	بزی کی مونث، محفل کی جان
بڑول	مونث	فارسی	7	صدائے بازگشت
بزغالہ	مذکر	عربی	1	بکری کا بچہ
بسم اللہ	صفت	عربی	5	(شروع) اللہ کے نام سے
بسیط	صفت	عربی	9	کھلا، وسیع و عریض، فراغ
بستان	مذکر	فارسی	9	باغ، چمنستان
بسام	مذکر	عربی	4	مکراتے والا
بسل	مذکر	فارسی	6	بے قرار، زخم خوردہ
بسات	مونث	اردو، عربی	7	دلیری، ہمداری، پاکستان کا فوجی سرکاری اعزاز تمغہ بسات

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
بستان افروز	مذکر	فارسی	6	چمن کی رونق
بستانی	مونث	فارسی	9	بستان کی مونث
بساک	مذکر	فارسی	2	پھولوں کا وہ تاج جو دلہا کے سر پر رکھا جاتا ہے
بسملہ	مونث	فارسی	4	بیکل کی مونث
بسیم	مذکر	عربی	4	ہیشہ مسکرانے والا
بشمول	مذکر	فارسی	9	شامل کرنا
بشری	مذکر	عربی	7	اچھی خبر، خوشی و شادمانی
بشیر	مذکر	عربی	8	خوشخبری دینے والا، خوب رو
باط	مذکر	اردو، عربی	9	عزم و حوصلہ، خطر نچ کھیلنے کا تختہ
بشاش	صفت	اردو	9	خوش و خرم
بشاشت	صفت	اردو، عربی	1	خوشی، خنداں، پیشانی، اخلاق
بشارت	صفت	عربی، اردو	3	خوشی کی قبل از وقت خبر
بشیرہ	صفت مونث	اردو، عربی	4	بشیر کی مونث، خوشخبری دینے والی
بشرہ	صفت	عربی، اردو	3	چہرہ، کھڑا
بشمہ	مونث	فارسی	5	ایک خود رو بوٹی
بصیر	صفت	عربی	5	اللہ کریم کا صفائی نام، دیکھنے والا
بضاعت	مونث	اردو، عربی	4	دولت، جمع پونجی
بصیرت	صفت	عربی، اردو	9	روشنی، عقل و فہم
بصراحت	مذکر	فارسی	8	آرام سے، بھول کر وضاحت کرنا
بصامن	مذکر	عربی	3	روشن و چمکدار آنکھوں والا
بعابہ	مذکر	عربی	6	درویش صفت
بعازی	مونث	فارسی	3	محنت کا اجر

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالع و معانی
بغدادی	صفت	فارسی	4	بغداد سے تعلق رکھنے والا
بطحا	صفت	عربی	2	مدینہ شریف کا ایک نام، وسیع و عزیز
بطل	صفت	اردو، عربی	5	پهلوان، بہادری اور دلیری کا پیکر
بطلال	صفت	عربی، اردو	1	جھوٹا، خود غرض
بطالت	صفت	عربی، اردو	1	شجاعت، دلیری
بعیر	مذکر	عربی	3	اونٹ
بقار	مذکر	عربی	6	گلوکار
بکر	صفت	عربی	6	آگے بڑھنا
بکیت	مذکر	فارسی	9	بانکا، بھلا
بلال	مذکر	عربی	9	حضرت سیدنا بلالؓ، "موذن رسول کریم"
بلعمہ	مذکر	فارسی، ہندی	5	مطلب، فتح مند ہونا
بلند	مونث	عربی	5	فارسی میں لمبی اور گھنی داڑھی، جبکہ ہندی میں محبوب کو کہتے ہیں
بلیناس	مذکر	فارسی	9	جوانی، تازگی
بلعش	مذکر	عربی	5	عظیم فاتح سکندر اعظم کا وزیر اور ہمارا
بلکا	مذکر	فارسی	8	زردی کی طرح کا ایک جوہر
بلک	مذکر	فارسی	7	آرزو مند
بلاس	مذکر	ہندی	3	نئی چیز، تحفہ، اردو میں بلکنا رونے میں مستعمل ہے
بلغ	مذکر	فارسی	7	خوش و شادمانی
بلاد	مذکر	عربی	6	خوش گفتار، خوش بیان مقرر
				سندھ کے ایک صوفی بزرگ

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
بلقیس	مونث	اردو، عربی	4	ملکہ سبا کا نام
بلین	صفت	فارسی	3	خاندان غلاماں کا ایک سلطان غیاث الدین بلین
ہلت	مذکر	ترکی	9	بلند و بالا، اونچا
بلخ	مذکر	عربی، فارسی	2	خراسان کا ایک معروف شہر، غرور کرنا
بندہ نواز	صفت	اردو، فارسی	8	غریب پرور، بطور عقیدت کسی کو مخاطب کرنا
بنیاد	مونث	فارسی، اردو	4	ابتدا
بندیا	مونث	اردو، ہندی	4	بندی، بوندی، ہندو عورتوں کی پیشانی پر لگائی جاتی ہے
بندیلہ	مذکر	اردو، ہندی	7	ایک ہندو قبیلہ
بنی	صفت	اردو، ہندی	5	بانسری، بندے سے بچانے والا ایک ساز
بندہ	صفت	اردو، فارسی	7	غلام، محتاج
بلبل	مونث	فارسی	1	خوش آواز پرندہ
بونیٹا	مونث	لاٹینی	1	خوبصورت، اچھی
بناء	مونث	عربی	8	ایسی قیمتی چیز جو قابل فخر ہو، رونق
بہیمہ	مونث	فارسی	8	روشن تابناک
بہار	مونث	فارسی، اردو	1	ایک موسم کا نام جس میں پھول کھلتے ہیں
بہمن	صفت	فارسی	4	نامور، اعلیٰ، بہترین
بہنام	صفت	فارسی	7	اچھا نام
بہجت	صفت	عربی	5	خوبصورتی، شادمانی
بہادر	صفت	فارسی	5	بے خوف، دلیر
بہراض	مذکر	فارسی	9	ہفت رنگ ریشم، سرخ یا قوت

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
بلول	صفت	فارسی	8	ایک ولی کامل کا نام قوم کاراہنما
بہمن	ذکر	فارسی	7	زمانہ قدیم میں ایران کے شاہ کا نام چالاک، ذہین
بہروز	صفت	فارسی	4	سعد، مبارک دن
بہرام	ذکر	فارسی	5	مرخ ستارہ، زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ
بحر	ذکر	اردو، عربی	3	سمندر، شعر کا وزن
بحار	ذکر	اردو، عربی	4	سمندر
بہاگیر	ذکر	فارسی	4	نفیس چیز، قیمتی
بہامین	مونث	فارسی	9	موسم بہار
بہاور	مونث	فارسی	7	قیمتی، نادر
بہرگی	ذکر	فارسی	1	دولت مند، مال و دولت
بہمکل	ذکر	عربی	3	فرہی مائل مرد
بورین	صفت	ترکی	7	جس کی کاک تیز ہو
بوزکرت	ذکر	ترکی	5	مقدس متبرک
بوستان	ذکر	فارسی	0	پھولوں کا باغ
بہتوی	ذکر	عربی	6	ایک مشہور عرب شاعر
بوطالب	ذکر	عربی	5	حضرت علیؑ کے والد ماجد کی کنیت
ابوبکر	ذکر	عربی	5	ابوبکر صدیقؓ
بوا	مونث	ہندی، اردو	9	بہن، آپا
بہرم	صفت	اردو، فارسی	4	اعتبار، وقار، ساکھ
بوعلی	ذکر	عربی	1	ولی کامل حضرت بوعلی قلندر
بینظیر	صفت	فارسی	2	پاکستان کی ایک وزیر اعظم کا نام ہے مثل لافانی، بے بدل

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
بیدار	مذکر	فارسی	1	جاگنا، باشعور ہونا
بہم	مذکر	فارسی	9	خوشی منانا
بیگم	مونث	ترکی	9	سردار کی بیوی، بیگ کی مونث، عزت والی عورت
بیگ	مذکر	ترکی	5	سردار، افسر
بیراگی	مذکر	اردو، ہندی	9	دنیا سے منہ موڑنے والے درویش اور جوگی
بیراگن	مونث	اردو، ہندی	4	بیراگی کی مونث، درویش عورت، یا فقیر کی بیوی
بیٹا	صفت	عربی	9	خوبرو، خوشخبری سننے والا
بیدل	مذکر	فارسی، اردو	1	دل شکستہ، ناامید، عاشق
بیدم	مذکر	اردو، فارسی	2	تھکا ہوا، عاشق نامراد، ایک نامور شاعر
بیرن	مذکر	اردو	1	بیدم وارثی
بیطار	مذکر	اردو، عربی	6	تعلقہ دار، جاگیردار
بیوتی	مونث	اردو، ہندی	5	سلوتری، ماہر حیوانات
بیگانہ	صفت	فارسی	7	خوشبودار بیوتی
بیاد	مونث	فارسی	8	لا تعلق، غیر
بیرق	مونث	اردو	6	ہوشیاری، بیداری
بیگانی	مونث	اردو	3	نشان، جھنڈا
باز	مذکر	ترکی	2	بیگانہ کی مونث
بیاض	مذکر	اردو	2	تکوار کی چمک، سفیدی
بینا	صفت	فارسی	9	شاعری کا کلام، سود
				دیکھنے والا، عقل والا

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
بیان	صفت	عربی	9	آگاہی، ظاہر کرنا
بیضا	صفت	عربی	3	سفیدی، روشنی
بیروز	مذکر	ترکی	9	بہر رنگ کا ایک پتھر
بیدار بخت	صفت	فارسی	4	بخت جاگنا، قسمت جاگ اٹھنا
بیدا	صفت	فارسی	8	میدان
بیلا	مذکر	اردو	7	ایک پھول کا نام
بینا	مذکر	ترکی	9	عمارت
بے نیئا	مذکر	لاطینی	5	جس پر اللہ کی رحمت ہو
بیریل	صفت	عبرانی	9	قیمتی جواہر
بنشش	مونث	فارسی	2	عقل مند
بنت	مونث	عربی	1	بٹی
بن	مذکر	عربی	6	بیٹا
بریار	صفت	اردو، ہندی	8	زر خیز، زمین، طاقتور
بی بی	مونث	اردو	6	نیک خاتون، بیگم
بوٹم	مذکر	ترکی	7	شیر خوار بچہ
برید فلک	مذکر	فارسی	4	چاند، زحل، بزنج
بائندہ	صفت	فارسی	7	کپڑا ماننے والا
بھائی	مذکر	عربی	5	ناقابلِ فتا، بھائے متعلق، ایک معروف
				ولی شیخ بھائی بن لہو
بانکا	صفت	اردو، ہندی	2	خزے والا، زوال لکھنؤ کے اسباب میں
				اس نام کو بھی ایک درجہ حاصل ہے اس
				زمانے میں بگڑے ہوئے رئیس زادوں
				نے اپنی عجیب و غریب چال ڈھال کی
				وجہ سے یہ نام اپنایا تھا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
بلخی	مونث	اردو، ہندی	2	قوت والی عورت
بتید	صفت	عربی	1	بہت زیادہ
بدخشی	مذکر	فارسی	6	بدخشاں سے منسوب
بدیا	مونث	اردو، ہندی	8	علم ہنرمیں ماہر
بدینگی	مذکر، مونث	عربی	4	ظاہر، روشن
بزل	مذکر	اردو، عربی	3	انعام و اکرام
برومند	مذکر	فارسی	5	فائدہ حاصل کرنے والا
براجمان	مذکر	اردو، ہندی	9	پیشہ، درباری، عالی قدر
براعت	مذکر	اردو، عربی	7	وضاحت، روشنی، ہنرمندی
براق	مذکر	عربی	6	ہوشیار، چمکدار صاف شفاف
براق	مذکر	اردو	6	اس فخر کا نام جس پر آنحضرتؐ مغراج پر تشریف لے گئے
براؤ	مذکر	اردو، ہندی	2	حفاظت، محتاط
بستار	مذکر	اردو، ہندی	6	بات کو تفصیل سے کہنا، کشادہ
بستانی	مذکر	فارسی	9	باغ سے متعلق
باسک	مذکر	اردو، ہندی	2	ساہیوں کا بادشاہ شیش ناک
بجنون	مونث	عربی	8	کوئل سی لڑکی
بہزاد	مذکر	فارسی	1	اصیل، نیک، ایک معروف بہزاد لکھنوی
باعث	مذکر	عربی	5	اٹھانے والا
بخشی	مذکر	فارسی	3	حساب رکھنے والا
باسقہ	مونث	عربی	3	صاف و شفاف

پ

نام کا ابتدائی حرف	پ
برج کا نام	سنبلہ
ستارے کا نام	عطارد
موافق پیمانوں	کنول
موافق رنگ	سمر ازرد
موافق پتھر	الماس، زمرد
اعداد	2

سنبلہ اور عطارد کے باہم ملاپ کے اثرات

ان لوگوں کی طبع میں فنون لطیفہ کا شوق بہت ہی نمایاں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حکام سے میل ملاپ بڑھانا اچھی طرح جانتے ہیں اور زندگی کو بہت اچھے انداز میں بسر کرتے ہیں۔ مادی ترقی کے لئے ان کو ہر وقت محنت ہی کرتے دیکھا گیا ہے اور عام طور پر یہ لوگ کامیاب ہی رہتے ہیں۔ انہیں روحانیت سے بھی اچھا خاصا لگاؤ ہوتا ہے۔ خوبصورتی اور حسن ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت دانش مند اور سعادت مند ہوتے ہیں۔ لوگوں کے کام اگر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ اپنے ذمے کام کو پوری دیانتداری سے سرانجام دیتے ہیں۔ ان کے دوست احباب ان پر بہت اعتماد کرتے ہیں اور ان کو جان سے عزیز جانتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
پاک	صفت	اردو	6	پارسا، صاف
پاسبان	مذکر	فارسی	8	حفاظت کرنے والا
پالک	مونث	فارسی	3	پاؤں میں پارسیب باندھنے والی
پارینہ	مذکر	فارسی	7	قدیم، پرانا
پاموز	صفت	فارسی	2	ایسے پرندے جن کے بچوں کو ان کے پر
				ڈھانپ لیتے ہیں
پایان	مذکر	فارسی	1	آخری کنارہ، سرحد
پارس	مذکر	فارسی	2	ایسا پتھر جس کو کسی چیز سے ٹکرائیں تو وہ
				سونا بن جائے
پاستان	صفت	اردو، ہندی	1	بگڑا ہوا، قدیم
پاسا	مذکر	اردو، ہندی	1	قرعہ، اعلیٰ درجہ
پاگاہ	مذکر	اردو	2	لشکر، افواج
پائیز	مذکر	فارسی	2	خزاں کا موسم
پاداش	مونث	فارسی	2	معاوضہ، عوضانہ سزا
پاکیزہ	مونث	فارسی	9	پاک باز، پاک صاف
پارہ	مونث	فارسی	1	ایک دھات جس کو ٹھہراؤ نہیں ہوتا
				سیماب
پارہ	مونث	فارسی	1	ریزہ، ٹکڑا
پاروتی	مونث	ہندی	7	پھاڑوں کی بیٹی
پاشنہ	صفت	فارسی	7	گھوڑے کی ایک مخصوص چال
پالمہ	صفت	فارسی	6	شادمانی، خوشحالی
پالین	مونث	لاطینی	3	چھوٹی، مختصر
پاشا	مذکر	فارسی	7	حاکم، سردار

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
پذیر	ذکر	فارسی	3	لانے والا، حاصل کرنا، عمل میں آنا
چامرد	ذکر	فارسی	4	حوصلہ مند، ثابت قدم
پاسندہ	مونث	فارسی	9	ہیشہ، قونم رہنے والی
پاکے امن	مونث	فارسی، اردو	1	جس کا دامن پاک ہو، پارسا
پاست	صفت	فارسی	6	مشحکم، مضبوط
پاپا	ذکر	فارسی	8	قدم بوسی کرنے والا، جھکنے والا
پامر	صفت	فارسی	9	مستقل مزاج، مددگار
پالو	صفت	اردو، ہندی	3	گھر کا پالا ہوا
پالیز	ذکر	فارسی	5	سبزہ زار
پادامی	ذکر	اردو، فارسی	4	چڑیوں کو جال میں پکڑنے والا
پادشہ	ذکر	فارسی	6	بادشاہ، سلطان
پارینی	مونث	اردو، قدیم	4	سرا، چوٹی
پارسا	صفت	فارسی	3	نیک، پرہیزگار
پالار	ذکر	فارسی	9	بڑا ستون، بڑا درخت
پارسی	ذکر	فارسی	3	آگ کی پرستش کرنے والوں کو پارسی کہتے ہیں
پایک	ذکر	فارسی	6	پیغام بر، سفیر
پاخ	ذکر	اردو، فارسی	6	جواب
پالار	ذکر	فارسی	9	مضبوط ستون، بڑا درخت
یارکھی	صفت	ہندی	4	جانچنے والا، پرکھنے والا
پاشا	ذکر	اردو، ترکی	7	ترک سرداروں کا لقب، امیر، حاکم عامل
پافتا	ذکر	فارسی	8	عاجز، بے سہارا، بے بس و بے کن
پاستہ	ذکر	فارسی	2	مضبوط، مشحکم

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
پاکوب	مذکر	فارسی	4	رقاص
پامرد	مذکر	فارسی	4	بہت والا، مستقل مزاج
پانڈا	مذکر	اردو، سندھی	4	برہمن، عالم، فاضل
پانڈو	مذکر	اردو، سندھی	9	پانچ بھائی
پارو	مونث	فارسی	2	بزرگ عورت
پاسندہ	مذکر	فارسی	9	ٹھہراؤ والا
پاوار	مذکر	فارسی	3	ہیشکی، برقرار
پاک زادہ	صفت	فارسی	4	دھوبی، کپڑے دھونے والا
پارنج	مذکر	فارسی	4	شاعر کا انعام، قاصد، انعام اور صلہ
پر نمود	صفت	فارسی	1	نمود و نمائش
پرتو	مذکر	فارسی	5	عکس، شعاع، روشن
پروان	مذکر	اردو، ہندی	7	اشنان، کامیاب
پری گل	مونث	فارسی	1	پھولوں کی قطار
پرطاس	مذکر	فارسی	2	پہلوان
پران	صفت	اردو، فارسی	1	سانس، روح، عاشق
پابوس	صفت	فارسی	8	قدموں پر جھکنے والا
پرویز	مذکر	فارسی	9	خبر و پرویز، شاہ ایران کا نام، فاتح
پیر بخش	مذکر	اردو	7	کامیاب و کامران
پرتاب	مذکر	فارسی	2	پیر کی بخشش، پیر کی عنایت
پروین	مونث	فارسی	7	مضبوط
پری	مونث	فارسی	5	سات ستاروں کا جھرمٹ
				قوم جن کی عورت، خوبصورت خاتون کو
				بطور مثال کہا جاتا ہے

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
پری زاد	صفت	فارسی	8	پری کا بچہ، خوبصورت
پرکاش	مذکر	اردو، سندھی	1	شان و شوکت والا، مشہور، ظاہر
پریم	مذکر	ہندی	4	پیار کرنے والا
پرتابی	مذکر	فارسی	3	تیر چلانے والا
پریم	مذکر	سندھی	8	مکمل، محبوب، افضل ترین
پری دوش	صفت	فارسی	5	پریوں جیسی خوبصورت
پری شان	صفت	فارسی	7	پریوں جیسی شان، خوبصورتی
پیان	مذکر	فارسی	4	عہد و وفا وعدہ
پرالک	صفت	فارسی	1	مضبوط تلوار، مضبوط لوہا
پٹولی	مذکر	اردو، ہندی	5	زیورات میں ریشم کی ڈوری
پجارج	صفت	فارسی	8	پہاڑ
پر آور	مذکر	فارسی	4	تیز پر مارنے والا، تیز پرواز
پکھراج	مذکر	فارسی	6	ایک بہت قیمتی پتھر کا نام، موسیقی کی ایک ماہر کا نام ملکہ پکھراج
پڑواک	مونث	فارسی	9	پاؤں کے بل یعنی الٹا بچہ پیدا ہونے والا
پیروز	مذکر	فارسی	9	مبارک، فتح مند کا مران
پٹھوال	مذکر	ہندی	3	ہمد، ساتھی، مددگار
پچیت	مذکر	ہندی	1	زور آور، پہلوان، کارگر
پریمت	مذکر	ہندی	1	پہاڑ، دامن کوہ
پردل	مذکر	فارسی	2	دل والا، بہادر، بے خوف
پرداک	مذکر	فارسی	4	محافظ، دیکھ بھال کرنے والا
پرداخ	مونث	فارسی	6	روحانیت، جلال
پردھان	صفت	ہندی	1	سربر آوردہ، نمایاں سردار

نام	ذکر / مومنٹ	بہان	عدد	مطالب و معانی
پر مز	مومنٹ	فارسی	6	آس، امید، انتظار
پذیرا	ذکر	فارسی	4	پسند کیا جانے والا، منظور نظر
پختون	ذکر	پشتو	5	پٹھان قوم، پشتو بولنے والا
پرداش	ذکر	فارسی	4	خطاب، مقام
پدرام	صفت	فارسی	4	ہمیشہ خوش و خرم
پرہاس	ذکر	ہندی	4	سیاحت، سیر و تفریح، سفر
پدم	ذکر	سندھی	1	انسانی اگلیوں پر دائروں کے نشان

ت

نام کا ابتدائی حرف	ت
برج کا نام	میزان
ستارے کا نام	زہرہ
موافق پھول	سرخ و سفید پھول
موافق رنگ	نیلا اور گلابی
موافق پتھر	سنگ مردارید، دودھیا پتھر
اعداد	400

زہرہ اور میزان کے پاہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ ہر حال میں عیش و آرام پسند کرتے ہیں۔ اعلیٰ طبقہ میں میل جول بڑھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ جنس مخالف کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ ایک سے زائد شادیوں کو برا خیال نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے ان کو بچوں کی تعداد کی فکر نہیں ہوتی۔ بڑا کنبہ پسند کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کی عزت اور وقار سے بڑھ کر ان کے نزدیک کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔ عزت دولت اور شہرت کے حصول کے لئے یہ لوگ ہمہ وقت مصروف عمل رہتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
تاج	مذکر	اردو، عربی	8	شاہی کلاہ، تاج ناموں کا حصہ ہے، آج کل بادشاہت تو ہے نہیں۔ اس لئے اس کو ناموں کا جزو بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔
تاجور	مذکر	فارسی	7	تاج والا، بادشاہ، حکمران
تاجدار	صفت	فارسی	6	صاحب تاج، حاکم
تافتہ	مذکر	فارسی	4	ریشم کا کپڑا، روشن، گرم، مل دیا ہوا
تابش	صفت	فارسی	1	حرارت، چمک، دھمک، نور، ایک پاکستانی شاعر کا تخلص
تابیدہ	صفت	فارسی	8	روشن، مل کھاتا ہوا دشوار گزار
تابندہ	مونث	فارسی	3	چمکدار، روشنی
تادیب	مونث	عربی	3	ادب سکھانا، ڈانٹنا
تاباں	مذکر	فارسی	4	چمکدار، روشن
تابانی	مونث	فارسی	5	نور، روشنی
تابدار	مونث	فارسی	5	چمکیلا، روشنی بکھیرنے والا
تابید	مذکر	فارسی	3	ابد تک ساتھ دینا
تابعہ	مونث	عربی	1	اطاعت گزار
تابینہ	مونث	فارسی	9	روشنی کرنے والی
تارا	مونث	اردو	8	آنکھ کی پتلی، ستارا
تابین	صفت	فارسی	4	مرید، پیروکار، آشکارا
تاجیل	صفت	عربی	3	مہلت، وقفہ
تاشفہن	صفت	عربی	3	مہربان، ہمدرد
تائق	صفت	فارسی	7	شوقین
تادین	مذکر	فارسی	6	آگاہ کرنا، مطلع کرنا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
تأخیر	صفت	عربی	4	اثر، عمل، پھل، نتیجہ
تارز	مذکر	عربی	5	مضبوط، طاقت ور
تارض	مذکر	عربی	6	مضبوطی سے جے رہنا
تاسیس	صفت	عربی	9	جز، بنیاد
تائب	صفت	عربی	8	گناہوں سے توبہ کرنے والا
تاہب	مذکر	فارسی	3	چوکنٹا، ہوشیار
تاشف	مذکر	عربی	7	مہربان، ہمد
تادیہ	مونث	فارسی	6	ادا کرنا، بہم پہنچانا
تاشفہ	مونث	فارسی	6	ہمدرد، مہربانی
تابش	مونث	فارسی	4	باہم یکجا ہونا
تأذین	مونث	فارسی	9	آگاہ کرنے والا
تارم	مذکر	فارسی	2	بلند و بالا عمارت
تاشب	مذکر	فارسی	1	باہم مل جانا
تائیر	صفت	ترکی	4	طلوع سحر
تالم	صفت	عربی	3	دکھ درد میں شریک ہوئے والا
تأثل	مذکر	عربی	5	مضبوط، طاقتور
تارخ	مذکر	عربی	4	گلا، حلق، نالو
تائیس	صفت	فارسی	8	محبت، دیگانگت، عبادت
تارہ	صفت	عربی	4	دوست، ایک جیسا
تاشہ	صفت	فارسی	4	دف کی ایک قسم
تاشبہ	صفت	عربی	6	یکجا ہونا
تاشفہ	مونث	فارسی	3	ہمدرد، مہربان ہونا
تأشین	مونث	فارسی	5	دف بجانے والی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
تائین	مونث	عربی	6	حفاظت، حمایت
تأویل	صفت	عربی	6	حجت، عذر، بہانہ
تأول	مونث	ہندی	5	عجلت، جلدی
تالیقہ	مونث	اردو	6	اسباب کی فہرست
تائس	مونث	ہندی	4	خر کے بڑے بھائی کی زوجہ
تافق	مذکر	عربی	5	افق سے آنا
تأمیر	مذکر	عربی	3	داغ دینا، مسلط کرنا، حاکم بنانا
تأمید	مونث	اردو، عربی	3	حمایت، مدد
تاتم	مذکر	عربی	5	گناہوں سے کنار کشی کرنے والا
تأذن	مذکر	عربی	8	حکم کی منادی کرنے والا، آگاہ کرنے والا
تأقی	صفت	عربی	3	دو جماعتوں کی صلح
تأنا	مذکر	اردو، ہندی	6	ہجوم، قطار، سلسلہ
تاؤ	صفت	اردو، ہندی	7	فراست، فہم، ایک درخت جس سے تاڑی کی شراب حاصل ہوتی ہے۔
تپاک	صفت	عربی	2	عالی قدر، بزرگ، برکتوں والا
تجر	مذکر	ہندی	7	علم، والا، مال و دولت والا
تہذیر	مذکر	عربی	7	فضول خرچ
تہرید	مذکر	عربی	4	جوش، ٹھنڈا کرنا
تہریز	مذکر	فارسی	7	حضرت شاہ شمس تہریزی، ایران کا ایک شہر کلہاڑی والا
تامرہ	مونث	عربی	7	بست سی کھجوروں والی
تائین	صفت	عربی	2	کسی کی خاطر
تائیا	مونث	روسی	3	پرپوں کی شیرزادی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
تائبہ	مونث	عربی	4	تائب کی مونث، گناہوں سے تائب ہونے والی
تبسم	صفت	فارسی	7	مسکراتا
تبعہ	صفت	عربی	9	ساتھ چلنا، اطاعت کرنا، اتباع کرنا
تبار	مذکر	اردو، فارسی	9	خانوادہ، ذات
تبیان	مونث	عربی	4	عیاں کرنا
تباہ	مذکر	عربی	4	فرق، اختلافات
تبدیل	مونث	عربی	4	بدلنا، تغیر
تبرج	مذکر	عربی	2	آراستہ کرنا، بنا سنوارنا
تبرع	مذکر	عربی	6	عطا کرنا، بدلہ لینے کے خیال کے بغیر احسان کرنا
تبسط	مذکر	عربی	3	پھیلاتا، کشادہ کرنا
تبشیر	مذکر	فارسی	3	خوشی کی خبر دینا
تبصیر	مذکر	فارسی	9	اجالا کرنا
تازی	صفت	عبرانی	1	ایک پھول کا نام
تتمیر	صفت	فارسی	6	میوہ حاصل کرنا، منافع حاصل کرنا
تشمیر	صفت	عربی	7	صحت یاب ہونا، خوشحالی
تتمیم	صفت	عربی	8	سرا انجام دینا، کامل
تثویب	صفت	عربی	9	تماز پڑھنے کے لئے بلانا
تمیط	مذکر	عربی	9	مصرف و مشغول ہونا
تشنید	صفت	عربی	9	بڑھا دینا، دگنا کر دینا
تجل	مذکر	عربی	5	شان و شوکت، عزت و وقار
تجدید	مونث	اردو، عربی	7	از سر نو، اختراع، ایجاد

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
تجاسر	صفت	عربی	7	بہادر اور بڈر
تجويز	مونث	عربی	3	مشورہ، تدبیر
تجوید	مونث	عربی	1	عربی پڑھنے کا فن
تجدد	مذکر	اردو، عربی	6	نئی اختراع، جدت
تعلیم	صفت	عربی	2	زیب، آرائش
تجمیل	مونث	عربی	6	سجانا، آراستہ کرنا
تحفگی	مونث	فارسی	5	عمدگی، عزت افزائی
تحفیظ	مذکر	فارسی	3	تعریف و توصیف کرنا
تجائف	مذکر	عربی	4	سوغاتیں، نذرانے، تحفہ کی جمع
تخشم	مذکر	عربی	1	عزت جاہ و حشم
تخصیص	مذکر	عربی	9	مضبوط و مستحکم کرنا
تخلیم	مونث	اردو، عربی	1	طاقت دینا، حاکم بنانا
تجاب	مذکر	عربی	8	باہم دوستی کرنا
تجائی	مذکر	عربی	9	اپنے آپ کو دو سروں سے بچانا، احتیاط اختیار
تجید	مذکر	عربی	8	سنوارنا، زینت دینا
تحدید	مذکر	عربی	3	ارادہ، کسی چیز کو تیز کرنا
تحریم	مونث	عربی	1	منوع کرنا، حرام قرار دینا، حرمت والی
تحمل	مذکر	عربی	1	برداشت کرنا، غصہ پر قابو پانا
تحسین	مونث	عربی	6	تعریف کرنا
تحفل	مونث	عربی	5	محفل پوری ہونا، پانی کا ذخیرہ ہونا
تحلف	مونث	عربی	6	آراستہ ہونا قسم کھانا

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
تحمسن	مذکر	عربی	4	دین میں راسخ ہونا
تحمید	مونث	عربی	3	اللہ کریم کی حمد و ثنائیں کرنا
تختیم	مونث	عربی	1	مہربند کرنا
تغفل	مونث	عربی	8	عاجزی کا اظہار
تخلیص	مذکر	عربی	4	خلاصہ نکالنا، قید سے چھڑانا
تغذیف	مونث	عربی	1	بالوں کا طرہ بنانا، بجا سنورنا
تخرج	مذکر	عربی	8	تنگی سے نکلنا
تحرر	مذکر	عربی	7	آزاد ہو جانا
تحریر	مذکر	عربی	2	اپنی حفاظت کرنا
تحری	مذکر	عربی	6	صحیح رائے تلاش کرنا
تجنیس	مونث	اردو، عربی	1	ہم جنس ہونا، مشابہت و مطابقت ہونا
تذکیر	مونث	اردو، عربی	7	مرد ہونا
تجذیم	مذکر	عربی	1	مجبور اور عاجز ہونا
تحاب	مذکر	فارسی	6	باہم محبت و الفت ہونا
خذیق	مذکر	عربی	3	عقل مندی ثابت کرنا
تحصن	مونث	عربی	8	پاک باز عورت، نکاح کرنا
تخشیم	مونث	عربی	3	حاشیہ لکھنے والی
تخفہ	صفت	فارسی	7	سوغات
تغذہ	صفت	عربی	4	حدود کا تعین کرنا
تدوین	صفت	عربی	2	مرتب کرنا، ترتیب دینا
تدین	صفت	فارسی	5	ایمانداری، دیانت داری
تدین	صفت	عربی	1	روغن ملنا، پالش کرنا
ترانہ	صفت	فارسی	8	راگ، ملی نغمہ

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطاب و معانی
ترشمن	صفت	عربی	6	تراشنے والی
ترخہ	صفت	عبرانی	8	خوشہ چین
ترعہ	صفت	عربی	9	دروازہ
ترفہ	صفت	عربی	9	خوشحالی، نعت
ترنگ	صفت	اردو	4	امنگ، موج، خوشی
ترنیم	صفت	فارسی	7	خوش آواز
ترین	مونث	فارسی	3	بہت زیادہ
تزکیہ	صفت	عربی	1	پاک و صاف کرنا
ترمیہ	صفت	عربی	9	بانسری بجانا
ترمین	صفت	عربی	3	اچھی صفات کا حامل
ترمین	صفت	فارسی	8	آراستہ کرنا
تراب	صفت	عربی	9	حضرت علی کی کنیت بو تراب، مٹی، خاک
ترادف	مذکر	عربی	9	باہم مدد کرنا، سلسلہ
ترزق	مذکر	عربی	5	پیش کرنا
ترفان	مذکر	عربی	1	ترجمان، نمائندہ
ترفید	صفت	عربی	9	سرداری دینا، بزرگ ماننا
ترقب	صفت	عربی	9	توقع، آس، امید
ترقم	صفت	عربی	2	رقم کرنا، احاطہ تحریر میں لانا
تریل	صفت	عربی	1	روانہ کرنا، ارسال کرنا
ترشح	صفت	عربی	8	نمایاں، ظاہر ہونا، بوند باندی
ترقی	مونث	عربی	5	نری کرنا، آسائش دینا
ترفیہ	مونث	عربی	1	اللہ کریم کا کسی کو خوشحال و آسودہ رکھنا
ترقش	صفت	عربی	1	اچھا کلام، رنگین کلام

نام	مذکر / مؤنث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
تسلیم	صفت	عربی	9	بجالاتا، آمادہ ہونا
تسلیم	صفت	عربی	2	بہشت کی ایک نہر
تسلیمہ	مؤنث	عربی	5	تسلیم کا مؤنث
تسبیل	مذکر	عربی	7	اللہ کی راہ میں وقف کرنا
تسدید	مذکر	عربی	1	درنگی کرنا، میانہ روی اختیار کرنا
تسمین	صفت	عربی	2	موتا کرنا، قوی کرنا
تسطیر	صفت	عربی	4	رقم کرنا، تحریر کرنا
تسمیر	صفت	عربی	8	میخ گاڑنا
تسمیم	مذکر	عربی	1	مضبوط، مستحکم
تسمیع	صفت	عربی	4	سجانا، سنانا، سنوارنا
تسوید	صفت	عربی	3	قلم بند کرنا، تحریر کرنا
تشیر	مذکر	عربی	6	مشہور کرنا
تشابہ	صفت	عربی	6	ملتی جلتی، مشابہت
تشیب	مؤنث	عربی	3	غزل، شاعری
تشمیر	صفت	عربی	5	پھرتی، چستی، مستعدی
تشہ	مؤنث	فارسی	8	پیاسی
تشہی	صفت	عربی	5	خواہش کرنا، آروز کرنا
تسعیف	صفت	عربی	8	کوئی خوشبودار چیز ملانا
تشمیم	صفت	عربی	9	عادتوں اور خصلتوں میں اپنے والد سے ملتا جلتا ہونا
تسمیت	صفت	عربی	1	دعا مانگنا
تصمید	مؤنث	عربی	2	ارادہ کرنا
تفریم	صفت	عربی	1	غصہ میں بے قابو ہونا

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
تقسیم	صفت	عربی	4	شامل کرنا، شاعری کا ایک اسلوب
تصویب	صفت	فارسی	4	قرینے سے رکھنا، سجانا
تصور	صفت	فارسی	3	خیال
تضرہ	مونث	عربی	1	ضرورت
تصدق	صفت	عربی	9	قربان ہونا، صدقے ہونا
تقسیم	صفت	عربی	4	نتھارنا، مضبوط کرنا
تغیر	صفت	عربی	8	چھوٹا ہونا، صغیر سے بنا ہے
تضوع	مذکر	عربی	7	مہکتا، خوشبو پھیلاتا
تضمیمہ	مونث	عربی	5	خوشبو میں بسا
تغزیر	مونث	عربی	3	حد مقرر کرنا، ملامت کرنا
تغزیر	مونث	عربی	8	عزت و احترام دینا
تصعید	مذکر	عربی	7	بلند درجہ، بلند و بالا ہونا
تطیر	صفت	عربی	2	پاک کرنا، صاف کرنا
تطویل	صفت	عربی	5	طوالت، لمبا کرنا
تظافر	صفت	فارسی	6	باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا
تعبیہ	صفت	عربی	1	آراستہ کرنا، سجانا
تعصیہ	مذکر	عربی	4	پوشیدہ بات، معصہ
تعدیل	مونث	عربی، اردو	1	درستگی کرنا، ہمدار کرنا
تعاہد	مونث	عربی	8	عہد و پیمان کرنا
تعبد	صفت	عربی	8	اللہ کی عبادت کرنا
تعاقد	مذکر	عربی	7	باہم عہد کرنا، وعدہ کرنا
تعاقل	مونث	عربی	7	عقل مندی، خون بہا ادا کرنا
تعبیر	صفت	عربی	7	خواب کی تعبیر، اچھے کاموں کا نتیجہ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
تعاونی	مذکر	عربی	1	جمع ہونا، اکٹھا ہونا
تعاظم	مذکر	عربی	7	کسی سے بڑا ہونا
تعمیر	صفت	عربی	9	بنانا، قائم کرنا
تعمیم	صفت	عربی	2	عام کر دینا
تعمق	صفت	عربی	7	ضد کرنا، اڑ جانا
تغریہ	صفت	عربی	1	چڑیوں کا چہرہ جانا
تفریہ	صفت	عربی	8	بیکتا دیکھنا کرنا
تطیب	صفت	عربی	7	خوشبو میں بسانا
تفاہ	صفت	عربی	8	سیر و تفریح کرنا
تفضل	مذکر	عربی	6	بزرگ، افضل سے متعلق، بڑائی
تفصیل	صفت	عربی	7	فضیلت دینا، ترجیح دینا
تفوق	صفت	عربی	1	فوقیت دینا
تقسیم	صفت	عربی	4	سمجھانا، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تفسیر کلام اللہ شریف کا نام تقسیم القرآن
تفہید	صفت	عربی	8	نازو انداز، نخرے
تذلل	مذکر	عربی	8	عاجزانہ انداز، انکساری
تذہیب	مونث	عربی	1	سونے کا پانی چڑھانا
تقدم	صفت	عربی	4	عزت افزائی، قدم بڑھانا
تقویم	مذکر	عربی	7	قائم شدہ درستی
تکوین	صفت	عربی	9	عدم سے ناپید کو وجود میں لانا
تقی	صفت	عربی	6	میر تقی میر، اردو کے عظیم شاعر، پارسیا پر ہمیز گار
تظانہ	مذکر	فارسی	9	حاجت روائی کرنا، کسی کے کام آنا

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
تطیب	مونث	عربی	7	خوشبو لگانا
تقرین	مونث	عربی	4	ہاتھ ملا دینا
تذکر	مذکر	اردو، عربی	7	مذکر ہونا، مردانگی
تکلیف	صفت	عربی	2	کلام کرنا، گفتگو کرنا
تلقین	صفت	عربی	5	نصیحت کرنا، تاکید کرنا
تلال	مذکر	عربی	2	مٹی کے تودے، ٹیلے
تلمیذ	مذکر	عربی	1	حاجت مند، شاگرد
تلام	مذکر	عربی	6	نوکر، خادم
تکون	صفت	عربی	1	خوش رنگ، طے جلے رنگ
تلشیم	صفت	عربی	8	حد درجہ عزت، بوسہ دینا
تکواس	صفت	عربی	2	بستقاری، اضطرابی
تلثین	صفت	عربی	4	نرمی، نرم کرنا
تکواس	مونث	عربی	7	لمواس کا مونث
تکمین	صفت	عربی	7	رتبہ، زور، طاقت
تمویل	مذکر	عربی	9	مالدار، امیر کبیر
تمیمہ	صفت	عربی	9	آنحضرتؐ کے ایک صحابی، بلند قد والا، قوی
تشال	مذکر	عربی	7	مجسمہ، تصویر
تمہیل	صفت	عربی	8	وقف، مہلت
تہیم	صفت	عربی	4	قد آور، مضبوط
تشیل	صفت	عربی	7	ڈرامہ، مثال
تمکنت	صفت	عربی	1	غور، شان
تمامہ	صفت	عربی	9	باقی ماندہ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
تمارا	صفت	عربی	3	وقت گزارنا
تمیز	صفت	عربی	7	امتیاز، فرق
تمریش	صفت	عربی	5	بوند، باندی، پھوار
تمرین	مذکر	عربی	7	مشق، نرم کرنا
تدین	صفت	عربی	4	خوشحال ہونا
تموجن	صفت	ترکی	2	لوہے کا ککڑا، سفاک فاتح چنگیز خان کا نام
تنویر	صفت	فارسی	9	چمک، نور، اجالا
تنزل	صفت	عربی	2	نازل کرنا، اتارنا
تنویل	صفت	عربی	1	عنایات کرنا
تنعمیم	مذکر	عربی	2	نازو نعمت سے پرورش پانا
تنفیذ	صفت	عربی	7	حکم جاری کرنا، حکم چلانا
تنصیب	صفت	عرب	3	نازو نعمت سے پرورش کرنا
تنصیف	مذکر	عربی	9	آدھا آدھا کرنا
تمنا	مونث	عربی	5	خواہش، آرزو
تنزیل	مونث	عربی	8	تنزل کا مونث، نازل کی ہوئی
تنظیم	صفت	عربی	5	انجمن، نظم کرنا
توفیق	صفت	عربی	2	حوصلہ، ہدایت
توحید	صفت	عربی	5	اللہ کو ماننا، واحدانیت پر ایمان
توصیف	صفت	عربی	1	تعریف کرنا، خوبی بیان کرنا
توسید	مذکر	عربی	3	کسی پر بھروسہ کرنا، کسی پر تکیہ کرنا
تواب	صفت	عربی	4	اللہ کریم کا صفاتی نام، توبہ قبول کرنے والا
توقیر	مذکر	عربی	5	عزت و تکریم

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
توفی	مذکر	عربی	8	حلاش کرنا، ارادہ کرنا
توفیر	مذکر	عربی	3	فراوانی، زیادتی
توسل	صفت	عربی	1	ذریعہ، وسیلہ
توسیم	مذکر	عربی	2	حاضر ہونا، ظاہر ہونا
توضیح	صفت	عربی	9	چمک، نور
توفیہ	صفت	عربی	6	قول و فعل میں مضبوط
توقیع	مونث	عربی	1	عزت دینے والی
توسیم	صفت	عربی	3	موسم میں آنا
تمام	مذکر	عربی	5	طاقت ور، نڈر، بے خوف
تمام	صفت	عربی	6	مکتہ المکرّمہ سے نسبت، آنحضرتؐ کا لقب اظہر
تھلیل	صفت	عربی	7	لا الہ الا اللہ کہنا
تہذیب	صفت	عربی	1	معاشرت، تمدن
تھور	مذکر	فارسی	8	جواں مردی، بہادری
تہینہ	مونث	عربی	6	الزام لگانے والی
تہمین	مذکر	عربی	1	الزام لگانے والا
تھلما	صفت	یونانی	8	گنجداشت کرنے والی
تیور	مذکر	ترکی	8	ایک مشہور بادشاہ اور فاتح، جس کا تعلق مغل ترکی نسل سے تھا، امیر تیور
تیمار	صفت	فارسی	3	غم میں شریک ہونا
تلیمان	مذکر	فارسی	9	ایک ایرانی نام
تہشیم	صفت	عربی	8	عزت و توقیر کرنا

ش

نام کا ابتدائی حرف	ث
برج کا نام	دلو
ستارے کا نام	زحل
موافق پھول	سدا بہار بیلین
موافق رنگ	گہرے رنگ، نیلا، سیاہ
موافق پتھر	نیلیم، زرد یا قوت
اعداد	500

2۔ دلو اور زحل

دلو اور زحل کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ جھوٹ بولنے کے بہت ماہر ہوتے ہیں ان کی توجہ جھوٹے واقعات کی طرف عام طور پر مرکوز رہتی ہے۔ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا جانتے ہیں۔ ان کی توجہ ناجائز اور غلط کاموں کی طرف بھی مبذول ہو جاتی ہے۔ مگر محنتی ہونے کی وجہ سے انہیں کاشت کاری میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تکبر اور غرور ان میں بہت ہوتا ہے۔ اپنے سے بڑھ کر کسی کو خیال نہیں کرتے۔ اسی لئے دوسروں سے فائدہ بہت کم حاصل کرتے ہیں۔ احسان فراموش نہیں ہوتے اگر کوئی ان پر احسان کر دے تو آدم مرگ فراموش نہیں کرتے۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ثاقب	مذکر	عربی	9	چمکیلا، دزخشاں
ثالث	مذکر	عربی	5	فیصلہ کرائے والا، صلح کرنے والا
ثابت	مذکر	عربی، اردو	3	مکمل پورا، ٹوٹا نہ ہو، یقین
ثاقل	صفت	عربی	9	بھاری
ثائب	صفت	عربی	9	بارش کے ساتھ آنے والی تیز ہوا
ثادق	مذکر	عربی	1	بادل کا ٹکڑا
ثانی	صفت	عربی	3	ہمسر بدل، دوسرا
ثائر	صفت	عربی	9	قصاص لینے والا
ثامر	مذکر	فارسی	3	پھلدار درخت
ثابۃ	مونث	عربی	8	ثابت کی مونث، ایسا ستارہ جو حرکت نہ کرتا ہو
ثانیۃ	مونث	عربی	5	ثائب کی مونث
ثانیہ	مونث	عربی	8	ثانی کی مونث
ثاخیہ	مونث	فارسی	8	لحمہ، بارکی
ثارۃ	مونث	عربی	4	ایسی عورت جو بہت باتونی ہو
ثامن	مونث	عربی	6	بہت قیمت والی گراں قدر
ثامحہ	مونث	عربی	7	چومنا، پیار کرنا
ثاقبہ	مونث	عربی	5	ثاقب کی مونث، چمکدار، روشن
ثاقفہ	مونث	عربی	1	ہتھیاروں سے مشغل کرنا
ثاقلہ	مونث	عربی	3	ہم نشینی اختیار کرنا
ثالغہ	مونث	عربی	5	قریب بیٹھنا
ثالب	مذکر	عربی	2	غلطیاں نکالنے والا
ثالوث	مذکر	عربی	2	باپ، بیٹا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
خاثر	مذکر	عربی	9	جو شیلا
ثانی اثنین	صفت	عربی	1	مثل، مانند
ثاوی	مذکر	عربی	4	دیر تک قیام کرنے والا
ثانی اثنین	صفت	عربی	1	دو میں دو سرا۔ سیدنا صدیق اکبرؑ کا لقب
ثبت	مونث	اردو، عربی	2	نقش کرنا، تحریر
ثبوت	صفت	اردو، عربی	8	گو اسی، دلیل
ثبار	مذکر	عربی	1	سرگرم عمل، تندہی
ثبیرہ	مونث	عربی	5	منع کرنا، روکنا
ثبطہ	مونث	عربی	3	اقرار، قیام، ثابت قدم
ثبجرہ	مونث	عربی	6	کھلا کرنا، وسیع کرنا
ثبجمہ	مونث	عربی	8	کسی کو کسی چیز سے بھیرنا
ثبجمت	صفت	عربی	8	بارش، جلد برشا
ثبجاج	مذکر	عربی	3	بہت بولنے والا، پانی کا تند و تیز بہاؤ
ثبخین	مذکر	عربی	8	مضبوطی، پائیداری
ثبخین السلاخ	مذکر	عربی	3	اسلحہ بند آدمی
ثبخام	مونث	عربی	2	سفید گھاس
ثروی	مونث	عربی	5	امیر کبیر خاتون، صاحب ثروت خاتون
ثروت	مونث	عربی	8	مال و دولت کی فراوانی، دولت مندی
ثریا	مونث	عربی	9	پردین، سات ستاروں کا جھرمٹ، جھکا
ثریا جاہ	صفت	عربی	9	عالی رتبہ، باوقار
ثررا	مذکر	عربی	8	تو گنیر ہونا، مالدار ہونا
ثردانہ	مونث	عربی	4	امیر ترین خاتون
ثرمان	مونث	عربی	8	دن رات ایک درخت

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ثغمام	مونث	عربی	6	ایک قسم کی سفید گھاس
ثغنه	مونث	عربی	7	لازم و لزوم
ثقفی	مذکر	عربی	6	بنو ثقف سے منسوب، حجاج بن یوسف ثقفی
ثقلان	مذکر	عربی	6	مضبوط گروہ، نفیس اشیا
ثقات	صفت	عربی	4	سرخ رنگت والا
ثقت	صفت	عربی	1	مضبوطی، استواری
ثقف	صفت	عربی	5	چست و چالاک
ثفانہ	صفت	عربی	2	ثقف کی مونث
ثقیل	مذکر	عربی	1	سخت، مضبوط
ثقلین	مذکر	عربی	6	جن و انسان، دونوں جہاں
ثقات	مونث	اردو، عربی	1	تہذیب، عقل مند
ثقات	مذکر	عربی	2	معتبر اشخاص
ثعبان	مذکر	عربی	2	بڑا سانپ اڑدھا
ثقیف	مذکر	عربی	6	تیز سرکہ، عقل مند آدمی
ثقال	مذکر	عربی	1	آہستہ آہستہ چلنے والا
ثمر	مذکر	عربی	2	پھل، نتیجہ، حاصل
ثمرہ	مونث	عربی	7	ثمر کی مونث
ثمینہ	مونث	عربی	2	ترش سرکہ، گراں قدر، از حد قیمتی
ثمین	مونث	عبری	6	گراں قدر، بہت قیمتی
ثمن	مونث	عربی	5	قیمت
ثلوج	مذکر	عربی	8	برف، برفباری
ثمار	مذکر	فارسی	3	پھل کی جمع

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
شمال	مذکر	عربی	4	کارگیر آدمی
شماشہ	مذکر	عربی	1	صحابی رسول
شمعد	مذکر	فارسی	3	پھل دار، فائدہ دینے والا
شمہ	مذکر	عربی	4	کم پانی
شمور	مذکر	عربی	8	پھلدار ہونا
شمانیہ	عدد	عربی	3	ایک عدد، آٹھ
شموز	صفت	عربی، فارسی	2	شربار، پھل دار
شدم	مذکر	عربی	5	توتلا
شکانہ	مونث	عربی	2	دانائی، ہشیاری، چستی
شاء	صفت	عربی	2	اللہ کریم کی تعریف
شوران	مذکر	عربی	1	خون کا جوش، شفق کی لالی
شویان	مذکر	عربی	1	بیاری کے بعد تدریسی حاصل ہونا، واپس آنا
ثوابت	مذکر	عربی	9	غیر متحرک ستارے
ثواقب	مذکر	عربی	6	ثاقب کی جمع
شمین	مونث	عربی	8	پھلدار، فائدہ دینے والی
شمہ	مونث	عربی	7	قابل تعریف، شریف
ثوبانہ	مونث	عربی	6	خوش پوش خاتون
ثوبیہ	مونث	عربی	1	آنحضرت کی ایک آیا کا نام، خوش لباس خاتون
ثور	صفت	عربی	4	عار ثور، جوش میں آنا، حملہ کرنا
ثنہ	صفت	عربی	2	معتبر آدمی، قابل اعتبار
ثوب	مذکر	عربی	4	لباس، پوشاک

نام	مذکر / مؤنث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
شمال	مذکر	عربی	4	کار گزار
ثوی	مذکر	عربی	3	سمان
شیاب	مذکر	عربی	9	لباس
شید	مذکر	عربی	1	مرطوب جگہ، ٹھنڈا اور ہر فضا مقام
شین	مذکر	عربی	3	دریا سے موتی نکالنے والا
نصب	صفت	عربی	8	ایسے خواتین و حضرات جو کنوارے نہ ہوں

ج

ج	نام کا ابتدائی حرف
جدی	برج کا نام
زحل	ستارے کا نام
سدا بہار بیلین	موافق پھول
نوی بلیو، سلیٹی	موافق سنگ
مردارید، یاقوت	موافق پتھر
3	اعداد

زحل اور جدی کے باہم ملاپ کے اثرات

زیادہ اولاد پیدا کرنے کو یہ بہت اچھا خیال کرتے ہیں۔ مگر کثرت عیال سے عام طور پر یہ لوگ از حد پریشان ہی رہتے ہیں۔ جسکی وجہ سے ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہی رہتے ہیں۔ حرص اور طمع کے چنگل سے نکل نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ لوگ تنگ نظر یا بد فطرت نہیں ہوتے۔ یہ بہت ذہین و فطین ہوتے ہیں مگر ترقی کرنے والوں سے خواہ مخواہ خائف رہتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لئے ان کو بہت سخت محنت اور تندہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح راہنمائی سے یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔

نام	مذکر / مؤنث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
جاذب	مذکر	عربی	4	پُرکشش، جذب کرنے والا
جابر	صفت	عربی	8	ظالم، ظلم کرنے والا، زبردست
جالس	مذکر	عربی	4	بیٹھنے اور بیٹھانے والا
جاہان	مذکر	فارسی، عربی	3	فارسی میں کمزور دل اور عربی میں جاپان کو کہتے ہیں
جاوید	صفت	فارسی	6	قائم رہنے والا
جاد	صفت	عربی	8	مخت، سنجیدگی
جاوداں	صفت	فارسی	2	دائم سدا، لازوال
جادل	مذکر	عربی	2	جنگ جو، لڑاکا
جاذل	مذکر	عربی	5	سینہ تان کے کھڑا ہونے والا، خوش اطوار
جاذب	مذکر	عربی	9	بے صبر، بے قرار، مضبوط فیصلہ کرنے والا
جاہ	صفت	فارسی	9	مرتبہ، مقام، عزت
جالب	صفت	عربی	9	ایک مشہور شاعر حبیب جالب، حاصل کرنے والا، مائل کرنے والا
جازم	صفت	عربی	6	کفایت کرنے والا، مصمم ارادہ کرنے والا
جام	مذکر	عربی	8	شراب پینے کا برتن، آسمان، پیالہ
جائش	مذکر	عربی	8	نفیس
جازی	مذکر	عربی	3	بدلہ لینے والا
جالیئوس	مذکر	یونانی	7	مشہور یونانی حکیم
جامح	مذکر	عربی	6	جمع کرنے والا
جاسر	صفت	عربی	3	شجاعت دکھانے والا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
جامد	صفت	عربی	3	ٹھہرا ہوا، ٹھوس
جاسم	مذکر	عربی	5	توہمند، چوڑا، چکلا
جاعل	صفت	عربی	5	اللہ کریم کی صفت، پیدا کرنے والا
جاہیہ	مونث	عربی	6	زانو کے بل دراز
جانہ	مونث	عربی	2	مطابقت مشابہت
جیالہ	مونث	عربی	5	قوی و مضبوط جسامت والا
جازیہ	مونث	عربی	8	بدلہ لینے والی، عوضانہ
جاملہ	صفت	عربی	7	خوش خلقی سے پیش آنا
جائشہ	صفت	عربی	4	عمرگی، نفاست
جاوی	صفت	عربی	9	زعفران
جلدہ	مونث	عربی	7	جی ہوئی، مضبوط
جاذب	مذکر	عربی	4	کشش والا، جذب کرنے والا
جبار	مذکر	عربی	8	جبر کرنے والا، اللہ پاک کا صفاتی نام
جبالہ	مونث	عربی	5	لحم تخیم عورت
جاریہ	مونث	اردو، عربی	3	کنیز، نوکرانی، لونڈی
جانشین	صفت	اردو	9	گدی نشین، دلی عہد، قائم مقام
جانی	صفت	فارسی	1	محبوب جان سے عزیز
جاز	مذکر	انگریزی	2	ایک نغمہ ایک مچھلی کا نام
جانب	مذکر	اردو، عربی	2	بطرف، اپنی جانب کھینچنے والا
جامم	مذکر	ترکی	2	چھپا ہوا، بیل بوٹے والا کپڑا
جاگو	مذکر	اردو، ہندی	3	بیدار مغز، ہشیار، نیند سے جاگنے کو کہنا
جان	صفت	اردو، فارسی	9	روح، زندگی، محبوب کے لئے پیار کا لفظ
جال بر	صفت	اردو، فارسی	4	زندگی بچ جانا، جان کی سلامتی

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
جہاں ستار	صفت	فارسی	7	جاں کو لینے والا، زندگی اجیرن کرنے والا
جائی	مونث	اردو، ہندی	5	بٹی، لڑکی
جایا	مذکر	اردو، ہندی	6	بیٹا، لڑکا
جارج	صفت	عربی	5	جارحیت کرنے والا
جائی	مذکر	عربی	1	پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑا ہونے والا
جائی	صفت	فارسی	9	اللہ کریم کا صفاتی نام، خراسان کے شہر جام سے منسوب ایک بچے عاشق رسول کا نام، مولانا عبدالرحمان جانی
جائلیق	مذکر	عربی	5	عیسائی فرقہ کشمبولک
جاخذ	مذکر	عربی	3	اہلی ہوئی آنکھوں والا
جالوت	مذکر	عربی	8	حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والا عملاقہ کے ظالم بادشاہ کا نام
جائز	مذکر	عربی	7	ظالم
جبروت	مونث	عربی	8	ظالم کاؤر، عظمت، جاہ و جلال
جیبورہ	مونث	عربی	4	آبادہ، نگن
جبارہ	صفت	عربی	4	خوشحالی
جبرائیل	مذکر	عربی	2	اللہ کریم کے چار مقرب فرستوں میں سے ایک جن کے ذمہ انبیاء کرام کو اللہ کی وحی پہنچانا تھا، اللہ کا بندہ
جبان	مذکر	عربی	2	بزدل، خائف
جبین	مونث	اردو، عربی	2	پیشانی، رخ
جبل	مذکر	عربی	8	پہاڑ
جبران	صفت	عربی	4	جبر سے متعلق، خلیل جبران، طائی عوضانہ، موازنہ

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
جبر	مذکر	عربی	8	صحابی رسول، جبار، زبردست قوی
جبین	مذکر	عربی	3	ریچھ کا بچہ
جدت	مذکر	اردو، عربی	2	اختراع، تازگی، نیا پن
جدید	صفت	عربی	1	نئی، نیا، تازہ
جدار	مونث	عربی	1	دیوار
جدال	مونث	اردو، عربی	2	بحث، تکرار، جنگ
جرجیس	مذکر	عربی	5	ایک پیغمبر کا نام
جرار	مذکر	عربی	8	بہادر، جری
جرس	مونث	عربی	2	قافلہ کے چلنے کی آواز
جرہ	مذکر	اردو، فارسی	1	ایک شکاری پرندہ، سواری کا گھوڑا
جری	صفت	اردو	6	شجاعت، بہادری
جرید	صفت	عربی، فارسی	1	بہادر، جرات مند
جروان	مذکر	عربی	8	پتوں سے صاف شاخ، قاصد، باز
جریس	صفت	عربی	3	عادت، عادی
جریم	صفت	عربی	1	جس نے منسوب، گھنٹی بجانے والا، سفر
جدول	مذکر	عربی	1	کا آغاز کرنے کا اعلان کرنے والا
جدلان	مذکر	فارسی	1	کیم خیم مرد، بڑی قد و قامت والا
جذبہ	مونث	عربی	9	خوش رہنے والا، شادمان
جذله	مونث	عربی	9	خوشحالی، راحت
جشہ	مذکر	اردو، عربی	4	جذبہ، محبت
جزا	مونث	اردو، عربی	2	خوشی حاصل کرنا، مسرت
				جسم، تن و قوت، جسامت
				انعام، پدلا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
جحظ	مذکر	عربی	2	عربی ادیب کا نام
جخش	سفت	عربی	5	صحابی رسول کا نام
جحوظ	مذکر	عربی	8	غزالی آنکھوں والا
جحفل	مذکر	عربی	4	عالی مرتبت شخص، قوی، عظیم لشکر
جزاکت	مذکر	عربی	8	مضبوطی
جزیل	مذکر	فارسی	5	مضبوط، قوی
جسیمہ	مونث	عربی	2	بڑے جسم والی خاتون
جسام	مذکر	عربی	5	بڑے جسم کا مالک
جسیم	صفت	عربی	5	بڑا جسم رکھنے والا
جعفر	صفت	عربی	2	نبی کریمؐ کے چچا زاد بھائی، اہل تشیع کے
				چھٹے امام جعفر صادقؑ، ندی نالہ
جعفری	صفت	اردو، عربی	3	جعفر سے منسوب، گل اشرفی، گیندے کا
				پھول زرد پھول
جعالہ	مذکر	عربی	1	کسی کام کا صلہ
جفر	صفت	عربی	3	ایک علم کا نام
جفیہ	مذکر	عربی	5	ترکبش
جگر	مذکر	فارسی	7	جسم کا ایک نہایت اہم عضو، پیار سے
				محبوب کو بھی جگر کیا جاتا ہے۔ ایک
				معروف شاعر کا تخلص بھی ہے۔ جگر مراد
				آبادی
جلیل	صفت	عربی	1	عالی قدر، بلند رتبہ۔ اللہ کریم کا صفاتی نام
جلادت	مذکر	عربی	6	پھرتی، بے خوف
جلیس	مذکر	فارسی	4	رفیق، ہمرکاب

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
جلال	صفت	عربی	1	عظمت و غضب، بزرگی، عظمت
جلید	مذکر	عربی	2	برف باری، ژالہ باری
جلمد	صفت	فارسی	5	مضبوط و طاقتور
جلالت	صفت	عربی	5	غصہ، شان و شوکت، بزرگی، عظمت
جلوریز	صفت	فارسی	4	تیزی پھرتی
جلوز	مذکر	عربی	1	مونا آدمی
جلالہ	صفت	عربی	6	جلال کی مونث، عظمت غصہ
جلوہ	صفت	اردو، فارسی	6	حسن کی جھلک، نظارہ نمود و نمائش
جلاء	صفت	عربی	6	آب و تاب، چمکدار
جل پری	مونث	ہندی	8	غیر انسانی مخلوق
جلنار	مونث		5	سرخ رنگ پھول
جلیلہ	صفت	فارسی	5	عالی قدر بزرگ جلیل کی مونث
جہیل	صفت	عربی	2	حسین، خوبصورت، خوبرو
جمال	صفت	فارسی	2	جمال الدین افغانی ایک عظیم مجاہد کا نام۔ حسن خوبصورتی، نبی کریم کو صاحب الجمال بھی کہا جاتا ہے۔
جماش	صفت	فارسی	2	شوخی دلیری
جشید	مذکر	فارسی	6	جشید آٹھ سو سال قبل مسیح ایران کا بادشاہ تھا جس کا جام جشید بہت مشہور ہے
جمل	صفت	عربی	1	خوبصورت، اونٹ
جمالہ	مونث	فارسی	7	جمال کی مونث، خوبصورتی
جمانہ	صفت	عربی	9	گوہر، موتی

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
جملہ	مونث	عربی، اردو	6	جمل کی مونث، اردو میں کل تمام
جیلہ	مونث	عربی، اردو	7	جیل کی مونث، خوبصورت خاتون
جمدہ	صفت	عربی	7	بلند رتبہ، عالی قدر
جمیت	صفت	عربی، اردو	1	اکثریت، جماعت، فرقہ
جمیمہ	مونث	عبرانی	8	خوش نصیب، فاختہ
جرہ	صفت	فارسی	5	چنگاریاں
جمیرہ	صفت	فارسی	6	زلف
جہانی	مذکر	فارسی	5	شراب پلانے والا
جر	مذکر	فارسی	9	اکھٹا کرنا، آگ کی چنگاریاں
جمع	مذکر	عربی	4	غور، تکبرانہ انداز
جہان	مذکر	عربی	4	چاندی کا گول دانہ
جمعہ	صفت	عربی	1	لوگوں کو اکھٹا کرنا، عبادت کی فضیلت کا دن
جموح	مذکر	عربی	1	اپنی نفسیاتی خواہش پر قابو نہ پاسکے تیز رو
جموس	مذکر	عربی	1	ٹھوس حالت میں، گاڑھا ہونا
جئید	مذکر	عربی	4	حضرت جنید بغدادی ولی کامل کا نام
جناب	مذکر	عربی، اردو	2	عربی میں کنارہ، ہمسایہ اور اردو میں عزت سے مخاطب کرنے کے لئے
جنب	مذکر	عربی	1	کنارہ، پلو
جناح	مذکر	عربی	8	قائد اعظم محمد علی جناح کا نام، دست و بازو، پناہ، روزن، گروہ
جازم	صفت	فارسی، اردو	6	ارادوں کو استحکام عطا کرنے والے

نام	مذکر / مؤنث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
جنی	مؤنث	اردو، ہندی	9	سرو جینی ٹائیڈو ایک معروف بھارتی لیڈر، انگریزوں کے خلاف بہت کام کیا، مطلب ہے۔ پیاری خوبصورت لڑکی
جنیا	مذکر	اردو، ہندی	1	اے میری جان، عزیز از جان، پیار کا انداز خطاب
جنبہ	مذکر	عربی، اردو	6	پناہ دینا، طرف داری کرنا، حمایت کرنا
جنت	صفت	اردو، عربی	3	بہشت، باغ
جوش	صفت		3	جذبہ، ابال، ایک بہت مشہور شاعر جوش ملیح آبادی
جولان	مذکر	اردو، عربی	9	تیزی تندی، گھوڑا سرپٹ دوڑانہ حرکت دینا
جوشن	مذکر	فارسی، اردو	8	آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کی دعا، زرہ بکتر
جوہر	مذکر	اردو، عربی	7	مولانا محمد علی جوہر تحریک پاکستان کے نامور رہنما، موتی، قیمتی پتھر
جودی	مذکر	عربی	5	کوہ جودی پر حضرت نوح کی کشتی بعد از طوفان ٹھہری تھی، ایک پہاڑی کا نام ہے
جودت	مذکر	عربی	8	خوبی، تیزی، چستی
جواد	صفت	عربی	5	اللہ کریم غفور الرحیم کا ایک صفاتی نام بہت عطا کرنے والا
جوشندہ	صفت	فارسی	6	مشتاخی
جوہری	صفت	اردو، عربی	8	قیمتی پتھر فروخت کرنے والا جوہر کی شناخت رکھنے والا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
جوشا	مذکر	عبرانی	7	نجات دہندہ
جواز	مذکر	عربی	8	دلیل، وضاحت
جوانہ	مونث	عبرانی	2	تحفہ خداوندی
جواہر	صفت	عربی	8	قیمتی پتھر جو ہر کی جمع
جولیا	مونث	یونانی	5	نوجوان خاتون، بھرپور شباب
جونا	صفت	عربی	6	عطر دان
جوهیا	صفت	عربی	7	جوبی کا پھول
جویاء	صفت	عربی	2	خلاش کرنے والی
جویریہ	مونث	عربی	5	ام المومنین جویریہ بنت حارث، خوشیاں بکھیرنے والی
جویریہ	مونث	فارسی	8	پھول رکھنے والی نوکری
جہانگیر	مذکر	فارسی	1	جہاں کا فاتح، ہندوستان کا ایک بادشاہ
جہاد	صفت	عربی	5	جہد سے متعلق ہے۔ اللہ کریم کے راستے میں جنگ کرنا
جہنیدہ	مونث	عربی	6	بات کو پرکھنا
جہاں زیب	صفت	فارسی	6	دنیا کو سنوارنے والا
جہاں بان	صفت	فارسی	4	جہاں کو سنبھالنے والا
جہاں دار	صفت	فارسی	3	دنیا کی حفاظت کرنے والا بادشاہ
جہنبد	صفت	عربی	1	بات کو پرکھنے والا، عقل مند شخص
جہیر	مذکر	عربی	2	خوبصورت شخص، بلند آواز
جہول	مذکر	عربی، اردو	8	نادان
جہید	مذکر	فارسی	4	ایسا شخص جس کی آواز دنگ ہو
جہید	صفت	عربی	2	عمدہ چراگاہ، سرسبز علاقہ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
جمل	صفت	عربی	2	جامل، اسلام کے بڑے دشمن کا نام ابو جمل تھا
جہاں آرا	صفت مونث	فارسی	9	جہاں کو سنوارنے والی
جھڑنا	صفت	اردو، ہندی	7	ہنگامی خواتین کا پسندیدہ نام، اونچائی سے پانی گرنا
جزا	مونث	عربی، اردو	2	نیکی کا بدلہ
جیداء	مونث	عربی	9	صراحی دار خوبصورت گردن والی
جیال	مذکر	عربی	8	عالی رتبہ، اعلیٰ خصوصیات والا
جیاد	صفت	عربی	7	اصیل، خالص
جیش	صفت	عربی	7	سپاہ، افواج

چ

نام کا ابتدائی حرف	چ
برج کا نام	حوت
ستارے کا نام	مشری
موافق پھول	چنبیلی، سرخ گلاب
موافق رنگ	سبزی مائل
موافق پتھر	نیلیم، ردغوانی، زمرود
اعداد	3

مشری اور حوت کے باہم ملاپ کے اثرات

دلیرانہ اوصاف کے مالک ہوتے ہیں۔ اپنی جوانی میں بہت سی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ مگر پس انداز کرنے کی عادت کو اپنا نہیں سکتے۔ رفتہ رفتہ خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اور پھر بڑھاپے میں مالی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وعدے کی پابندی کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ جنس مخالف کو مطیع کرنے کے گر جانتے ہیں۔ معاملات کو آسانی سے سنبھال لیتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دولت اکٹھی کرنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں دوست احباب ان پر جان چھڑکتے ہیں اور یہ ان پر۔

نام	مذکر / مونث	بر زبان	عدد	مطالب و معانی
چاند	صفت	اردو	4	قمر، ماہ تاب
چان	صفت	ترکی	9	عزیز، پیارا، محبوب
چاش	صفت	فارسی	7	مٹھاس
چاوش	مذکر	فارسی	4	قافلہ اور لشکر کا نقیب
چاشنی	مونث	اردو	3	میٹھی چیز، مٹھاس، مٹھا ذائقہ
چاشین	مونث	فارسی	4	مٹھاس کے معنوں میں مستعمل ہے
چاغانہ	صفت	فارسی	6	قصیدہ، شاعری، غزل
چاندنی	صفت	اردو	1	چاند کی روشنی
چانن	مذکر	پنجابی	5	چاند کی روشنی، اجالا
چاند خان	مذکر	ترکی، اردو	7	چاند کا رئیس
چارلش	مذکر	فارسی	3	قافلے کا نقیب
چاند بی بی	مونث	فارسی، اردو	1	ایک معروف ملکہ کا نام
چاندی	مونث	ہندی، اردو	5	سفید چمکیلی دھات کا نام
چاندوا	مذکر	اردو، ہندی	2	شامیانہ، سر پر کئے جانے والا سایہ
چرخاب	مذکر	فارسی	5	پانی کی چکریاں بھنور
چتون	مونث	ہندی	9	ترجمی نظر، تیوری
چراغ	مذکر	اردو	7	لیپ، دیا
چراغ دین	مذکر	اردو	9	دین کا اجالا، دین کا چراغ
چراغیاں	مذکر	اردو	4	چراغوں کی روشنی
چرن بردا	صفت	فارسی، ہندی	3	نیا، مند، عقیدت مند، بزرگوں کی چوتیاں اٹھانے والا
چری	صفت	فارسی	1	چمڑے کا بنا ہوا
چراہ	مونث	فارسی	4	بالائی، دودھ کی بالائی

نام	مذکر/ مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
چمن	مذکر	فارسی	4	گلستان
چمپا	مونث	ہندی	3	زرد رنگ کا ایک پھول
چمکیلی	مونث	اردو	2	چمک والی
چکوری	مونث	ہندی اردو	5	محبوب کی طرح بے قرار ایک پرندہ
چغتائی	مذکر	ترکی	1	چنگیز خان کا بیٹا چغتائی خان، چغتائی کی اولاد کا لقب
چمن	مذکر	فارسی	3	باغ
چمکیلی	صفت	اردو	5	چمکنے والی، روشنی، بکھیرنے والی
چمن آرا	مونث	اردو	7	باغ کو سجانے سنوارنے والی
چمپا	صفت	اردو/ ہندی	3	ایک پھول
چمن گل	صفت	فارسی اردو	8	باغوں کا پھول
چمائی	مذکر	اردو، فارسی	3	شراب پیش کرنے والا، ساقی
چترمان	مذکر	فارسی	1	بادشاہ، حاکم، امیر
چنبیلی	مونث	فارسی	7	خوشبودار پھول
چنچل	صفت	اردو، ہندی	5	شوخ، فٹنگ
چندا	صفت	اردو	4	چاند، کسی کو پیار سے پکارا جائے
چندرا	مونث	ہندی	6	چاند جیسی خوبصورت
چندن	مونث	ہندی، فارسی	8	صندلی
چندین	صفت	فارسی	9	کافی زیادہ، بھرپور
چندر	صفت	ہندی	5	ماہ تاب، چاند
چنگیز	مذکر	ترکی	9	عظیم، بڑا، مسلمانوں کے سفاک قاتل تاتاریوں کے سربراہ کا نام جو مسلمانوں کے لئے ایک دہشت کا درجہ اختیار کر چکا تھا

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
چنداں	صفت	فارسی	9	اس قدر، اتنی
چٹا	مونث	اردو، سندھی	9	چاند جیسی چاندنی
چشتی	صفت	فارسی	2	چشت سے تعلق، حضرت معین الدین
				چشتی کے سلسلہ سے متعلق اولیائے کرام
چشیدہ	صفت	فارسی	7	تجربہ کار، جانبدار
جیسی	مونث	ہندی، اردو	2	خوبصورت و خوش لباس خاتون
جیری	مونث	اردو، ہندی	7	کپڑا اکٹھا ہوا، ملازمہ کنیز
چیرہ	صفت	فارسی	2	بہادر، غالب
چیتا	مذکر	اردو، ہندی	9	فہم، سمجھ، ایک جانور کا نام
چیناتی	مونث	اردو، انگریزی	6	سرخ اطالوی شراب
چیولی	مونث	اردو، ہندی	5	ریشمی کپڑا
چوج	مذکر	ہندی، اردو	3	انوکھا، نرالا، نزاکت، حسن و خوبی میں
				یکتا، آرزو
چوڑا	مذکر	اردو، ہندی	5	ہندوؤں کی ایک ذات، اُمریج جگہ مربع
				کتواں یا پاؤلی
چوپہل	صفت	اردو، ہندی	1	چار پہلو والا
چوتھیا	مذکر	ہندی	9	چوتھے روز کا بخار، زمیندار
چودانی	مونث	فارسی، ہندی	2	چار موتیوں والا کانوں کا آویزہ
چوبان	مذکر	اردو، ہندی	2	ہندو راجپوتوں کی ایک ذات
چوبان	مذکر	فارسی	8	پاسبان، گڈریا چرواہا
چودس	مونث	ہندی	1	چودھویں رات کا چاند
چوراسیا	مذکر	ہندی	2	ہندوؤں کی ایک قوم
چوگوشیا	مونث	اردو	4	چار گوشوں والی ٹوپی، چار کونوں والی چادر

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
چوماس	مذکر	اردو	2	برسات کے چار ماہ
چمیل	صفت	ہندی	3	خدار، گیار
چہرہ کشا	مذکر	فارسی	3	فوٹو بنانے والا، مصور
چہرہ زاد	مونث	فارسی	9	اسفندریار کی بیٹی کا نام، بھانجی
چودھری	صفت	اردو، ہندی	3	گاؤں کا نمبردار، سرغنہ، سردار
				زمینداری کا خطاب
چمل	مونث	اردو، ہندی	2	خوش مزاجی، دل لگی، خوشگوار
چوگلا	صفت	اردو، ہندی	6	چار پنکھڑیوں والا پھول
چیتاں	صفت	فارسی	3	حیرت کدہ، ناقابل فہم

ح

نام کا ابتدائی حرف

ح

برج کا نام

زحل

ستارے کا نام

جدی

موافق پھول

سدا بہار بیلین

موافق رنگ

سینلٹی تیوی بیو

موافق پتھر

سرخ یا قوت

اعداد

8

زحل اور جدی کے باہم ملاپ کے اثرات

زیادہ اولاد پیدا کرنے کو یہ بہت اچھا خیال کرتے ہیں۔ مگر کثرت عیال سے عام طور پر یہ لوگ از حد پریشان ہی رہتے ہیں۔ جسکی وجہ سے ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہی رہتے ہیں۔ حرص اور طمع کے چنگل سے نکل نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ لوگ تنگ نظر یا بد فطرت نہیں ہوتے۔ یہ بہت ذہین و فطین ہوتے ہیں مگر ترقی کرنے والوں سے خواہ مخواہ خائف رہتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لئے ان کو بہت سخت محنت اور تہذیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح راہنمائی سے یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔

نام	مذکر / مؤنث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
حافظ	صفت	عربی	8	اللہ پاک کا صفاتی نام، نگہبان، حفاظت کرنے والا
حارث	مذکر	عربی	7	صحابی رسول کریم، حضرت حارث بن نعمان، مطلب شیر، کاشت کار
حاتم	صفت	عربی	8	صحابی رسول کریم، حضرت عدی بن حاتم کے والد ماجد، اپنی سخاوت کی وجہ سے ان کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی، مطلب بلند حوصلہ، سخی، غریب پرور
حاتم	مذکر	عربی	9	غصیلہ، مستعد
حاجب	مذکر	عربی	5	چوکیدار، رکھوالا
حاجت	صفت	عربی	7	ضرورت، احتیاج، دلیل، بحث
حادث	صفت	عربی	9	فنا ہونے والی چیز، نئی اختراع
حاذق	مذکر	عربی	8	کامل، یکمائے روزگار، دانا
حاصب	مذکر	عربی	2	اولے برساتے والا بادل
حاند	صفت	عربی	3	اطاعت گزار، مدد کرنے والا
حاجز	مذکر	عربی	1	تکوار کی دھار، منع کرنے والا، روکنے والا
حاذر	صفت	عربی	9	تیار، مستعد
حاوی	صفت	عربی	7	اللہ کریم کا صفاتی نام، غالب، ماہر، احاطہ کرنے والا
حاکم	صفت	عربی	6	حکمران، بادشاہ، سردار
حارس	صفت	عربی	8	پاسبان، نگہبانی کرنے والا
حالم	مذکر	عربی	7	بالغ و جوان، خوابوں میں رہنے والا
حازب	صفت	عربی	9	لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے والا یعنی جماعت بنانے والا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
حازم	مذکر	عربی	2	دور اندیش، تیز نظر والا، ہشیار
حامت	صفت	عربی	8	میٹھا
حازی	صفت	عربی	8	اندازے لگانے والا، قیافہ شناس
حاسب	صفت	عربی	8	حساب کا ماہر
حامز	مذکر	عربی	2	فہم و فراست والا، خوش مزاج
حامد	صفت	عربی	8	تقریف کرنے والا، نبی کریمؐ کا صفاتی نام
حاشد	مذکر	عربی	7	چاق و چوبند، جمع کرنے والا، نقیب
حاشر	صفت	عربی	5	نبی کریمؐ کا ایک صفاتی نام
حاطب	مذکر	عربی	2	لکڑیاں اکٹھی کرنے والا، موٹا
حامز	صفت	عربی	6	خوش مزاج
حائر	صفت	عربی	3	گرداب، پانی میں بھنور
حاند	مذکر	عربی	5	علیحدہ ہونا، کنارہ کش ہونا
حامض	صفت	عربی	3	ذائقہ کڑوا ہونا
حای	صفت	عربی	5	حمایت کرنا
حاجبہ	صفت	عربی	5	رکھوالی کرنے والی
حادہ	مونث	عربی	9	راستہ الگ کرنے والی
حافظہ	مونث	عربی	4	پاسبانی کرنے والی
حباشیہ	صفت	عربی	2	غلہ اور دامان جانوروں کو ڈالنا
حازبہ	صفت	عربی	4	طاقت پہنچانے والا
حاذرہ	صفت	عربی	5	بچانے والی، خبردار کرنے والی
حازقہ	مونث	عربی	4	چست و چالاک
حارشہ	مونث	عربی	3	شیرنی، حارث کی مونث
حاجرہ	مونث	عربی	1	حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ
				ماجدہ، ہجرت کرنے والی

مطالب و معانی	عدد	بزیان	مذکر / مونث	مستعمل
راست گو، اللہ کی عبادت کرنے والی	7	عربی	صفت	حائکہ
اندازے لگاتے والی، قیافہ شناس	5	عربی	مونث	حازیہ
افسردہ	5	عربی	مونث	حائکہ
حسابی کتابی، جانچ پڑتال کرنے والی	4	عربی	صفت	حاسبہ
علیحدہ ہونا، ایک جانب ہونا	1	عربی	صفت	حائکہ
پھرتی، تیار	3	عربی	صفت	حاشدہ
اثر ڈالنے والی، چھاجانے والی	3	عربی	مونث	حادیہ
غصہ دلانے والی	3	عربی	صفت	حاشمہ
اللہ کی حمد کرنے والی	4	عربی	مونث	حامدہ
چھین لینے والی	4	عربی	مونث	حافظہ
خوش رہنے والی	7	عربی	مونث	حافزہ
اطاعت گزار۔ مددگار۔	8	عربی	صفت	حافدہ
حفظ کرنیوالی۔ یادداشت۔	4	عربی	صفت	حافظہ
حمایت و مدد کرنیوالی۔	1	عربی	صفت	حامیہ
حکم چلانے والی۔	2	عربی	مونث	حاکمہ
حکمران۔ سردار۔ حاکم وقت۔	8	عربی ترکی	مذکر	حاکان
مٹھاس۔	8	ترکی	صفت	حامت
ترش ذائقہ۔	3	عربی	صفت	حامض
تیز ہوا۔ آندھی میں پتھر برساتے والی۔	2	عربی	مذکر	حاصب
بیدار مغز آدمی۔ آنکھیں کھلی رکھنے والی۔	7	عربی	مذکر	حافظ العین
لطف سے پیش آنے والی۔ برہنہ پا۔	8	عربی	مذکر	حانی
شیر فروش۔	5	عربی	مذکر	حالب

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
حارج	مذکر	عربی	5	گناہ گار۔
حاسم	مذکر	عربی	1	مسل۔ تواتر کے ساتھ۔
حاسن	مذکر	عربی	2	خوبصورت و نیک مرد۔ چاند۔
حابس	مذکر	عربی	8	روکنے والا۔
حتار	مذکر	عربی	6	عقاب۔ شاہین۔
حائل	مذکر	عربی	5	جادوگر۔ شکازی۔ جال پھیلانے والا۔
حاج	مذکر	عرب	3	حج کرنے والا۔
حاد	مذکر	عربی	4	موثر۔ تیز۔ نوکیلا۔
حاذر	مذکر	عربی	9	پرہیز گار۔ ڈرانے والا۔
عار	مذکر	عربی	2	جوشیلا۔ تند خو۔
حالی	صفت	عربی	4	مولانا الطاف حسین حالی کا نام۔ مطلب۔ موجودہ۔ وقتی۔
حانث	صفت	عربی	1	وعدہ و فائدہ کرنے والا۔ قسم توڑنے والا۔
حاجل	مذکر	اردو عربی	3	پانا۔ کمانا۔ فائدہ۔
حاضر	صفت	عربی	1	اللہ کریم کا صفائی نام۔ موجود۔ سامنے۔
حاشیہ	مذکر	اردو عربی	9	اخطا کرنا۔ کنارہ۔ کتاب میں لکھائی کے گرد خالی حصہ پر لکھنا۔
حارونی	صفت	اردو	5	شرارت کرنے والا۔ نافرمان۔
حاجت برار	صفت	عربی۔ فارسی	5	حاجت پوری کرنے والا۔
حامر	مذکر	عربی	6	گدھے والا۔
حائل	مذکر	عربی۔ اردو	7	اٹھانے والا۔ آنحضرت کو حائل قرآن کہا جاتا ہے۔
حانط	مذکر	عربی	5	بست سرخ۔ گیہوں والا۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
حباب	مذکر	عربی - اردو	4	صحابی رسول کریمؐ حضرت حبابؓ بن منذر - پانی کا بلبلہ -
حبل التین	مذکر	عربی	4	مضبوط آسرا - رسی کا مضبوط ٹکڑا -
حبیب	صفت	عربی اردو	4	پیارا - عزیز ترین -
حباشیہ	مونث	عربی	2	شاپین - عقاب -
حبہ	مونث	عربی	6	دانہ - غلہ - تھوڑا سا -
حبہ	صفت	عربی	6	شوق - پیار -
حبال	مذکر	عربی	5	رسی بنانے والا -
حبیبہ	مونث	عربی	9	ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ - دوست -
حب	مونث	اردو عربی	1	پیار - الفت - آرزو - توفیق -
جندا	مذکر	عربی	9	شباباش دینا - داد تحسین دینا -
جبور	مونث	عربی	9	خوشحالی - شادمانی -
حجت	مذکر	عربی	6	بحث و محکراز - دلیل -
جازی	صفت	عربی	2	رسول پاکؐ کا لقب - مجاز والے
حتم	مذکر	عربی	7	خالص - حتمی فیصلہ - اشد ضروری امور -
حبشی	مذکر	عربی	5	سیاہ رنگ والا - حضرت بلال حبشی -
حجاب	مونث	عربی	5	شرم و حیا - پردہ -
حجل	مونث	عربی	5	پائل - پازیب -
حجاز	مذکر	عربی	1	مدینہ منورہ - مکہ معظمہ اور طائف پر مشتمل علاقہ -

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
جہان	صفت	عربی	5	سنگتراش - معمار - ایک ظالم سپہ سالار جہان بن یوسف ثقفی - مطلب بہت حج کرنے والا
جہراں	مذکر	عربی	1	سونا چاندی -
جھل	مونث	عربی	5	ایک پرندہ چکور -
حداثت	مذکر	عربی	4	نیا پن - آغاز شباب -
حداد	مذکر	اردو عربی	8	ایک معروف ولی اللہ کا نام حفص حداد -
حدت	مذکر	اردو عربی	7	گرمی - تلوار کی تیزی -
حدیر	مذکر	عربی	7	از حد خوبصورت -
حدید	مذکر	عربی	8	لوہا -
حدیثان	صفت	عربی	5	نوجوان - ابتدا - شروع -
حدی	مذکر	عربی	4	عربی شتریانوں کا خوبصورت گیت -
حداق	مذکر	عربی	5	عقل و فہم والا -
حداق	مذکر	عربی	6	باغات -
حدبا	مونث	عربی	6	کسی پر التفات برتن -
حدیقہ	مونث	عربی	1	محفوظ باغ - کھجوروں کا باغ -
حدب	مذکر	عربی	5	کبڑا پن - اونچا ٹیلا -
حذافہ	مونث	عربی	4	حلیہ سعدیہ کی بیٹی کا نام -
حذاقت	مذکر	عربی	3	فہم و فراست -
حذیقہ	مذکر	عربی	2	صحابی رسول کریم کا نام - مطلب واقف اسرار -
حزن	مونث	عربی اردو	2	سخت زمین - دکھ - تکلیف -

نام	مذکر / مؤنث	بر زبان	عدد	مطالب و معانی
حذف	مذکر	عربی اردو	5	ختم کر دینا۔ نکال دینا۔
حذر	مذکر	اردو عربی	8	احتیاطی تدابیر۔ پرہیز۔
ح	صفت	عربی اردو	1	جنگ کر بلا میں امام حسین کے ساتھی۔
				مطلب۔ آزاد منش۔ خود مختار۔
حرم	صفت	اردو عربی	9	عصمت۔ آبرو۔ وقار۔
حرم	صفت	عربی	9	تکرار کرنا۔ اصرار کرنا۔
حریر	مذکر	عربی	6	ریشم کا کپڑا۔
خار	مذکر	عربی	4	مردانگی۔ آزادی۔
حرفی	مذکر	عربی	5	چالاک۔ ہشیار کاریگر۔
حریف	مذکر	عربی	1	مد مقابل۔
حز	مذکر	عربی	8	پناہ گاہ۔ تعویذ۔
حرم	صفت	عربی	6	حرم بیت اللہ کی چار دیواری۔
حرساں	مذکر	عربی	4	شب و روز۔
حریری	صفت	عربی	5	ریشمی کپڑے۔ دبلا پتلا آدمی۔
حشفت	مذکر	عربی	3	زور کی کڑیاں۔ سخت زمین۔
حرفہ	مذکر	اردو فارسی	5	ہنرمند۔ پیشہ۔
حراث	مذکر	عربی	7	کسان۔
حرس	مذکر	عربی	7	بادشاہ کے دربار کا نگہبان۔
حرمان	مذکر	عربی	2	کمہ اور مدینہ۔
حرفت	مؤنث	اردو عربی	4	چالاک۔ ہنر۔ پیشہ۔
حربا	مذکر	عربی	4	ایک جانور گرگٹ۔
حزین	صفت	عربی	3	افردہ۔ غم گین۔
حذافت	مذکر	عربی	6	دور اندیش۔

نام	مذکر / مؤنث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
حسان	مذکر	عربی	2	شاعر دربار نبوی حضرت حسان بن ثابت - مطلب بہت اچھا بہت بہتر - خو برو -
حسن	صفت	عربی اردو	1	حساب کرنے والا -
حسب	صفت	اردو عربی	8	خوبصورت - شکیل و جمیل -
حسین	صفت	اردو عربی	2	تکوار - شمشیر -
حام	صفت	عربی	1	چاندی کے باریک ذرات - چاندی کی طرح چمکدار -
حال	صفت	عربی	9	ایک معروف شاعر کا تخلص چراغ حسن حسرت - آرزو - خواہش -
حسرت	صفت	عربی	2	نواسہ رسول کریمؐ - حسن بن علی -
حسن	صفت	عربی اردو	1	نواسہ رسول کریمؐ - حسین بن علی -
حسین	صفت	عربی	2	حضرت حسن اور حسین کو کہا جاتا ہے -
حسین	صفت	عربی اردو	7	نیک لوگ -
حسانات	مذکر	عربی	5	نیک اور بھلائی -
حسب	مذکر	عربی	8	حسابی کتابی - نیک خو - اللہ کریم کا صفاتی نام -
حسن صبیح	صفت	عربی	3	دل کش سفید رنگت -
حسنى	مذکر	عربی	2	نیک نامی - فتح یابی -
حسیف	مذکر	عربی	5	ناراض ہونے والا -
حسود	مذکر	اردو عربی	6	بد خواہ - حاسد -
حسن آرا	صفت	اردو فارسی	5	حسن کو سنوارنے والی -
حسن خیز	صفت	اردو عربی	6	خوبصورتی کو پیدا کرنے والا - ایسا علاقہ جہاں خوبصورت لوگ رہتے ہیں -

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
حسیل	صفت	عربی	9	گائے۔ بچھڑے۔
حسن	صفت	عربی	6	خوبصورت۔ نیک۔
حسبہ	صفت	عربی	3	نیکی۔ حساب کرنے والی۔
حسیمہ	مونث	عربی	6	عالی رتبہ و عزت والی۔ ٹھہرنے والی۔
حسالہ	مونث	عربی	5	چاندی کے ڈرے۔
حسابہ	مونث	عربی	4	حساب کی ماہر۔
حشمت	صفت	اردو عربی	1	بزرگی، شان و شوکت
حشاش	مذکر	عربی	6	بھنگ فروخت کرنے والا گھسیارہ
حشیم	مذکر	عربی	7	عالی قدر۔ جس سے لوگ خوف کھائیں۔ عظیم رتبہ والا۔
حشم	مذکر	عربی	6	خاندان۔ نوکر۔ ساتھی۔ ملازم۔
حشمی	صفت	عربی	7	بزرگ۔ برتر۔ عالی رتبہ۔
حصین	صفت	عربی	5	مضبوط و محفوظ۔
حصار	مذکر	اردو عربی	2	احاطہ۔ گھیرے میں لینا۔ قلعہ۔ چار دیواری۔
حصیص	مذکر	عربی	9	اعداد۔ گنتی۔
حصی	مذکر	عربی	9	کامل الزائے۔ بہت سیانا۔
حصن	مذکر	عربی	4	قلعہ محفوظ۔ پناہ گاہ۔
حصان	مذکر	عربی	5	موتی۔
حصیر	مذکر	عربی	1	چٹائی۔
حصیف	مذکر	عربی	8	طاقت ور۔ مضبوط۔
حضار	صفت	عربی	1	ایک سیارے کا نام۔ تیز رفتار۔
حضر	مذکر	عربی	9	ٹھہرنا سفر کے دوران۔ شہر۔

نام	مذکر / موث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
حضری	مذکر	عربی	1	شہر کے لوگ۔
حضری	صفت	عربی	5	حضر موت کا رہائشی۔
حضرت	صفت	عربی	4	عزت سے پکارنے کے لئے۔ حضور۔
				جناب۔ پیرو مرشد۔
حشر	صفت	عربی	4	ایک مشہور و معروف شاعر آغا حشر کاشمیری۔ یوم حساب۔ قیامت کا دن۔
	مذکر	عربی	2	لکڑیاں اکٹھی کر نیوالا اور فروخت کر نیوالا۔
حطیم	موث	عربی	4	بیت اللہ شریف سے ملحقہ ایک مقام۔
حطیرہ	مذکر	اردو عربی	7	قبرستان کی چار دیواری۔ لکڑی یا بانس کا احاطہ۔ مقبرے کا گنبد۔
حطب	مذکر	اردو عربی	1	لاچار۔ نحیف و نزار۔
حطام	مذکر	اردو عربی	4	شیر بر۔
حطیظ	مذکر	عربی	9	دولت مند۔ خوش قسمت۔
حظ	مذکر	اردو عربی	8	لطف۔ مزہ۔
حفیظ	صفت	عربی اردو	8	اللہ کریم کا صفائی نام۔ حفاظت کر نیوالا۔
حفاظ	صفت	عربی اردو	8	حافظ کی جمع۔
حناد	مذکر	عربی	3	برق رفتار۔
حنان	صفت	عربی	2	بڑی جماعت۔
حنسبیل	مذکر	عربی	2	از حد۔ بہت زیادہ۔
حنفہ	صفت	عربی اردو	7	حفاظت۔ امان۔ ذہن نشین۔
حنس	مذکر	عربی	8	گہرائی۔ نشیب۔
حنس	مذکر	عربی	7	ایک مشہور قاری کا نام۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
حفہ	مونث	عربی	3	ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمرؓ قاروق کانام۔ شیرکی بچی۔
حفہ	مونث	عربی	4	کمان۔
حفیظہ	مونث	عربی	4	محافظ۔ نگہبان۔
حقیق	مذکر	عربی	2	لائق۔ مستحق۔
حق	صفت	اردو عربی	9	سچ۔ دوست۔ اللہ کریم کا صفائی نام
حق آشنا	صفت	اردو فارسی	1	حق کو جاننے والا۔ سچائی پسند۔
حقیب	مذکر	عربی	3	گھوڑے پر بیچھے بیٹھنے والا۔ پیچھے رہ جانے والا۔
حقیر	صفت	اردو فارسی	3	بڑے لوگ کس نفسی کے لئے خود کو حقیر لکھتے ہیں۔ گھٹیا۔ کم حیثیت۔
حق	مذکر	عربی	1	سچ کی بات کہنے والا۔
حقانی	مذکر	عربی	7	لائق۔ سچ۔ عزیز۔
حکم	مذکر	عربی	5	کچھ کرنے کے لئے کہنا۔ فیصلہ کرنے والا۔
حکیم	صفت	عربی اردو	6	عقل مند۔ دانائی والا۔ طیب، اللہ کریم کا صفائی کانام۔
حکمت	صفت	اردو عربی	7	عقل مند۔ دانائی۔ طبابت۔
حکمی	صفت	فارسی عربی	6	بے خطا۔ یقینی طور پر۔ حکم دیا ہوا۔
حکمتی	صفت	اردو	1	حکمت سے بات کرنا والا۔ نفسی زیرک۔
حلم	صفت	عربی	7	برہمت کا لباس۔
حلیف	مذکر	عربی اردو	2	مدد گار۔ ساتھی۔ ہمد۔
حلیفہ	مونث	عربی	7	حلیف کی مونث۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
حطیم	صفت	عربی اردو	7	اللہ کریم کا صفائی نام۔ نرم مزاج۔
حلیہ	صفت	عربی اردو	2	نبی کریم کی رضاعی والدہ۔ بردبار۔
حلیل	مذکر	ترکی	6	حلال۔ ہمسفر۔ سچا دوست۔ زندگی کا ساتھی۔
حلمی	صفت	ترکی	6	خوابوں میں رہنے والا۔
حلیہ	مونث	عربی	8	صورت۔ چہرہ۔ وضع قطع۔
حلوان	مذکر	اردو	5	رشوت۔ جینز۔ ایک قسم کا کپڑا۔ بکری کا دودھ پیتا بچہ۔
حلاوت	مونث	اردو عربی	4	شریں گفتاری۔ بیٹھالجبہ۔
حمد	صفت	اردو عربی	7	اللہ پاک کی تعریف کرنا۔
حمید	صفت	اردو عربی	8	اللہ پاک کا صفائی نام۔ سراہا گیا۔
حمیرا	مونث	اردو عربی	7	سیدہ عائشہ صدیقہ کو سرکارِ دو عالم پیار سے حمیرا فرماتے تھے۔ مطلب سرخ رنگ والی۔
حمیت	مونث	اردو عربی	8	عصمت۔ غیرت۔ انسانیت۔
حمرا	صفت	اردو عربی	6	سرخ رنگ کی۔
حمالہ	مونث	اردو عربی	3	بوجھ زیادہ اٹھانے والی۔
حمال	مذکر	اردو عربی	7	بوجھ زیادہ اٹھانے والا۔
حمائل	مونث	اردو عربی	8	زیور کا نام۔ گلے میں لٹکانا۔
حمدان	مذکر	عربی	4	اللہ پاک کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔
حماد	مذکر	عربی	8	اللہ کریم کی بہت حمد کرنی والا۔
حنایت	مذکر	اردو	9	مدد کرنی والا۔ حفاظت اور طرف داری کرنی والا۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
حمود	مذکر	عربی	9	قابل تعریف۔
حمیس	مذکر	عربی	1	طاقتور۔ بہادر بڈر۔
حمزہ	مذکر	عربی	6	اسد اللہ و اسد الرسول جناب حضرت امیر حمزہؓ کا نام۔ آپ آنحضرتؐ کے چچا تھے۔ جن کو آنحضرتؐ نے سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا۔
حمود	مذکر	عربی	4	بست تعریف کرنے والا۔
حیم	صفت	عربی	8	کھول ہوا پانی۔
حمی	صفت	عربی	8	تعریف کرنے والا۔
حماطہ	مونث	عربی	9	انجیر کی طرح کا ایک درخت۔
حمیمہ	مونث	عربی	4	عزیز۔ رشتہ دار۔
حمنہ	مونث	عربی	4	ام المومنین سیدہ زینبؓ کی بہن کا نام۔
حتان	مذکر	عربی	1	اللہ کریم کا صفائی نام۔ رحم کرنے والا۔ مہربانی کرنے والا۔
حنبل	مذکر	عربی	9	دریا۔ حضرت احمد بن حنبل۔
حنین	مذکر	عربی	1	اس جگہ کا نام جہاں غزوہ حنین لڑی گئی۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے۔
حناطہ	مونث	عربی	1	عطریات فروش۔
حنیف	مذکر	عربی	4	دین کا سچا۔ حق کی طرف مائل۔
حنیفہ	مونث	عربی	9	حجی۔ کھری۔ حنیف کی مونث۔ امام ابو حنیفہ مشہور نام۔
حنبل	صفت	عربی اردو	1	امام احمد بن حنبل کے مقلد۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
حنفی	صفت	عربی اردو	4	امام ابو حنیفہ کے مقلد۔
حنفا	مذکر	عربی	4	حضرت ابراہیم کے ماننے والے۔ حنیف کی جمع۔ مضبوط۔ محفوظ۔
حنوف	مذکر	عربی	9	دین کا سچا۔ صادق۔
حوت	مونث	عربی	9	بڑی مچھلی۔ ایک سیارے کا نام۔
حوال	صفت	عربی	9	انقلاب۔ تبدیلی۔ حائل ہونے والی چیز۔
حتا	مونث	اردو عربی	5	ہندی۔ ایک خوشبو۔
حواری	مذکر	اردو عربی	9	ساتھی۔ معتقد۔ مدد کرنے والا۔
حوید	صفت	اردو عربی	1	زیرک تیز۔
حور	مونث	عربی اردو	7	بہشت کی خوبصورت عورت۔
حوریہ	مونث	عربی	4	حور جیسی خوبصورت۔
حولیہ	مونث	ترکی	5	تصور۔ خیال۔
حیا	صفت	عربی اردو	1	عفت شرم۔
حیدر	مذکر	اردو عربی	6	حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب۔
حیات	صفت	اردو عربی	5	عمر۔ زندگی۔
حیاطت	صفت	عربی	5	احتیاط۔ حفاظت۔
حیاط	صفت	عربی	1	دیواریں۔
حیام	صفت	عربی	5	خواہشات۔
حنی	صفت	عربی	9	اللہ کریم کا صفائی نام ہمیشہ زندہ رہنے والا۔
حرم	صفت	عربی	6	بلند پایہ۔ شریف النفس۔
حیل	صفت	عربی	3	طاقت۔ قدرت۔ قوت۔

خ

خ	نام کا ابتدائی حرف
جدی	برج کا نام
زحل	ستارے کا نام
سدا بہار بلیں	موافق پھول
سلیٹی، ہلکانیلا	موافق رنگ
مروارید، سرخ یا قوت	موافق پتھر
600	اعداد

زحل اور جدی کے باہم ملاپ کے اثرات

زیادہ اولاد پیدا کرنے کو یہ بہت اچھا خیال کرتے ہیں۔ مگر کثرت عیال سے عام طور پر یہ لوگ از حد پریشان ہی رہتے ہیں۔ جسکی وجہ سے ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہی رہتے ہیں۔ حرص اور طمع کے چنگل سے نکل نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ لوگ تنگ نظر یا بد فطرت نہیں ہوتے۔ یہ بہت ذہین و فطین ہوتے ہیں مگر ترقی کرنے والوں سے خواہ مخواہ خائف رہتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لئے ان کو بہت سخت محنت اور تہذیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح راہنمائی سے یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔

نام	مذکر / مؤنث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
خالق	صفت	اردو	2	اللہ کریم کا صفاتی نام 'پیدا کرنے والا
خاقان	صفت	فارسی	5	چین کے بادشاہوں کا نام 'بادشاہ' بڑا خان
خاتم	صفت	فارسی	1	مہر، انگشتی
خالد	مذکر	عربی	5	سیف اللہ و سیف الرسول سیدنا خالد بن ولیدؓ کا نام 'مطلب ہمیشہ رہنے والا
خاتم	صفت	عربی، فارسی	6	ختم کرنا، حد کرنا، آنحضرتؐ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے اور آپؐ کا صفاتی نام مبارک بھی ہے۔
خان خاناں	صفت	فارسی	3	خان سردار کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح مطلب ہوا بڑا سردار، سرداروں کا سردار
خادم	مذکر	عربی، اردو	6	سعودی عرب کے فرماں روا، اپنے لئے خادم حرمین الشریفین پسند کرتے ہیں۔ مطلب خدمت کرنے والا
خاطر	صفت	اردو، عربی	9	خدمت، مدارات ایک مشہور شاعر خاطر غزنوی
خانز	صفت	عربی	1	ہدم، رفیق
خاثر	صفت	عربی	5	گروہ، جمعیت
خالف	مذکر	عربی	9	جانشین، قائم مقام، خلف سے منسوب ہے
خارق	مذکر	عربی	1	کرامات دکھانے والا، پھاڑنے والا
خاطف	مذکر	عربی	5	کڑکئی بجلی، چھین لینے والا
خازن	صفت	عربی، اردو	1	خزانہ کا رکھوالا، خزانچی

نام	ذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
خاطم	صفت	عربی	2	راہنمائی کرنے والا
خاشف	صفت	عربی	9	تکوار کی دھار
خاطب	ذکر	عربی	9	تقریر کرنے والا، بحث و تکرار کرنے والا
خاصع	ذکر	عربی	5	سادہ مزاج والا
خاشع	ذکر	عربی	8	پیش ہونے والا
خاور	صفت	عربی	6	مشرق، سورج
خانم	مونث	فارسی	7	عالی رتبہ خاتون، بیگم
خاتون	مونث	ترکی	4	امیر عورت، بیوی، عورت
خانہ	مونث	عربی	7	فخر میں مقابلہ کرنیوالی
خالہ	مونث	عربی	1	خالہ کی مونث، ہمیشہ رہنے والی
خاثرہ	مونث	عربی	9	خاثر کی مونث، گروہ، جمعیت
خازمہ	مونث	عربی	5	جد اجداد ہیں
خاطبہ	مونث	عربی	5	خاطب کی مونث، تقریر کرنیوالی
خاندہ	مونث	عربی	5	باہم دوستی کرنا
خاشعہ	مونث	عربی	4	خاشع کی مونث، عجز والی
خاشفہ	صفت	عربی	5	تکوار کی دھار
خاورہ	مونث	اردو فارسی	2	خاور کی مونث
خاکی	صفت	اردو	1	مٹی، حضرت انسان کو خاکی کہتے ہیں
خانی	صفت	ترکی	4	پوشیدہ چھپا ہوا ہے
خاکی نہاد	صفت	فارسی	7	رحم دل
خال	صفت	اردو عربی	1	خال، تل، کہیں کہیں
خالصہ	صفت	عربی	19	سرکاری، نجی، ذاتی زمین سکھ سرداروں کے لقب، سکھوں کی فوج

نام	مذکر / مونث	بیان	عدد	مطالب و معانی
خام ریش	صفت	فارسی	8	جس کی مسین بھی نہ بھیگی ہوں، داڑھی کے بغیر، بحث کم عقل
خان بہادر	صفت	اردو فارسی		انگریز مسلمانوں کو یہ خطاب دیتے تھے
خارکش	مذکر	اردو فارسی	5	محنت کش، لکڑہارا
خارا	صفت	اردو فارسی	1	نیلا پتھر، مضبوط
خارا ترش	صفت	اردو فارسی	2	پتھر کو کاٹنے والا، سنگ تراش
خارہ سنگ	مذکر	اردو فارسی	9	سنگ مرمر کی ایک قسم، سیاہ پتھر
خاسر	صفت	عربی	6	فائدہ سے محروم، گھانا اٹھانا
خاصان	صفت	اردو	5	خاص الخاص لوگ
خاصا	مذکر	اردو		بادشاہوں کی سواری کا گھوڑا
خاکباز	صفت	اردو فارسی	6	مٹی میں کھیلنے والا، خاک اڑانے والا
خاطی	صفت	عربی	8	خطا کرنے والا
خاصہ	مذکر	عربی اردو	3	خصلت، صفت
خبرت	صفت	فارسی	5	عقل و فہم، عقل بندی
خبیر	مذکر	عربی	2	خبر رکھنے والا
خبیرہ	مونث	عربی	7	خبیر کی مونث، خبر رکھنے والی
خبیب	مذکر	عربی	2	صحابی رسول کریم، حضرت خبیب بن عدی
ختم	صفت	عربی	6	تمام ختم
خبجستگی	صفت	عربی	5	سعادت، مبارک
خبجستہ	صفت	فارسی	6	مبارک، مسعود
خجیر	مذکر	اردو عربی	4	حسن و جمال کا مرقع
خجالا	صفت	اردو	5	بہت زیادہ فضول بولنے والا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
خجستہ پا	صفت	فارسی	9	مبارک قدم والا، سعد آور
خبار	مذکر	اردو، عربی	7	آنا گوندھنے والا
ختن	مذکر	فارسی، اردو	6	مشک کی وجہ شہرت والا ترکستان کا ایک علاقہ
ختان	مذکر	اردو، عربی	7	ختنہ کرتے والا
خدیجہ	مونث	عربی، اردو	1	ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ
خدا رت	مونث	عربی	8	پردہ نشین، باحیا، باپردہ
خدا م	صفت	عربی، اردو	6	خدمت گار، خادم کی جمع
خدا ف	مذکر	عربی	9	جلد بازی
خدا نگ	مذکر	فارسی	8	چھوٹا تیر
خدیہ	صفت	عربی	4	بھلائی، نیکی حسن سلوک، خوبصورتی
خدیہ	مذکر	عربی	7	عزیز ترین دوست
خدا لیش	صفت	عربی، فارسی	5	بادشاہ، طاقتور، گھروالا، خاوند
خدا یم	مذکر	عربی	6	نوکر، ملازم
خدیو	مذکر	اردو، عربی	8	مصری بادشاہوں کا لقب
خدا	مذکر	اردو، عربی	1	چہرہ، رخسار
خدا	صفت	اردو، فارسی	2	آقا، مالک، اللہ تبارک تعالیٰ
خدا بخش	صفت	اردو، فارسی	4	اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کا عطا کرہ
خدا رسیدہ	صفت	اردو، فارسی	2	اللہ کریم تک رسائی والا، اولیائے کرام کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے
خدا ساز	صفت	اردو، فارسی	7	اللہ کا بنایا ہوا
خداوند	مذکر	اردو، فارسی	8	آقا، اللہ تعالیٰ
خداوند زلہ	صفت	اردو، فارسی	7	آقا کا بیٹا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
خداوند مجازی	صفت	اردو فارسی	6	حاکم وقت، بادشاہ، خاوند
خدا انگن	مذکر	فارسی	1	عالی رتبہ شخص، بادشاہ
خدم	مذکر	عربی	5	خدمت کرنے والا، ملازم
خرت	مونث	عربی	3	ہوشیاری
خرسند	صفت	عربی	5	اطمینان، خوشی، شادمانی
خرسندہ	صفت	فارسی	1	آسودگی قناعت پسند
خرام	مذکر	عربی	4	نخرے کی چال
خرم	صفت	فارسی	3	خوش، شادمانی
خری	صفت	فارسی	4	خوشی، فرصت
خرمن	صفت	فارسی	8	چاند کا ہالہ
خروشان	صفت	فارسی	5	روتا ہوا، بلند آواز میں چیختا ہوا
خرمت	صفت	اردو، فارسی	4	جوانی کے نشے میں ڈوبا ہوا، شراب کے نشے میں مدہوش
خریف	مونث	اردو	8	موسم خزاں
خرف	صفت	عربی	7	مہمل، شکیا ہوا، بڑھاپے کی وجہ سے
خرق	مصدر	عربی	9	محبوط الحواس
خرقہ	مذکر	اردو، عربی	5	جھوٹ بولنا
خرقہ پوش	صفت	فارسی، عربی	7	درویشوں کا لباس
خروج	مذکر	اردو، عربی	8	خرقہ پہننے والے، صوفی منش، درویش
خروس	مذکر	فارسی	2	خارج کرنا، بغاوت، نکال دینا، حملہ کرنا
خزانہ	صفت	عربی	6	مرغا
خزینہ	صفت	عربی	6	دولت کا انبار
	صفت	عربی	6	دولت کا انبار، خزانہ

نام	مذکر / مؤنث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
خیزران	مؤنث	ترکی	4	عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی ملکہ کا نام سرو کے درخت کی جڑ، نرم لکڑی
خزادہ	مذکر	اردو، فارسی	5	صاحبزادہ سردار، خواجہ زادہ کا مخفف
خسرو	مذکر	اردو، فارسی	2	ایران کا ایک بادشاہ خسرو پرویز ایک مشہور موسیقی کے موجد امیر خسرو جو کہ نظام الدین اولیا کے مرید تھے۔
خسب	صفت	عربی	1	نبوس
خشنام	صفت	فارسی	4	اچھے نام والا
خشوع	صفت	اردو، عربی	4	بخی، پائیداری، راسخ عقیدہ
خشار	مؤنث	عربی	3	سنوری ہوئی، تیار ہونے والی
خشیت	مؤنث	اردو، عربی	5	ڈرنا، خوف زدہ ہونا
خیشان	مذکر	اردو، فارسی	2	سعد، مبارک
خنشا	مذکر	فارسی	6	مبارک
خصال	مذکر	فارسی	1	عادت، فصاحت کا مجموعہ
خصائص	صفت	عربی	8	خاصیت کی جمع
خصم	مذکر	اردو، عربی	1	خاوند، دشمن آقا، مالک
خصمہ	صفت	فارسی، عربی	2	دشمن لڑاکا، بھڑا کرنے والا
خضوع	صفت	اردو، عربی	9	گڑگڑانا، عاجزانہ انداز
خضریٰ	صفت	فارسی	8	حضرت خضر سے متعلق و منسوب طویل عمری
خضیب	صفت	عربی، فارسی	8	رنگا ہوا، خضاب کیا ہوا
خضستان	مذکر	عربی	6	زرہ کے بیجے پننے والا کرتا
خضر	مذکر	عربی	7	حضرت خضر کا ذکر کلام اللہ شریف میں ملتا ہے طویل عمر، راہنما

نام	مذکر / مؤنث	بہان	عدد	مطالب و معانی
خضیر	مذکر	عربی	8	ترو تازہ، سرسبز و شادات
خضرا	صفت	عربی	8	سبز رنگ، روضہ رسول کریمؐ کے گنبد پاک کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔
خطیر	مذکر	عربی، اردو	9	بست زیادہ، عظیم ترین
خطاب	صفت	اردو، عربی	8	سیدنا فاروق اعظمؓ کے والد گرمی کا نام تقریر، گفتگو
خطیب	صفت	عربی، اردو	9	واعظ، تقریر کرنے والا
خطمت	صفت	عربی	5	پھاڑ کی چوٹی
خلیق	صفت	اردو، عربی	2	مفسر، خوش اخلاق
خلیل	مذکر	عربی	4	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، دوست، ہمدرد
خلاق	صفت	عربی	2	پیدا کرنے والا، اللہ کریم کا صفاتی نام
خلاص	مذکر	عربی، اردو	1	چھوٹ جانا، آزاد ہونا
خلافت	صفت	عربی، اردو	4	خلافت راشدہ، اسلامی طرز حکومت، جانشینی
خلت	مذکر	عربی	4	القت، پیار
خلیفہ	صفت	اردو، عربی	5	اسلامی طرز حکومت میں حکمران کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ استاد کا بیٹا
خلعت	مذکر	اردو، عربی	2	پوشاک، پہلے وقتوں میں بادشاہ کسی کو خوش ہو کر خلعت انعام میں دیتے تھے۔ ایک قیمتی لبادہ
خلف	صفت	عربی	7	بیٹا
خلجیان	مذکر	اردو، عربی	9	فکر، پریشانی، ابھمن

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
غفلان	مونث	اردو، عربی	3	پاؤں میں پہننے کا زیور، پائل، پارہیب
خلیف	صفت	عربی	8	جانشین
خلف الرشید	مذکر	اردو، عربی	2	سچا جانشین، نیک بیٹا
خلفاء	صفت	اردو، عربی	9	اسلامی طرز حکومت میں حکمرانوں یعنی خلیفہ کی جمع
خلق	صفت	اردو، عربی	1	اخلاق، عادات، طبعی خصلت
خلیفہ اللہ	صفت	عربی	5	حضرت آدم علیہ السلام کا لقب، سچا دوست
خلیفہ	صفت	اردو، عربی	7	پیدا کی گئی، مخلوق
خلد	صفت	اردو، عربی	4	بہشت، جنت
خد	مذکر	اردو، عربی		رخسار
خلوت	صفت	اردو، عربی	1	گوشہ تنہائی
خلاق	صفت	اردو، عربی	3	خلق کی جمع
خلود	صفت	فارسی	1	ہیشکی، دائمی
خمر	صفت	عربی، اردو	3	شراب
خمرا	مذکر	فارسی	4	مسلمان کھار، چٹائی بنانے والا، ایک چھوٹا پرندہ
خمارد	مذکر	عربی	8	سرشاری، نشہ میں مست
خمار	مذکر	عربی	4	مستی، کیف
خمول	مذکر	عربی	1	گم نام
خمیدہ	صفت	اردو، فارسی	2	جھکا ہوا، کبڑا، ٹیڑھا
خمیل	مذکر	عربی	5	گھٹا درسیاہ بادل

نام	مذکر / مؤنث	زبان	عدد	مطالب و معانی
خفا	مؤنث	فارسی	4	گمانے والی، بجائے والی
خندہ گل	مذکر	فارسی	7	پھول کھلنا
خندہ مینا	صفت	فارسی	8	شراب جام میں ڈالتے وقت کی آواز
خندہ زن	صفت	فارسی	5	ہنسنے والا
خندہ رو	مؤنث	فارسی	1	خندہاں پیشانی سے ملنے والا، شکفتگی
خندان	مذکر	عربی	6	آرام دہ زندگی، آسویگی
خنداں	مذکر	فارسی	3	خوش مزاج
خندہ	صفت	عربی	2	شوخی و شریہ
خورشید	مذکر	اردو، فارسی	4	سورج، آفتاب
خوشر	مذکر	فارسی	3	خوشگوار، از حد خوش
خوش گل	صفت	ترکی	2	خوبصورت پھول
خوشنود	مذکر	اردو، فارسی	3	خوشی، رضامندی، آمادگی
خوارج	مذکر	اردو، عربی	9	نکلے ہوئے، جن لوگوں نے حضرت علیؑ کی مخالفت کی انہیں خارجی یا خوارج کہا جاتا ہے۔
خوارق	مذکر	اردو، عربی	7	خلاف، عادات، معجزات، کرامات
خوانین	مذکر	فارسی، اردو	6	عظیم لوگ، خان کی جمع، بڑے لوگ
خوش بخت	صفت	فارسی	9	اچھی قسمت، خوش نصیب، بختوں والا
خواہر	مؤنث	اردو، فارسی	2	ہمشیرہ
خوش اقبال	صفت	اردو، فارسی	5	اقبال مند، خوش قسمت
خورسند	صفت	فارسی	2	شاد، خوش
خوش الحان	صفت	فارسی، اردو	6	اچھی آواز والا
خویش	صفت	فارسی، اردو	7	عزیز، نزدیکی رشتہ دار

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
خوبای	صفت	فارسی	2	خوبصورت حسن
خورشید لقا	صفت	فارسی	9	محبوب، معشوق، حسن کا مرقع
خولہ	مونث	عربی	2	آنحضرتؐ کی خالہ، خیال، قابل
خوید	مذکر	عربی	5	ام المومنین سیدہ خدیجہ کے والد کا نام
خواجہ	مذکر	اردو، فارسی	3	پہاڑ، سخت پتھر، مضبوط اولیائے کرام کا لقب، آقا و مولا گھر کا مالک، کشمیریوں کی ایک ذات
خدا آفرید	مذکر	فارسی	2	پیدائش، قدرتی
خوش تر	صفت	عربی	3	از حد سرور
خبیر	صفت	عربی	2	اللہ کریم کا صفاتی نام
خیر	صفت	اردو، عربی	9	اچھائی، نیکی
خیر اندیش	صفت	عربی، فارسی	5	خیر کی امید کرنے والا
خیراتی	صفت	فارسی	6	مفت خور، خیرات سے منسوب
خیر الامم	صفت	عربی، اردو	4	اہل اسلام کو خیر الامم یعنی تمام اقوام اور امتوں میں سب سے بہتر امت اور قوم
خیر البشر	صفت	عربی	2	سرکار دو عالم کو خیر البشر سب سے اچھا انسان کہا جاتا ہے۔
خبیر	مذکر	اردو، عربی	2	حجاز مقدس کے قریب ایک قلعے کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو فتح کر کے شہرت دوام حاصل کی۔ جبکہ درہ خیبر وہ پہاڑی راستہ ہے جس سے پاکستان اور افغانستان آپس میں ملتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
خیر الورا	مذکر	عربی	4	رسول کریمؐ کا لقب، مخلوق میں سب سے بہتر
خیال	مذکر	اردو، عربی	2	فکر، دھیان رکھنا، تصور، لحاظ
خبیر حکم	صفت	اردو، عربی	3	حضرت علیؑ کا لقب
خیرات	صفت	اردو، فارسی	5	اللہ کریم کی راہ میں خرچ کرنا، اچھے کام کرنا
خط الایض	مذکر	عربی	5	صبح کا اجالا، انڈے کی طرح سفید دھاگہ
خیل	مذکر	اردو، عربی	1	جماعت، گروہ، گھوڑوں کا گلدہ
خیرہ	صفت	فارسی	5	چکاچوند، شوخ و چنپل، حیران و ششدر
خیار	مذکر	اردو، عربی	1	خیر کی جمع
خیابان	مذکر	فارسی، اردو	7	باغ کے درمیان چلنے کے لئے چمکڑی، کیاری
خیاط	صفت	عربی	8	کپڑوں کی سلائی کرنے والا
خیزش	مونث	اردو، فارسی	8	پاؤں پر کھڑا ہونا
خیام	مذکر	اردو، عربی	3	خیمہ بنانے والا، خیمہ کی جمع، ایک بہت مشہور شاعر عمر خیام
خیراتسا	مونث	اردو، عربی	7	میدہ فاطمہ الزہرا کا لقب، اطہر، خواتین میں سب سے افضل
خیزران	مونث	اردو، فارسی		سرو کے درخت کی نرم جڑ

و

نام کا ابتدائی حرف

برج کا نام

ستارے کا نام

موافق پھول

موافق رنگ

موافق پتھر

اعداد

و

مشتري

حوت

سرخ گلاب، گل یا سمین

ہلکا سبز

نیلیم زمرود، ارغوانی

4

مشتري اور قوس کے باہم ملاپ کے اثرات

صلح و انصاف ان کی سرشت میں شامل ہوتا ہے محبت اور مٹناری کو بہت اولیت دیتے ہیں۔ اور اسی اصول پر عمل پیرا رہتے ہیں کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ اپنے اعزاء سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمیشہ بلند خیال رہتے ہیں۔ ازدواجی عیش کو پسند کرتے ہیں۔ اپنے شریک حیات کو خوش کرنے کے لئے بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اسی میں ان کو روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ مخالفین کو زیر کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ سیر و سیاحت ان کا پسندیدہ مشغلہ سمجھا جاسکتا ہے۔ مایوسی کو جلد ہی یہ لوگ تدبیر سے کامیابی میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ عام طور پر کامیاب و کامران ہی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حکام تک آسانی سے ان کی راہ و رسم پیدا ہو جاتی ہیں۔

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
داور	صفت	عربی	4	حاکم، منصف
داؤد	مذکر	عربی	8	اللہ کے ایک مشہور پیغمبر، اللہ کا محبوب عزیز، زیور کتاب انہی پر نازل ہوئی تھی۔
داٹا	مونث	عربی	2	لوٹڈی، کتیز، ملازمہ
دارِ یاء	مونث	عبری	9	آشنا، واقف حال، حاجب نعمت
دارہ	مونث	عربی	3	ہالہ
داہر	مذکر	فارسی	9	نقش قدم پر چلنے والا
دارا	صفت	فارسی	8	مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا بڑا بیٹا دارا شکوہ، جس کا مزار لاہور میں ہے۔ دولت مند، بادشاہ
داتا	صفت	ہندی	1	حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں ان کا مزار مقدس ہے، عطا کرنے والا
داد	صفت	فارسی، اردو	9	شہاباش دینا، تعریف کرنا، عدل و انصاف کرنا
داورس	صفت	اردو فارسی	8	عدل و انصاف کرنے والا
دارین	صفت	اردو فارسی	4	دنیا اور آخرت
داریوس	مذکر	فارسی	2	شیر
داعصہ	مونث	عربی	8	عزت و وقار میں مقابلہ کرنے والی
داعد	مذکر	عربی	7	بلایا ہوا، طلب کیا گیا
داعی	مذکر	اردو، عربی	4	دعا گو، طلب کرنے والا
داغ	مذکر	اردو ہندی	6	ایک مشہور شاعر کا تخلص میر داغ رنج نشان، دجہ

نام -	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
دانا	صفت	اردو، فارسی	2	باشعور، علم و حکمت والا
دالیہ	صفت	ترکی	5	خوبصورت پھول کا نام
داماء	مونث	فارسی	1	سمندر، دریا
دامیہ	مونث	فارسی	6	شکاری خاتون
دامر	مذکر	ترکی	2	لوہا آہن
دائم	مذکر	عربی	1	ہنگامی، نادیر
دانش	مذکر	فارسی	4	دانائی، علمیت
دامان	مذکر	فارسی	7	عافیت، دامن
دامن	مذکر	فارسی	5	پنجابی کے نامور شاعر کا تخلص استاد دامن
دائل	مذکر	عربی	9	اطمینان سکون والا، اچھی خصلت والا
دال	صفت	عربی	3	نرم سلوک کرنا، خاطر تواضع کرنا
دائیا	مونث	عربی	3	نزدیک ہونے والی، فیاض
دائیل	مذکر	فارسی	6	پرانے زمانے کے ایک مشہور دانا کا نام
				ہوشیار، عدل کرنے والا
دائمه	مونث	عربی	6	دائم کی مونث، ہمیشہ رہنے والی
دائنه	مونث	عربی	7	احسان کرنے والی، قرضہ دینے والی۔
دانست	صفت	اردو	2	خیال، فہم عقل
دای	صفت	عربی، فارسی	2	عربی میں اس کا مطلب ہے فیاض و سخا
				جبکہ فارسی میں عقل و فہم میں یکساں عقل مند، شیر
داجن	مونث	عربی	4	پانی کھینچنے والا، ملی ہوئی بکری
دارج	مذکر	عربی	1	عام، ہر طرف پھیلنے والا
دارم	مذکر	عربی	2	فریہ، موٹا

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
داری	مذکر	عربی	8	گھر میں پڑا رہنے والا مرد، خوشبویات، فروخت کرنے والا
دائبان	صفت	عربی	5	دن اور رات
دائص	مذکر	عربی	6	چور، حاصل کرنے والا
دائق	مذکر	عربی	7	بے قیمت، رائیگاں، عقل سے بیگانہ
داعب	مذکر	عربی	5	ہنسانے والا، خوش مزاج آدمی
داعی اللہ	صفت	عربی، اردو	7	اللہ کی طرف بلانے والا، اذان دینے والا
دافق	مذکر	عربی	5	لہریں، موجیں، کودنے والا
داموق	مذکر	عربی	7	گرم ترین
دائل	مذکر	عربی	4	حیران و پریشان شخص
دائب	مذکر	عربی	8	مشقت دیکھنے والا
داؤدی	صفت	اردو، فارسی	7	حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب، ایک پھول گل داؤدی
داتار	مونث	اردو	3	سختی کرنے والا، فیاض
دات	مونث	اردو	9	مضبوط و مستحکم، مہرا
دادفرما	صفت	فارسی	6	منصف، حاکم
دادکتر	صفت	فارسی	5	عدل کرنے والا، اللہ کریم سے مراد ہے
دارباز	صفت	فارسی	8	بازی گر، کرب دکھانے والا
دارکش	مذکر	اردو، فارسی	3	پھانسی دینے والا، جلاہ
دیور	مذکر	عربی	4	صبح کی تازہ ہوا باد بجا
دیبیب	مذکر	فارسی	9	راستہ، دروازہ
دبیر	مذکر	عربی	9	ایک بہت مشہور مرغیہ گو میرزا دبیر، منصف، انشاء پر داز

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
دینر	صفت	فارسی	5	مضبوط، موٹا
دھیلا	صفت	اردو، ہندی	5	نیند بھرا ہوا، مشقت کا عادی
دبیل	صفت	اردو، ہندی	1	زیر اثر، ماتحت، رتبہ میں کمتر۔
دبستان	صفت	فارسی	4	باغ، گلشن
دربہ	صفت	عربی	4	دستور، رواج، دلیری سے کام کرنا
درافشال	مونث	عربی	6	بکھرے موتی، موتی اور طلائی ذرات
دخیل	صفت	عربی	5	داخل دینے والا، جگری دوست
درخش	صفت	فارسی	6	چمک، روشنی
درخو	صفت	پشتو	9	سیب
درناستہ	مونث	فارسی	8	بغیر سوارخ کے موتی، کنواری لڑکی
درہ	صفت	عربی	2	ام سلی، کی بیش کا نام، بڑا موتی
درخشندہ	صفت	فارسی	2	روشن، چمکدار
درقہ	مذکر	فارسی	3	ڈھال، سپر
درنایاب	صفت	فارسی	7	بے مثال گوہر
درونہ	صفت	فارسی	4	اعضائے رئیسہ، دل و سینہ
درخین	صفت	فارسی	8	قیمتی موتی، گراں قدر
دروج	مونث	عربی	6	برق رفتار سے گزرنے والی
دردانہ	صفت	فارسی	3	موتی نایاب، بے مثال موتی
دریاب	صفت	فارسی	2	سمندر کا موتی
درشکا	صفت	اردو	3	زندگی، روح
دریا	صفت	فارسی	8	موتی
درمانہ	صفت	فارسی	3	چارہ گیر
درارج	مذکر	فارسی	1	ایک خوبصورت جانور تیر

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
دریر	مذکر	عربی	9	تیز رفتار، دہرے بدن کا طاقت ور شخص
درفشاں	مذکر	فارسی	5	خوش گفتگو، موتی بکھیرنے والا
درانی	صفت	فارسی	4	افغانوں کا ایک قبیلہ
دراک	مذکر	عربی	9	عقل و فہم والا
دست یار	مذکر	فارسی	9	دوست کا ہاتھ، مددگار، مضبوط دوست
درخش	صفت	فارسی	6	روشنی، چمک، اجالا
دست گیر	صفت	فارسی	1	حضرت محی الدین جیلانی غوث پاک کا لقب غوث الاعظم و بھگیر، ہاتھ تھامنے والا
درنش	صفت	فارسی	8	ایرانیوں کا مشہور جھنڈا جس کا نام تھا درفش کاویانی، پرچم
درویش	صفت	فارسی	7	اللہ سے لو لگانے والے، دنیا سے بے پرواہ فقیر لوگ
درک	مذکر	عربی	8	ادب، دانش مند، عقل مند
درود	صفت	فارسی	7	مسلل ذکر، تعریف، سلام، آنحضرتؐ پر سلام پڑھنا
درخور	صفت	فارسی	2	اعلیٰ قدر، قابل، لائق فائق
درایت	مونث	اردو عربی	3	عقلی طور ہر کسی روایت کو پرکھنے کا اصول عقل، فہم
دراوڑ	مذکر	اردو، سندھی	6	جنوبی ہند میں رہنے والے قدیمی باشندے
دردنہ	مذکر	فارسی	2	دل سینہ
درع	مذکر	اردو، فارسی	4	لباہ، پہننے کے کپڑے
درشنا	مصدر	فارسی	6	درشن، دکھائی دینا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
در لیں	تابع فعل	اردو	4	آراستہ، ہوشیار، باقاعدہ
دریا بار	صفت	فارسی	4	دریا دل، سخی، قیاض
دراں	صفت	فارسی	3	چیرنے والا
درازی	مونث	اردو، فارسی	6	طویل، لمبائی
درا	مذکر	اردو	7	سرد، مالک
دریکتا	مذکر	اردو، فارسی	5	یہ ایک قسم کی تشبیہ قرار دی جاتی ہے کہ ایک ہی موتی، افادیت اجاگر کرنے کے لئے
دریم	مذکر	اردو، فارسی	6	سیپ کو کاٹ کر نکالا جانے والا موتی
در شہوار	صفت	اردو، عربی	5	شاہوں کے لائق موتی
در نجف	مذکر	اردو، فارسی	4	نجف اشرف سے منسوب، نجیب
				الطوفین سیدوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
دری	مونث	اردو ہندی	7	لڑائی میں ہاتھ آنے والی کینیر۔ بستروں پر بچھانے والی چیز۔
درب	مذکر	عربی	8	حریص ہونا، عادی ہونا
دراق	مذکر	عربی	8	میوہ دار درخت۔
دراج	مذکر	عربی	1	غیر قوم کافر جو دو سری قوم میں داخل ہو چکا ہو۔ بہت ہی زیادہ آمد و رفت رکھنے والا۔
درمن	مذکر	فارسی	6	علاج، تسلی و تشفی
ذرقا	صفت	فارسی	8	بادل
دراپ	مذکر	فارسی	9	بڑا دروازہ

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
دریاسی	مذکر	فارسی	5	شیر۔
درمک	مذکر	فارسی	3	نرم مٹی، میدہ۔
درغالہ	مذکر	فارسی	7	پھاڑی راستہ۔
دراز	مذکر	فارسی اردو	5	لمبا طوالت۔
دروزی	مذکر	عربی	2	اسلام کے فرقہ کا نام جو ملک شام کے کوستانی علاقہ میں قیام پذیر ہے۔
دستین	مونث	فارسی	2	ہاتھ میں لینے والا جس کو نگن کہا جاتا ہے۔
دسبہ	صفت	عربی	5	عنایت، بخش، عمدگی
دسرہ	مذکر	عربی	8	نیزہ بازی۔
دسترس	مذکر	اردو فارسی	4	ہاتھ کی پہنچ، برساتی۔
دنس	مذکر	عربی	6	حقیر، کمر نفسی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
				خود کو بے عزت و بے توقیر خیال کرنا۔
دستی	مذکر	عربی	6	ایک قدیم شرکات نام۔ تیز رفتار شخص۔
دشا	مونث	اردو عربی	8	عمر کا زمانہ، قسمت، کیفیت
دشن	مذکر	عربی	3	عنایت کرنا، بخش دینا۔
دشکار	مونث	روسی	1	عزیز از جان، پیاری، روح۔
دشنہ	مونث	فارسی	8	کاٹ دینے والی، خنجر جیسی۔
دشیا	مونث	عربی	9	سعد یوم۔
دعان	صفت	عربی	8	آواز دینا، بلانا۔
دعان	صفت	ترکی	8	ایک بڑا پرندہ جس کو شکرہ اور باز کہتے ہیں۔
دعمان	مذکر	فارسی	3	سیاہی مائل رنگت والا۔
دعاب	مذکر	عربی	5	کرتب دکھانے والا، مہمڑہ۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ولفس	صفت	فارسی	3	زماہٹ، چمک۔
دف نواز	صفت	فارسی اردو	4	دف بجانے والا، ڈولی بجانے والا۔
دفین	مذکر	عربی	9	خزانہ، چھپا ہوا۔
دفع	مذکر	عربی	7	بست زور لگانے والا، ڈھکیانے والا۔
دقیق	صفت	عربی	7	بھاری، مشکل، دشوار۔
دقاق	مذکر	عربی	7	آٹا فروخت کرنی والا۔
دقیانوس	مذکر	عربی	6	وہ بادشاہ جس سے چھٹکارا حاصل کر کے لوگ کہیں چلے گئے تھے۔
دقیوس	مذکر	عربی	9	اصحاب کف جس غار میں ٹھہرے تھے اس غار میں اسی نام کے بادشاہ کی عبادت گاہ بنوائی تھی۔
دقیقہ	مذکر	اردو عربی	3	معمولی سی چیز، معمولی بات یہ عام طور پر محاوروں میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرنا۔
دل آرا	مونث	فارسی اردو	2	دل کو سکون دینے والی۔ محبوبہ۔
دل آرام	مونث	فارسی اردو	6	دل کو پیار سے راحت دینے والی۔
دل کشا	مونث	فارسی اردو	4	دل کو کھینچنے والی، دل کو لبھانے والی۔
دل افروز	صفت	اردو فارسی	4	دل کو پیار سے روشن کرنے والی۔
دل شاد	صفت	اردو فارسی	6	شادمانی، خوشی۔
دل بر	صفت	اردو فارسی	2	پیار کرنے والے، عاشق و معشوق۔
دل ربا	مونث	اردو فارسی	3	خوبصورت، ناز و انداز والی، دل کو خوش کرنے والی۔
دل شکفتہ	صفت	اردو فارسی	2	دل کو خوش کرنا، بشاشت۔

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
دلہ باز	صفت	اردو فارسی	8	جس کا دل باز جیسا مضبوط ہو، بہادر، بے خوف۔
دلدار	مذکر	اردو فارسی	5	دل دینے والا، تسلی و تشفی دینے والا۔
دل نواز	مذکر	اردو فارسی	8	دل نواز نے والا، خوش کرنے والا۔
دلاور	صفت	اردو فارسی	7	دل گردے والا، بہادر، شجاعت کا پیکر، دلیر۔
دلیر	صفت	اردو فارسی	1	بہادر، ٹڈر۔
دلارا	صفت	اردو	2	پیارا، خوبصورت۔
دلار	مذکر	ہندی	1	پیارا، الفت، محبت۔
دلیگیر	صفت	فارسی	3	دکھا ہوا دل۔ غم سے بھرا ہوا دل۔
دل نہاد	صفت	فارسی	4	جس پر دل آجائے۔
دلہ بند	صفت	فارسی	9	محبوب، عزیز از جان۔
دلہام	مونث	عربی	3	سیاہی مائل۔
دلاص	مونث	عربی	8	زورہ جو چمکدار ہو، نرم اور چمکدار۔
دلہام	مذکر	عربی	8	بہادر آدمی، شیر صائب الرائے شخص
دملوق	مذکر	عربی	9	ایسا پتھر جو گول اور چمکدار ہو
دلیل	مونث	عربی، اردو	2	دشوق سے بات کرنا، ثبوت
دلہاٹ	مذکر	فارسی	9	عیال دار شیر
دمیر	مذکر	ترکی	2	لوہا، آہن
دامہ	صفت	فارسی	9	نوبت، نقارہ، رونق
دمیہ	صفت	عربی	5	خیر و برکت، مبارک

نام	ذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
دینا	صفت	ہندی	6	دولت مند، امیر کبیر
دمنہ	مونث	عربی	9	سبزی مائل، سبزہ
دمنہ	ذکر	فارسی	1	سفید رنگ کاریشم
دمنہ البین	ذکر	عربی	1	چالاک آدمی، جس کے ہاتھ بہت چلتے ہو
دماثر	ذکر	عربی	7	مونا اونٹ، نرم زمین
دماج	ذکر	عربی	3	کمل، مضبوط، راز
دماس	مونث	عربی	6	چھپا دینے والی چیز، ڈھانپ لینے والی
دمیم	ذکر	عربی	4	ایسا شخص جو خوبصورت نہ ہو
دبان	صفت	فارسی	5	طاقت ور، تیز رفتار
دم ریزی	مونث	اردو	1	ایسا پھل جو موسم کے بعد آئے
دیشا	صفت	اردو	4	امیر آدمی، دولت مند
دوشینہ	صفت	اردو	6	رات کا آخری پیر
دوشا	صفت	روسی	5	عزیز از جان، پیارا
دوئدا	صفت	ترکی	4	دین پر قائم رہنے والا
دودمان	صفت	فارسی	6	خاندان، بہت قبیلہ، خوشبو، نسل
دویم	صفت	فارسی	5	شاہی تاج، ایران کے بادشاہ کا تاج
دیمری	صفت	عربی	1	ذہین و شریف
ذیار	صفت	فارسی	8	علاقہ، خطہ، شہر، وطن
دیروز	صفت	فارسی	2	گزشتہ دن
دیبا	مونث	عربی	8	حریر، نہایت عمدہ باریک قیمتی کپڑا
دیان	صفت	عربی	2	اللہ کریم کا صفاتی نام، بدلہ دینے والا،
				حاکم، عدل و انصاف کرنے والا۔
دیلمک	ذکر	ترکی	2	آرزو، خواہش، امید

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
دیدار	صفت	فارسی	3	ادب سے دیکھنا، نظارہ
دیال	صفت	ہندی	9	مہربانی کرنے والا، رحم دل
دیکھ	صفت	اردو، ہندی	9	تیل سے چلنے والا دیا، ایک ایسا راگ جس کو گانے سے چراغ جل اٹھیں
دوشینہ	مونث	فارسی	6	پچھلی رات کی
دیانہ	صفت	عربی	7	ملت و مذہب، دین داری
دینار	صفت	عبرانی	9	سمندر
دہی	صفت	ہندی	8	ملکہ، رانی
دیناء	مونث	عربی	1	اطاعت گزار
دیباچ	مونث	عربی	2	جوان اونٹنی، ریشمی کپڑا
دیمہ	مونث	فارسی	5	گل رخسار
دیمہ	مونث	عربی	1	ہینٹکی، جم کر، ٹھہر کر برسنے والی بارش
دینہنر	صفت	ترکی	9	سمندر
دیون	مونث	یونانی	7	آسمان اور زمین کی بیٹی
دیوتا	صفت	عبرانی	8	عاشق محبوب
دفار	مذکر	عربی	6	دنیا
دفران	مذکر	عربی	2	ایسا سدا بہار درخت جس کے پھل سے لوگ شراب بناتے ہیں۔
دفص	مونث	عربی	3	نرماہٹ اور چمکیلا
دین	صفت	عربی، اردو	1	مذہب، مسلک، اسلام

ذ

ذ	نام کا ابتدائی حرف
عقرب	برج کا نام
مرخ	ستارے کا نام
سورج مکھی	موافق پھول
گہرا سرخ	موافق رنگ
سرخ پتھر یا قوت	موافق پتھر
700	اعداد

مرخ اور عقرب کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ بہت غصیلے ہوتے ہیں۔ بات بات پر غصہ آنا معمول کی بات ہوتی ہے۔ اسی لئے اکثر ان لوگوں کو اپنی قائم کی گئی امیدوں میں ناکامی ہوتی ہے۔ انہیں دولت کی طلب بہت ہوتی ہے۔ عزم و حوصلہ اور قوت ارادہ ان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ان سے ہمیشہ ہمدردی اور اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ مگر عمر اور دولت چلے جانے سے یہ لوگ محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں ان سے لوگ کم میل جول رکھتے ہیں۔ بحث مباحثے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ ہر بات دلیل سے کرتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ذائبہ	مونث	عربی	2	نقش قدم پر چلنے والی، ذائب کی مونث
ذابره	مونث	عربی	8	عالم فاضل ذابری کی مونث
ذابلہ	مونث	عربی	9	نیشلی آنکھوں والی، مخمور آنکھوں والی
				ذابل کی مونث
ذاکرہ	مونث	عربی	8	ذاکر کی مونث ذکر کرنے والی
ذاکر	مذکر	عربی	3	ذکر کرنے والا، اہل تشیع کے علمائے کرام
				جو مجالس میں اہل بیت کے مصائب کا ذکر کرتے ہیں۔
ذابل	مذکر	عربی	4	نیشلی و مخمور آنکھوں والا
ذامر	مذکر	عربی	5	غضب ناک، ڈرانے والا
ذاخر	مذکر	عربی	7	قریب، طاقتور، قوی، پیکل
ذائق	مذکر	عربی	1	مزه چکھنے والا
زارعہ	صفت	عربی	4	طاب ہونا، وسیلہ
ذات النطاقین	صفت	عربی	2	سیدہ اسماء بنت ابوبکر کا لقب
ذائب	مذکر	عربی	6	نقش قدم پر چلنے والا
ذائب	مذکر	عربی	6	رخصت ہونے والا
ذاجل	مذکر	عربی	5	ظلم کرنے والا، ستم کرنے والا
ذبابہ	مذکر	عربی	3	اپنے گھر والوں کا رکھوالا مرد
ذبح اللہ	صفت	عربی	3	حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا لقب
				الطہر
ذبال	مذکر	عربی	4	چراغ کی بتی
ذابر	مذکر	عربی	3	جید عالم دین و وسیع علم کا مالک
ذائل	مونث، مذکر	عربی	3	زرہ کے باریک حلقے، لمبی دم والا گھوڑا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ذخار	صفت	عربی		لسباچوڑا، طویل و عریض
زراع	مونث	عربی	8	تیز دھار، تیز کاٹنے والی
ذر	صفت	عربی	9	تھوڑی سی چیز
ذربہ	صفت	عربی	7	تیز تلوار
ذراف	مذکر	عربی	9	تیز چلنے والا
ذردت	صفت	عربی	8	پھاڑ کی چوٹی، اونچی جگہ
ذرف	مذکر	عربی	8	آنسو کا بہاؤ، آنسو بہانے والا
ذرفہ	مونث	عربی	5	آنسو کا بہاؤ، آنسو بہانے والی
ذریہ	مذکر	عربی	3	ایک بہترین خوشبو
ذریہ	مونث	عربی	6	نسل، جد اولاد
ذریث	صفت	عربی	5	نسل، سلسلہ نسب
ذریف	مذکر	عربی	9	رواں آنسو
ذرزار	صفت	عربی	1	کم حیثیت و کم قیمت آدمی
ذرفان	صفت	عربی	5	آنسوؤں کا بہنا، ست رفتار
ذکر	مذکر	عربی، اردو	2	شہرت، زبان پر جاری ورد
زکریا	مذکر	عربی	4	ایک پیغمبر کا نام، اور ایک ولی کامل
				حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی، مطلب
				بہت ذکر کرنے والا
ذکیہ	مونث	عربی	6	بہت تیز عقل و فہم والی، ذہن و فطین
ذکاء	مذکر	فارسی، عربی	1	فارسی میں سورج اور عقل جبکہ عربی میں
				اس کا مطلب ہے ذہانت، دانائی، فہم و فراست
ذکرہ	مونث	عربی	7	جلدی، تیزی، عجلت

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ذکوان	مذکر	عربی	3	جنگ احد میں ایک مجاہد صحابی کا نام ذہین و عقل مند لوگ
ذکوات	مذکر	عربی	2	حساس، عقل مندی، دانائی
ذکی	مذکر	عربی	1	فہم و فراست، پاک باز
ذکیر	مذکر	عربی	3	اللہ کو بہت یاد کرنے والا
ذمار	صفت	عربی	5	شجاعت، دلیری
ذمانہ	مونث	فارسی	3	آبرو، حرمت، عزت، ذہان کی مونث
ذلولی	مذکر	عربی	2	نرم طبع، حلیم، نیک خو
ذلیق	مذکر	عربی	3	تیز زبان، خوش بیان
ذلول	مذکر	عربی	1	ایسا ابر جس میں بجلی اور گرج نہ ہو
ذہام	مذکر	عربی	7	آبرو، حرمت، عزت
ذمیم	مذکر	فارسی	7	خینم، کنواں
ذمیر	مذکر	عربی	5	خوبرو، شجاع
ذمت	صفت	عربی	6	عہد، وعدہ، عہدہ
ذموم	مونث	عربی	3	عیب جوئی کرنے والا
ذوق	مذکر	عربی	5	ایک معروف شاعر کا تخلص، شوق پسند، شدت کی چاہت
ذوقیہ	مونث	عربی	2	ذوق کی مونث، موعوب، پسند شوق
ذوات	مذکر	عربی	9	مالکان، صاحبان
ذہین	مونث	عربی	9	جس کا ذہن بہت اچھا ہو
ذوقان	مذکر	عربی	2	پسندیدہ طبع
ذوبان	صفت	فارسی	3	گزارش، التجا، بے قراری
ذوقی	صفت	عربی	6	ذوق رکھنا

نام	مذکر / مؤنث	زبان	عدد	مطالب و معانی
ذواد	صفت	عربی	9	وضع دار، باغیرت
ذوالنورین	صفت	عربی	9	سیدنا مولانا عثمان غنی کا لقب اطہر
ذوالنون	صفت	عربی	6	حضرت یونس علیہ السلام کا لقب
ذوالاحرام	صفت	عربی	1	قابل احترام
ذوالقرنین	صفت	عربی	4	عربی میں سکندر اعظم کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔
ذوالفقار	صفت	عربی	2	حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار کا نام، پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا نام
ذوبانی	صفت	اردو، عربی	4	بے چینی و بے قراری
ذواق	مذکر	عربی	6	عیاش طبع
ذوین	مذکر	عربی	8	زمانہ قدیم میں یمن کے بادشاہ کا نام
ذو	مذکر	اردو، عربی	4	والد، مالک، آقا
ذوالکفل	مذکر	عربی	3	ایک پیغمبر کا لقب
ذوالنورین	صفت	عربی	9	دو نوروں والا، سیدنا عثمان غنی خلیفہ دوم کا لقب مبارک، وجہ لقب یہ ہے کہ آقا نامدار کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں آئیں۔
ذوالمنن	مذکر	عربی	4	احسانوں والا
ذوفنون	مذکر	عربی	1	ہر فن مولانا عالم اور فاضل
ذوقاف	مذکر	عربی	6	تھوڑا سا پانی، گرمی، نمی، زہر
ذوط	مذکر	عربی	3	ست رو لاغر شخص
ذوقاق	مذکر	عربی	8	تیز زبان اور جلدی بولنے والا
ذوق	مذکر	عربی	6	کمزور اور کابل جسم والا

نام	مذکر / مؤنث	زبان	عدد	مطالب و معانی
ذقن	مذکر	عربی	3	پیرانہ سالی، ضعیف بزرگ
ذہاب	صفت	عربی	6	گزرنا، چلے جا
ذی شان	صفت	عربی	8	بڑی شان والا
ذیب	مذکر	عربی	1	بھیریا
ذہب	مذکر	عربی	7	سونا، دھوپ
ذہیب	مذکر	عربی	6	سونے کا ملمع چڑھا ہونا، سنہرا
ذی	صفت	عربی	8	مالک، مختار
ذہین	مؤنث	عربی	9	جس کا ذہن بہت اچھا ہو
زینب	صفت	عربی	6	حضور نبی کریم کی صاحبزادی کا نام
ذیاج	صفت	عربی	3	ہم نوالہ وہم پیالہ ہونا، ہم نشینی کرنا
ذبح	مذکر	عربی	5	دلاور، سرخ رنگ کا ایک ستارہ بھیریا
ذیال	مذکر	عربی	3	لپے کرتے والا، جس کی چال میں تکبر ہو
ذیمری	مذکر	عربی	6	دانا شخص عقل مند
ذعمان	مذکر	عربی	4	جوان بھیریا

نام کا ابتدائی حرف	ر
برج کا نام	میزان
ستارے کا نام	زہرہ
موافق پھول	سفید اور سرخ رنگ کے پھول
موافق رنگ	نیلا و گلابی
موافق پتھر	دودھیا اور مروارید
اعداد	200

زہرہ اور میزان کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ ہر حال میں عیش و آرام پسند کرتے ہیں۔ اعلیٰ طبقہ میں میل جول بڑھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ جنس مخالف کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ ایک سے زائد شادیوں کو برا خیال نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے ان کو بچوں کی تعداد کی فکر نہیں ہوتی۔ بڑا کنبہ پسند کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کی عزت اور وقار سے بڑھ کر ان کے نزدیک کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔ عزت دولت اور شہرت کے حصول کے لئے یہ لوگ ہمہ وقت مصروف عمل رہتے ہیں۔

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
رازق	صفت	اردو، عربی	2	اللہ کریم کا صفاتی نام، رزق دینے والا۔
رافع	صفت	عربی	9	اللہ کریم غفور الرحیم کا صفاتی نام، بلند کرنے والا
رابعہ	مونث	عربی	8	حضرت رابعہ بصری مشہور ولیہ تھیں۔ مطلب چوتھی
رابیہ	مونث	عربی	2	اونچی زمین
رابع	ذکر	عربی	5	قیام کرنا، سکونت اختیار کرنا
راخ	ذکر	عربی	6	ثابت قدم، مضبوط اصول
رادھا	مونث	ہندی	4	ہندوؤں کے ایک اوتار کرشن چندر کی ایک گوی کا نام، قدرت، کامیابی
راجہ	مونث	عربی	9	رجوع کرنے والی
رابطہ	ذکر	ترکی	5	راہب، عابد، کسی امر پر بیٹھ کر اختیار کرنا
راسم	ذکر	ترکی	4	جاری پانی، عکس تصویر
راہب	ذکر	عربی	2	حلیم الطبع، بزدل، ذہین
راجک	مونث	عربی	5	پیدل چلنے والی
راجنی	مونث	ہندی	3	ملکہ، مہارانی
راجیہ	مونث	عربی	3	سائل، امیدوار
رائغ	ذکر	عربی	6	خوشحال، اطمینان والا
راج	ذکر	ہندی	3	حکومت، حاکم وقت
رانی	مونث	ہندی	9	حاکم وقت کی ملکہ
راج	ذکر	عربی	5	اعلیٰ عہدہ پر فائز، بہترین
مراجع	ذکر	عربی	4	رجوع کرنے والا
راجہ	مونث	عربی	1	سر تسلیم خم کرنے والی

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	سر مطالب و معانی
راحت	صفت	عربی / اردو	6	آرام، سکون
را حل	صفت	عربی	5	کوچ کرنے کی تیاری، سفر کی تیاری کرنے والا
راجیل	مونث	عبرانی	6	حضرت یوسف کی والدہ صاحبہ کا نام
راجل	مذکر	فارسی	9	پیدل چلنے والا
راحم	صفت	عربی	6	رحم کرنے والا، رحیم
راحله	مونث	عربی	1	را حل کی مونث
رادہ	مونث	عربی	3	خوبصورت جوان عورت
راخی	مذکر	عربی	1	خوشحالی میں زندگی گزارنے والا
راذن	صفت	عربی	6	کسی کا ہو جانا
رازی	مذکر	عربی	2	کسی کا احسان مند ہونا
راسین	مذکر	عربی	6	مضبوط مستحکم، استوار
را بجا	صفت	فارسی	3	عاشق، مشہور داستان ہیر رابجا
راشد	مذکر	عربی	1	ہدایت پانے والا
راشق	مونث	فارسی / عربی	7	عربی میں ہمراہ چلنے کو جبکہ فارسی میں تیر انداز کو کہتے ہیں۔
راعف	مذکر	عربی	9	بڑھ جانے والا
رای	مذکر	عربی	3	حاکم، سبقت لے جانا
رافق	مذکر	عربی	3	مہربانی، حسن، سلوک
رافت	صفت	عربی	6	مہربانی
راصد	مذکر	فارسی	7	منظر، غرائف والا شیر، جگہبان دسد پہنچانے والا
راض	مذکر	عربی	2	رضامندی، خوشنودی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
راضب	صفت	عربی	14	باران رحمت، بارش
راغب	صفت	اردو، عربی	4	مائل بہ، رغبت رکھنا
راعف	مذکر	عربی	9	بازی لے جانے والا، سبقت لے جانے والا
راعی	مذکر	عربی	2	حاکم، علاقہ کا والی، چرانے والا
رازق	مونث	عربی	7	رازق کی مونث، رزق دینے والی
راسبہ	مونث	عربی	2	حلیم، بردباری
راسہ	مونث	عربی	5	رکس بنانا
راسیہ	مونث	عربی	6	مستحکم، ثابت قدم، مضبوط ہلاڑ
رافد	مذکر	فارسی	6	مددگار، عطا کرنے والا
راقد	مذکر	فارسی	8	استراحت کرنے والا، سونے والا
رافف	مذکر	فارسی	1	چمکنے والا، اٹھانے والا
رائج	مذکر	عربی	3	سر تسلیم خم کرنے والا، عاجزی کرنے والا
راکب	صفت	فارسی	7	بمسافر، ہم رکاب
رامی	مذکر	عربی	8	چمکنے والا
رامش	صفت	فارسی	1	آرام و سکون، سرور و نعمتگی
رامق	مذکر	عربی	8	عزت و توقیر سے پیش آنے والا
راؤل	مذکر	ہندی	3	جوگی، افسر، سردار
راہین	صفت	عربی	5	تاج فرمان، ماتحت
رائت	صفت	عربی	8	نشان، جھنڈا
رائج	صفت	عربی، اردو	7	جس کا بہت رواج ہو، چلن
رائد	مذکر	عربی	8	مٹلاشی، سراغ رساں
راشدہ	صفت	عربی، اردو	6	خلافت راشدہ، ہدایت یافتہ، راشدی
				مونث

نام	مذکر / مونث	بی زبان	عدد	مطالب و معانی
راہقہ	صفت	عربی	1	ہمراہی، ساتھ دینا
راصدہ	مونث	عربی	1	راصد کی مونث، رسید پہنچانے والی
راضیہ	مونث	عربی	8	سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب، خوش ہونے اور خوش کرنے والی
رائفہ	مذکر	عربی	3	گھوڑے کو سدھانے والا چابک
رائق	صفت	عربی	5	اچھی چیز دیدہ زیب
رائم	مذکر	عربی	8	متلاشی، چاہنا، پیار کرنے والا
راہب	مذکر	عربی	1	تارک الدنیا، غیر مسلم عابد
راہبہ	مونث	عربی	6	راہب کی مونث
راعنہ	صفت	عربی	2	خوبصورت، شہزادی
رافتہ	مونث	عربی	2	کرم کرنا، مہربانی کرنا
رافدہ	مونث	عربی	2	مددگار، تعاون کرنے والی
رافعہ	مونث	عربی	9	رائف کی مونث، بلند کرنے والی
رافضہ	مونث	عربی	6	کام پر لگانے والی
رففہ	صفت	عربی	6	چمکیلی، چمکنے والی
زافہ	صفت	عربی	7	خوشحالی سے زندگی گزارنا
رائمہ	مونث	عربی	4	رائم کی مونث، متلاشی، پیار کرنے والی
رائنی	صفت	ہندی	2	موسیقی کی صنف، راگ کی مونث
رائیہ	صفت	عربی	8	پناہ لینا
رائقہ	صفت	عربی	1	اچھی خوبصورت چیز
راقبہ	مونث	عربی	2	حفاظت و نگہبانی کرنے والی
رائجہ	صفت	عربی	8	مکار، خوشبو
راکبہ	مونث	فارسی	3	راکب کی مونث، سوار، ہمسفر

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
رامشہ	صفت	عربی، فارسی	6	گانا، خوشی، اطمینان
راہنہ	مونث	عربی	9	شرطیں باندھنے والی
راہین	صفت	فارسی	4	اطاعت گزار، تابع فرمان
رائیا	مونث	ہندی	1	حاکم وقت، ملکہ
راوی	مذکر	عربی	1	لاہور کا ایک معروف دریا، گانام، روایت بیان کرنے والا
راہن	مذکر	عربی	4	نجیف شخص گڑا ہوا
راد	مذکر	عربی	7	واپس کر دینے والا، پھر دینے والا
راسالی	مذکر	عربی	9	دولت مند، سرمایہ دار
راسوم	مذکر	عربی	1	نشان، مہر، طاقت
راطم	مذکر	عربی	7	کسی اصول یا چیز کو مضبوطی سے تھامنے والا
راقب	صفت	عربی	6	دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا، رقیب
راجپوت	مذکر	ہندی	9	ہندوؤں کی ایک معروف ذات، راجاؤں کی اولاد، شہزادہ
رافض	مذکر	عربی	1	پس پشت ڈالنے والا، چھوڑنے والا
راکد	صفت	عربی	9	ٹھہرا ہوا، جما ہوا
راہد	مذکر	عربی	9	خزانہ کا محافظ
رانا	مذکر	اردو، ہندی	9	راجپوتوں کا ایک قبیلہ، چھوٹا راجہ
راہی	مذکر	اردو، فارسی	9	راستہ کا مسافر
رب	صفت	اردو، عربی	6	اللہ رب العزت کا صفاتی نام، پرورش کرنے والا
رباب	صفت	فارسی	7	ایک ساز گانام

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
ربانی	مذکر	عربی	2	رب سے منسوب، عالم باعمل، رب والا
رباط	مذکر	عربی	5	بندش لگانے والا، باندھنے والا، لشکر کے پڑاؤ کی جگہ
رباض	مذکر	عربی	4	وحشی اور خونخوار شیر
ربیبیں	صفت	عربی	2	دلیر، نڈر، بے خوف
رباء	صفت	عربی	5	منافع، بیاض، سود
ربانہ	صفت	عربی	6	پھونٹا ساز
ربایہ	صفت	عربی	2	وعدہ، عہد و پیمان
ربطہ	صفت	عربی	9	مضبوطی سے باندھنا
ربیعہ	مونث	عربی	8	عرب کی مشہور قاریہ، موسم بہار کی سوغات
ربیبہ	صفت	عربی	7	دلیر، بے خوف، ربیب کی سونٹ
راقوق	صفت	عربی	6	عزت، شرف، غالب ہونا
رتبہ	صفت	اردو، عربی	4	وقار، عمدہ، عالی رتبہ
رجاء	صفت	عربی	6	تمنا، خواہش
رجب	مذکر	عربی، اردو	9	اسلامی سال کا ایک مہینہ شرم اور حیا کرنا
رجاب	صفت	عربی	8	عزت و توقیر کرنا
رجال	مذکر	عربی	9	رجل کی جمع بہت سے لوگ
رجاس	صفت	فارسی	3	ہمند
رجبل	صفت	عربی	9	صابر و شاکر، ثابت قدم
رجوہ	صفت	عربی	7	بھروسہ کرنا، امید کرنا
رجیہ	صفت	عربی	2	عزت کرنا، تعظیم دینا
رجیہ	مونث	عربی	7	سر جھکانے والی، عاجزی کرنے والی

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
رچنا	صفت	ہندی	2	محبت، یگانگت، پیار
رحاب	مذکر	فارسی	4	کشادگی، پھیلاؤ
رحابہ	مونث	فارسی	9	رحاب کی مونث
رحال	مذکر	عربی	5	ہمیشہ سفر میں رہنے والا، چڑے کا زین
رحا	صفت	عربی	8	پائیدار، مضبوط
رحل	صفت	عربی	4	اسباب، منزل، کلام اللہ شریف جس پر رکھ کر پڑھا جاتا ہے۔ سفر
رحلہ	صفت	عربی	9	رحل کی مونث، کوچ، سفر
رحمہ	صفت	عربی	1	رحمہ کی، ترسی کھانا
رحماء	صفت	عربی	6	رحم کھانا، رحم دل ہونا
رحمان	صفت	اردو، عربی	2	اللہ کریم غفور الرحیم کا عظیم صفاتی نام، رحم کرنے والا
رحیب	مذکر	عربی	4	بہت خوش خوراک، فراخ و کشادہ
رحیق	صفت	عربی	3	خوش نما اور سمارٹ
رحیل	صفت	عربی	5	سفر کے لئے کوچ کرنا
رحیم	صفت	عربی، اردو	6	اللہ پاک کا صفاتی نام، رحم کرنے والا
رحیمہ	صفت	عربی، اردو	2	رحیم کی مونث، رحم کرنے والی
رجنی	مذکر	عربی	4	رجعت پسند
رجل	مذکر	عربی	8	بالغ مرد، حضرات
رجم	مذکر	عربی	9	دوست، ہم نشین
رخامہ	مونث	عربی	9	سنگ، رمر کا ٹکڑا
رخسار	صفت	عربی، اردو	8	گال، عارض
رخسانہ	مونث	فارسی	7	طلوع صبح

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
رخام	مذکر	عربی	4	سنگ مرمر
رخش	صفت	فارسی	2	چمک، روشنی کی کرن
رخشاں	مذکر	فارسی	8	روشن، چمکتا ہوا نور
رخشندہ	مونث	فارسی	7	چمکتی ہوئی، روشن، منور
رخشمہ	صفت	فارسی	7	شعلہ، چراغ کی لو
رخشی	صفت	فارسی	3	روشنی کی کرن، چمک
رجاب	مذکر	عربی	8	روز قیامت، دریا
رجمان	مذکر	عربی	6	واپس رجوع کرنا، خط کا جواب دینا
رخص	صفت	عربی	8	نرم و نازک
رخود	مذکر	عربی	9	موٹا تازہ شخص
رخاخ	مونث	عربی	6	نرم زمین، فراخ زمین
رخصت	مونث	عربی، اردو	3	جانے کی اجازت، کسی کام کی اجازت یا منظوری
رداح	صفت	عربی	6	لشکر جہاز
رودح	مذکر	عربی	9	ثابت قدم، برقرار
رداع	صفت	عربی	5	جسم پر خوشبو کا اثر قائم رہنا، یا محسوس کرنا
ردید	صفت	عربی	2	ایسا بادل جو برس چکا ہو
رزین	صفت	عربی	6	استحکام، مضبوطی
رزاق	صفت	عربی، اردو	2	اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام، رزق دینے والا
رزاقہ	صفت	عربی	7	رزاق کی مونث، رزق دینے والی
رزق	صفت	عربی، اردو	1	کمائی، روزی
رزی	مذکر	عربی	1	احسان مند ہونا

نام	مذکر / مونث	بڑیاں	عدد	مطالب و معانی
رزم	صفت	عربی، اردو	4	جنگ و جدل
رزانت	صفت	فارسی	1	سکھ چین، آہستہ روی
رسال	مذکر	عربی	3	شیر
رسالت	صفت	عربی	7	رسالت ماب "وہ پیغامبر جو اللہ کریم اپنے خاص بندوں سے کرتا ہے۔ ان کو رسول کہا جاتا ہے۔
رسان	صفت	فارسی	5	بھینٹا، دینا، جیسا کہ اللہ کریم کو سب کا روزی رساں کہا جاتا ہے۔
رسان	صفت	فارسی	5	رزم روی، آہنگی
رسام	مذکر	عربی	4	تصویر کشی کرنے والا، مصور
رستم	مذکر	فارسی	7	ایران کا مشہور جرنیل جس کو اسلامی افواج نے بعد از شکست قتل کر دیا تھا، اس کو ایک غلام نے قتل کیا۔
رئس	صفت	عربی	1	آنحضرت کی ایک گوار کا نام، مطلب ہوشیار شخص، بردبار، باہوش
ربیع	صفت	عربی	7	خوشحالی، نظرات سے پاک زندگی
ریل	مذکر	عربی	3	ارسال کیا ہوا، بھیجا ہوا، قاصد
رسانہ	صفت	عربی	9	تیز رفتاری سے چلنا
رسمین	مونث	عربی	9	علامت خاکہ
رسمیہ	صفت	عربی	9	نشان، سر، نقش، سرکاری
رسول	مذکر	عربی، اردو	8	پیغام لانے والا یا پیغام پہنچانے والا۔ اللہ کریم کے وہ خاص بندے جو لوگوں کی بھلائی کی خاطر اللہ کریم کی جانب سے مقرر ہوتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
سریلہ	مونث	عربی	7	ارسال کی ہوئی، قاصدہ
رسل	صفت	عربی، اردو	2	رسول کی جمع
رسانیا	مذکر	اردو، ہندی	7	کیمیاگر
رسیدہ	صفت	فارسی، اردو	9	بوڑھا، پہنچا ہوا، بالغ
رشید	صفت	عربی، اردو	1	اللہ کریم، کاضفائی نام، ہدایت پایا ہوا
رشد	صفت	اردو، فارسی	9	ہدایت حاصل کرنا، راہ راست
رشا	مذکر	عربی	6	ہرن کا بچہ
رشادت	مذکر	فارسی	5	ہدایت
رشیق	مذکر	عربی	7	خوش وضع شخص
رشدی	مذکر	عربی	2	ہدایت یافتہ، راستی پہ چلنے والا، سچائی
				کانادی، مگر اس نام کے ایک ملعون نے
				شان رسالت میں گستاخی کر کے بدنامی
				مول لی اور تاحال گوشہ نشینی میں مبتلا
				ہے۔
رشحات	صفت	عربی	9	رس، قطرہ
رشاقت	صفت	فارسی	9	جسمانی خوبصورتی، سیڈول جسم
رشتیاء	مونث	فارسی	2	سچی، پاک
رشدہ	مونث	عربی	9	رشحات کی مونث، قطرہ بوند رس
رشدہ	مونث	عربی	5	ہدایت یافتہ، رشد کی مونث
رشدہ	مونث	عربی، اردو	6	رشد کی مونث یا ہدایت یافتہ
رشدہ	مونث	عربی	3	رشد کی مونث، خوش اندام و خوش
				کلام خاتون
رصا	مذکر	عربی	3	طاقتور مضبوط و مستحکم

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ر صیب	مذکر	عربی	5	مصاحب، دوست، ہمسر
ر صین	صفت	عربی	8	ہریان، صاحب قوت
ر صفیہ	مونث	عربی	7	دوست نظیر
رضا	مذکر	عربی	2	امام موسیٰ رضا اور امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی، خوشنودی
ر ضوانہ	مونث	عربی	9	خوشنودی و رضامندی
ر ضوہ	مونث	عربی	3	راضی ہونے والی
ر ضیہ	مونث	عربی	7	رضامند، راضی و خوش ہونے والی
ر ضوان	صفت	عربی	4	جنت کے داروغہ کا نام، رضامندی
ر ضوی	مذکر	عربی	8	مدینہ منورہ کا ایک پہاڑ، ایک مشہور عالم دین علامہ محمود احمد رضوی
رضی	صفت	عربی	2	خوش ہونا، راضی ہونا
ر ضیم	مذکر	عربی	6	پختہ مکان جو پتھروں سے تعمیر ہوا ہو۔
ر عاد	مذکر	عربی	5	گر بنے والا بادل
ر عانی	مذکر	عربی	7	تختی، فیاض
ر عوف	مذکر	عربی	5	ہلکی بارش
ر عیل	مذکر	عربی	4	ٹولہ، آتے رہنے والا
ر غد	صفت	عربی	7	نعمت، آسائش
ر طلبہ	مونث	عربی	3	تیز رفتار گھوڑی
ر عانی	صفت	عربی	1	فیاض تختی
ر عنا	مونث	عربی	6	راعنائی و کھانے والی
ر عوفہ	مونث	عربی	6	رعوف کی مونث، ہلکی بارش
ر عیلہ	مونث	عربی	9	پیش قدمی کرنے والی، راعنائی کرنے والی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
رفاق	مذکر	عربی	3	ساتھی، ہمسل
رفاقت	مذکر	عربی	7	ساتھ بھانے والا
رفیع	صفت	عربی / اردو	9	بلند ترین، اونچا، عالی قدر، بلند درجہ
رفاء	صفت	عربی	2	نیکی اور بھلائی
رغده	صفت	عربی	3	عیش، خوشحالی
رغمہ	مونث	عربی	6	برکت، انعام
رفاعہ	مونث	عبرانی	8	سیجا، زخمیوں کو آرام پہنچانے والی
رفاہ	صفت	عربی	7	نیکی آرام، سکھ چین
رفاہت	صفت	فارسی	2	آسائش، آرام
رفعہ	صفت	عربی	3	نئی شادی کی مبارک باد
رفش	مذکر	عربی	4	سیراب کھلا
رفیق	مذکر	عربی	3	دوست، ہم
رفیقہ	مونث	عربی	8	رفیق کی مونث، دوست ساتھی
رفت	صفت	عربی	3	سر بلندی بزرگی
رفیق	صفت	عربی	2	مہربان، نرم رویہ، فائدہ دینے والا
رفذہ	مونث	عربی	4	آسرو، بنا، سہارا دینا
رفیعہ	مونث	عربی	5	رفیع کی مونث، اونچائی بلندی
رخشہ	مونث	عربی	9	رخش کی مونث، سیراب، کشادگی
رفتہ	صفت	عربی	7	رفتگی کی مونث، فائدہ دینے والی
رفض	صفت	عربی	9	مخالفت
رفضہ	صفت	عربی	5	اختلاف کرنے والا، کسی چیز کی ضد
رفاس	مونث	عرب	8	اونٹ کو باندھنے والی رسی، رشتہ مضبوط
				جوڑنا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
رقال	مذکر	عربی	5	لسبالب
رقاب	مذکر	عربی	6	غلام
رقت	مذکر	اردو، عربی	7	پر نعم، نرمابٹ، چلاپن
رقیق	مذکر	اردو، عربی	5	چٹا، سیال، ملائم
رقاد	مذکر	عربی	9	خواب نیند
رقیم	مذکر	عربی	8	مسودہ تحریر
رقیہ	مونث	عربی	9	سرکار دو عالم کی بیماری میں جن کا نکاح امیر المومنین عثمان غنیؓ سے ہوا تھا مطلب ہے بڑھنے والی
رقیمہ	مونث	عربی	4	مکتوب، خط
رقصاں	مذکر	عربی، اردو	9	ناچنا، گھومنا، بھنگنا ڈالنا
رقاص	مذکر	عربی، اردو	4	ناچنے والا یا والی
رقیب	مذکر	اردو، عربی	6	اللہ کریم کا صفاتی نام، نگہبان، دھیان رکھنے والا
رقیم	مذکر	عربی	8	کتاب تحریر، رقم کیا ہوا
رکبانہ	مونث	عربی	8	سواری کرنے والی خاتون، رکبان کی مونث
رکین	مونث	عربی	1	شوخی سے عاری خاتون، باوقار، سنجیدہ
رکیمہ	مونث	عربی	3	بمسطور، سواری کرنے والا، ماہر سوار
رکاز	مذکر	عربی	3	سوتے اور چاندی کی کان، خزانہ
رکبان	مذکر	عربی	3	سواری کرنے والا ماہر سوار
رکان	مذکر	عربی	1	درستگی کرنا، اصلاح کرنا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
رکاب	مذکر	عربی	7	شتر سوار، گھوڑے پر چڑھنے کے لئے جس میں پاؤں رکھ کر سوار ہوا جاتا ہے۔
رکن	صفت	عربی	9	کسی چیز کا بہت مستحکم کنارہ
رکوب	مذکر	اردو، عربی	3	سواری کا اونٹ، سوار
رئیک	صفت	عربی	7	ادبلا پتلا، نازک، ایک معنی میں گھٹیا
رکن الدولہ	صفت	اردو، عربی	4	وزیر، مشیر
رکود	مذکر	عربی	5	استراحت کرنا، ٹھہرنا، رکنا
رکوض	مذکر، مونث	عربی	9	ایسی کمان جس سے جلد جلد تیر پھینکے جاسکیں۔
رکون	مذکر	عربی	6	اعتماد حاصل کرنا، میلان کرنا، رجوع کرنا۔
رمضان	مذکر	عربی	2	ماہ صیام کا نام، زندہ کرنے والا
رماز	مذکر	فارسی	5	اشاروں سے مطلب سمجھنا، راز دان
رمان	مذکر	عربی	3	ایک بڑا مشہور پھل انار
رمید	مذکر	عربی	2	بڑھاوا، کثرت، زیادتی
رمایہ	مونث	عربی	4	تیر چلانے والی
رمشہ	مونث	عربی	7	دوستی کرنا، بڑھانا
رمزہ	مونث	عربی	9	عشوہ طرازی
رموز	صفت	عربی	1	بہید، اسرار، رمزی جمع
رمزی	مذکر	عربی	5	بہیدی، راز
رمیل	مذکر	عربی	1	سجاوٹ کرنے والا
رمیز	مذکر	عربی	6	عقل و فہم والا، اسیل محترم۔
رمیض	مذکر	عربی	6	بھالہ، نیزہ۔

نام	مذکر/ مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
رملہ	مونث	عربی	5	ام المومنین ام حبیبہؓ کا اصلی نام، سجانے والی، بچی ہوئی
رمونا	مونث	سندھی	9	حفاظت کرنے والی، پناہ اور تحفظ دینے والی
رمیہ	مونث	عربی	3	تیرنے والی، فراوانی کثرت
رمیشہ	مونث	عربی	8	آنحضرتؐ کی خالہ کا نام، پھولوں کا گلہ ستہ
رمنا	مذکر	ہندی اردو	3	سامنا، گھومنا، پھیرنا
رمیصا	مونث	عربی	8	سیدنا ابو طلحہؓ کی بیوی کانام جو ام سلیم کے نام سے مشہور تھیں۔
رمیضہ	مونث	عربی	2	چھوٹا نیزہ، رمیض کی مونث
ریملہ	مونث	عربی	6	آنحضرتؐ کی خالہ کانام، سجانے والی
رمتی	مذکر	عربی	7	باقی بچا ہوا۔ صبر کرنے والے درویش
رمل	مذکر، مونث	عربی	9	ریت ایک علم کانام جس کو ریت پر لکھ کر کیا جاتا ہے
رماح	مذکر	عربی	6	نیزہ، بنانے والا
رمجیرا	مذکر	اردو، ہندی	9	غلامان، ملازمین
رنگیلا	مذکر	اردو	9	رنگ بکھیرنے والا، خوش مزاج۔
رناء	مونث	عربی	8	کسی پر آوازے کنا، کسی کی طرف دیکھنا
رنس	مونث	عربی	4	روشنی کرن
رن	مونث	پنجابی	7	بیوی، خاتون
رنیم	مونث	عربی	3	ایک راگ کی آواز
رنم	مونث	اردو، ہندی	2	آواز

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
رینین	مذکر، مونث	عربی	4	گرہ، راگ، آواز
روف	صفت	عربی	7	اللہ پاک کا معافی نام، مہربان شفقت کرنے والا
رومان	مذکر	فارسی	9	الفت، عشق افسانہ
روباص	مذکر	عربی	2	خالص، کھری بات کرنے والا
روحان	مذکر	عربی	4	آشنائش خوشیاں خوشبویات
رونی	صفت	عربی	8	بہت مہربان
رحیل	مذکر	عربی	2	روانہ ہونے والا
روشن	صفت	فارسی، اردو	7	چمک، نور، منور
روفس	مذکر	لاطینی	4	سرخ بالوں والا
روح الامیں	صفت	عربی	4	حضرت جبریل کا لقب، امانت دار
روح القدس	صفت	عربی	4	حضرت جبریل کا لقب، پاک روح
روح اللہ	مذکر	اردو، فارسی	9	ندی، نالہ، نھر
روداب	مذکر	فارسی	6	ندی کا بہاؤ
روداب	مذکر	اردو، عربی	8	آپ بیتی، قصہ
رودار	مذکر	فارسی	6	خویدو، وجیہ و تکلیل
روفاکیل	مذکر	عبرانی	3	اللہ کی جانب سے شفا یاب ہونے والا
روشان	مذکر	فارسی	8	ستارے، نامور لوگ
روشن جبین	صفت	عربی	8	چمکتی پیشانی، خوش نصیب
روفتی	مذکر	عربی، اردو	5	چل پھل، گماگمی، زیبائش
روہن	صفت	فارسی	1	آہن، لوہا
رویت	مذکر	عربی	4	آہستہ روی سے چلنا
رویت	مذکر	عربی	4	نظر آنا، نظارہ

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
رودیل	مذکر	فارسی	3	ایک پھول موتیا
رودکھ	مونث	فارسی	1	آراستہ کرنا، خوبصورت کرنا
روپتا	مونث	لاطینی	7	سرخ رنگ کا پتھر جس کو یا قوت کہتے ہیں۔
روینہ	مونث	اردو، سندھی	3	شہرت والی، درخشاں
روینا	مونث	عربی	8	چہرہ شناس
رودارہ	مونث	عربی	2	رودار کی مونث، وہیہ و تکلیل
روداہ	مونث	فارسی	2	روداہ کی مونث، ہندی کا بہاؤ
روپا	مونث	ہندی	2	روپ والی حسین و جمیل
روپلہ	مونث	ہندی	9	روپ یعنی حسن سے منسوب، خوبصورت
روزا	مونث	لاطینی	7	گلاب کا پھول گلاب کے پھول جیسی
روچہ	مونث	عربی	7	فرحت، انبساط
روی	صفت	عربی	4	روم کارہنے والا
روینہ	مونث	لاطینی	8	گلاب کے پھول جیسی
روزلیہ	مونث	لاطینی	7	گلاب شیریں
روزیتا	مونث	لاطینی	3	خوبصورت
روزل	مونث	لاطینی	9	گلاب جیسی
روشن	صفت	فارسی، اردو	7	چمکدار، منور
روشن آرا	مونث	عربی	2	روشنی کو آراستہ کرنے والی
رویا	صفت	عربی	1	خوابہ
رومانہ	مونث	فارسی	5	رومان والی خاتون، افسانوی خاتون
روشنا	مونث	فارسی	8	چمکنے والی، روشنی، پھیلائے والی
روما	مونث	لاطینی	4	بے قرار، سیلابی، گھوٹے پھرنے کی شوقین
روٹک	مونث	فارسی	4	مشعل جلائے والی، اندھیرا دور کرنے والی

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
رومینہ	مونث	فارسی	5	محبت کرنے والی
رونی	صفت	عربی	8	صابر و شاکر، پیار کرنا
رونیہ	مونث	عربی	4	اوپنی جگہ، پیار کرنے والی
رومیلا	مونث	عربی	8	سجائے والی
رومان		عربی، اردو	9	ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان، پیار محبت
روفہ	مونث	عربی	3	شفقت کرنے والی، رحم دل
رویدہ	صفت	فارسی	9	آہستہ روی، نرمابٹ
روین	صفت	فارسی	5	ایک سفید رنگ کا پھول موتیا
روین	مذکر	فارسی	1	نولاد، آہن
رہن	صفت	عربی	4	تحت، زیر اثر
رہام	مذکر	عربی	3	آہستہ بارش
رہیب	مذکر		1	خونخوار شیر جیسا
رہبر	مذکر	فارسی، اردو	2	رہنما، لیڈر
رہید	مذکر	عربی	3	نرم و نازک
رہبان	مذکر	عربی	6	ترک دنیا کر دینے والے
رہس	مذکر	عربی	4	خوشی، دل لگی
رہاء	مونث	عربی، اردو	8	آزاد، چھٹکارا
رہتاز	مونث	فارسی	2	نخرے دکھانے والی
رواع	مذکر	عربی	7	مصل و فہم والا، ذی شعور
ریحان	مذکر	عربی	8	خوشبودار پودا
ریاض	مذکر	عربی	3	مشقت محنت، جنت کے باغ
رئیس	مذکر	عربی	4	دولت مند، امیر افسر

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ریاش	مذکر	عربی	7	ذریعہ معاشی، محبت
ریاست	مذکر	اردو	5	حکومت، علاقہ
ریبال	مذکر	عربی	9	شیر جیسا بہادر
ریماند	مذکر	عبرانی	8	خاموش حمایتی
رہیدہ	مونث	عربی	8	رہید کی مونث، نرم و نازک
رہبہ	مونث	عربی	5	رہیں کی مونث، سردار کی بیوی
ریبا	مونث	عبرانی	6	دل موہ لینے والی
رینا	صفت	یونانی	9	گواہ، موتی
ریحانہ	مونث	عربی	4	ریحان کی مونث پھول کی خوشبو
ریشم	مونث	فارسی	5	سلک، ملائم، کپڑا، حریر
ریشماں	مونث	اردو	7	ریشم جیسی
ریما	مونث	عربی	8	سفید ہرن

ز

ز	نام کا ابتدائی حرف
عقرب	برج کا نام
مرئج	ستارے کا نام
سورج مکھی	موافق پھول
سرخ	موافق رنگ
یا قوت۔ لعل	موافق پتھر
7	اعداد

مرئج اور عقرب کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ بہت غصیلے ہوتے ہیں۔ بات بات پر غصہ آنا معمول کی بات ہوتی ہے۔ اسی لئے اکثر ان لوگوں کو اپنی قائم کی گئی امیدوں میں ناکامی ہوتی ہے۔ انہیں دولت کی طلب بہت ہوتی ہے۔ عزم و حوصلہ اور قوت ارادہ ان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ان سے ہمیشہ ہمدردی اور اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ مگر عمر اور دولت چلے جانے سے یہ لوگ محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں ان سے لوگ کم میل جول رکھتے ہیں۔ بحث مباحثے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ ہر بات دلیل سے کرتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
زابد	مذکر	اردو، عربی	8	زہد والا، پرہیزگار
زابوم	مذکر	فارسی	2	ایک دھات سونا
زاہر	صفت	عربی	6	چکیلا
زاجر	مذکر	عربی	4	تنبیہ کرنے والا، سرزنش کرنے والا
زاخر	مذکر	عربی	7	جوش میں آیا ہوا دریا، طغیانی والا دریا
زائر	مذکر	عربی	2	ملاقات کا متنی، زیارت کرنے والا
زافر	صفت	عبرانی، عربی	9	عبرانی میں اس کا مطلب نسیم صبح، نسیم اور عربی میں انواع جمعیت
زائد	صفت	عربی، اردو	14	زیادہ، بہتات
زاکن	صفت	عربی	6	نزدیکی تعلق ہونا، یکجا ہونا
زائل	صفت	عربی	3	اطمینان قلب، دلی سکون، شکرات سے پاک
زاہم	صفت	عربی	4	قربت، نزدیک ہونا
زارہ	مونث	عربی	6	عاجزی کرنے والی، ملاقات، زیارت
زارا	مونث	لاطینی	2	ظہور، ظہور
زار	مذکر	روسی	1	روس کے بادشاہوں کا لقب
زارینہ	مونث	روسی	3	زار کی مونث، ملکہ، زار کی بیوی
زاکنہ	مونث	عربی	2	زاکن کی مونث، یکجائی، قربت
زاکیہ	مونث	عربی	7	بے عیب، پاک کرنے والی
زاوہ	مونث	عربی	7	سحق کرنے والی، کوشش
زائرہ	مونث	عربی	7	زار کی مونث، زیارت کرنے والی
زائیدہ	مونث	عربی	1	خوبصورت خاتون، سنوری ہوئی
زاہرہ	صفت	عربی	2	چمکیلی

نام	مذکر / مونث	بر زبان	عدد	مطالب و معانی
زاہدہ	مونث	عربی	4	زاہد کی مونث، زہد والی، عبادت گزار، پرہیزگار
زابلہ	مونث	عربی	3	زابل کی مونث، دلی سکون
زاجل	مذکر	عربی	5	دینگ آواز والا
زاحف	مذکر	عربی	4	تکبر والا، مغرور
زائن	مونث	عربی	5	خوش لباس و خوش جمال خاتون
زائیدہ	صفت	فارسی	9	پیدا کیا ہوا
زال	صفت	فارسی	2	سفید بالوں والا، بوڑھا، ایران کے مشہور پہلوان جرنیل رستم کا باپ
زاد	مذکر	اردو، فارسی	3	راستہ، نوشتہ، پیدا کیا ہوا بیٹا
زادی	مونث	فارسی، اردو	4	پیدا کی ہوئی بیٹی
زبان	صفت	فارسی، اردو	6	منہ کا ایک لازمی عضو، شعلہ، لو
زبانہ	مونث	فارسی	2	شعلہ، لو
نوباب	مذکر	عربی	3	انگور یا انجیر فروخت کرنے والا
زبری	صفت	عربی	3	دو روشن ستارے جو برج اسد کے دوش پر واقع ہیں
زبدہ	صفت	عربی	9	برگزیدہ لوگ، منتخب لوگ
زبرج	صفت	عربی	5	آرائشی، سجاوٹ
زبیدہ	مونث	عربی	1	عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی نامور ملکہ کا نام، نیک، منتخب کی گئی
زبرقان	صفت	عربی	9	چودھویں کا چاند
زبرین	مذکر	عربی	8	عالی قدر، قالب
زبید	مذکر	عربی	5	منتخب کیا ہوا، پارسا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
زیق	مذکر	عربی	2	سیماب صفت، پارہ ایک دھات
زیر	مذکر	عربی	3	نامور صحابی رسول، حضرت زیر بن العوام، مکتوب، طاقتور آدمی، آپ عشرہ مبشرہ کے پاک اصحاب میں شامل ہیں
زبرجد	مذکر	اردو عربی	9	زمرد کی قسم کا ایک قیمتی پتھر
زباد	مونث	عربی	5	ایک عمدہ خوشبو
زبدہ	صفت	فارسی	5	آراستہ کرنے والا، خوبصورت بنانے والا
زجر	مذکر	عربی	4	پابند کرنے والا، روکنے والا
زپورہ	مونث	عبرانی	4	حضرت موسیٰ کی بیوی کا عبرانی نام، عربی میں صفورا
زجاج	مونث	عربی	5	آئینہ، لبپ
زخرف	مذکر، مونث	عربی	6	آہستہ چلنے والا
زبوں	صفت	اردو، عربی	2	پست حیثیت، عاجز، ذلیل
زراوہ	صفت	عربی	1	زر ساز، جیولر
زر	صفت	عربی، فارسی	9	سونا ایک قیمتی دھات
زر آب	صفت	اردو فارسی	3	سوئے کا پانی
زرافشاں	مونث	فارسی، اردو	8	سنہری افشاں، چمکیلی
زرنگاہ	مونث	اردو فارسی	1	سوئے کے کام والی
زریں	مذکر	اردو فارسی	6	سنہرا، سوئے جیسا
زربینہ	مونث	اردو فارسی	2	سنہری، سوئے جیسی
زری	صفت	اردو فارسی	1	ایسا کام جس میں سونا استعمال ہوتا ہے
زرداد	صفت	فارسی	9	سونا بخشنے والا، مالدار

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
زراد	صفت	فارسی	5	دولت دینے والا
زرق	مذکر	عربی	1	نیلگوں، بھڑکیلا
زر قم	صفت	عربی	5	نیلا، آسمان
زر گل	صفت	فارسی	5	سونے کا پھول، پھول کے اندر کا زیرہ
زرگونہ	مونث	فارسی	9	سونے جیسے رنگ والی
زرگون	مذکر	فارسی	4	سونے جیسے رنگ والا
زرناب	صفت	فارسی	8	خالص سونا
زر قا	مونث	عربی	2	نیلی آنکھوں والی خاتون، آسمان، سزاب
زربین	مذکر	فارسی	1	دولت والی
زرمینہ	مونث	فارسی	8	دولت والی
زریان	مذکر	فارسی	7	دولت حاصل کرنے والا
زریق	مذکر	عربی	4	ایک پرندہ
زرکش	صفت	فارسی	5	سونے کی تاروں کا کام کرنے والے
زراحر	مذکر	فارسی	6	سرخ سونا
زرنب	مذکر	عربی	7	خوشبودار پودا
زعزہ	صفت	عربی	8	تیز ہوا
زعفران	مذکر	اردو عربی	3	ایک خوشبودار، ریشہ جو پکوان میں استعمال ہوتا ہے، پہلے زمانے میں اس سے کپڑے کو بھی رنگ دیا جاتا تھا۔
زعفرہ	مونث	عربی	7	زعفران میں بسی ہوئی
زعیم	مذکر	عربی	1	راہبر، لیڈر، امیر کبیر
زعیمہ	مونث	عربی	6	دولت مند خاتون، زعیم کی مونث
زغلول	مذکر	عربی	2	تیز رفتار، بچہ

نام	مذکر / مؤنث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
زغلہ	مؤنث	عربی	4	کلی، غنچہ
زقانہ	مؤنث	عربی	8	شعلہ نو
زفیان	صفت	عربی	4	بلاہن، آرام محسوس کرنا
زفوف	مذکر	عربی	2	تیز رفتار، شتر مرغ
زکیاس	صفت	عبرانی	8	پاک، معصوم
زکریا	صفت	عبرانی	4	ایک مشہور پیغمبر حضرت زکریا، جس کو اللہ یاد رکھے
زکیہ	صفت	عربی	6	نیک خو، پاک باطن
زکری	صفت	عبرانی	3	اللہ نے یاد رکھا
زکی	صفت	عربی	1	نیک، پاک
زالال	صفت	عربی	7	بیٹھا پانی، خالص پانی
زلف	صفت	اردو	9	لبے اور گھنے بال، چوٹی
زلفین	صفت	فارسی	9	زنجیر
زلفہ	مؤنث	فارسی	5	حوض، سچائی، رتبہ، نزدیکی
زلفی	صفت	فارسی	1	زنجیر، تلوار کا دستہ — زلفوں والا
زلفہ	مؤنث	عربی	7	آئینہ، چکنی چٹان
زلیخا	مؤنث	عربی	9	عزیز، مصرکی بیوی کا نام جو حضرت یوسف پر خدا ہو گئی، حسین و جمیل خاتون
زلہ	صفت	عربی	1	زمین کو نرم کرنا، ہموار کرنا
زمانی	صفت	فارسی	9	زمانے والے
زمانیہ	صفت	فارسی	5	زمانے والی
زمنی	صفت	عربی	5	گل سوسن، چنبیلی کا تیل
زگی	صفت	فارسی	6	سلطان نور الدین زگی، جھٹی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
زمار	صفت	عربی	5	بانسری نواز، اچھا گانے والا
زنبیل	مونث	عربی	9	تھیلا، پٹاری
زام	صفت	عربی	7	زمانہ، دور
زمیل	صفت	عربی	6	ردیف، ہم پیشہ
زنجیل	مونث	عربی	3	بہشت کی ایک سر، سوئچ
زنیق	صفت	عربی	5	مضبوط، استحکام
زمیت	صفت	عربی	7	ہوا دار
زمزمہ	صفت	عربی	9	مغلوں کی ایک مشہور توپ، سرور
زمرہ	مونث	فارسی	8	نغمہ گئی، ریلی آواز
زمیلہ	مونث	عربی	2	ایک قیمتی پتھر کا نام
زفہ	مونث	عربی	4	زمیل کی مونث، ہم پیشہ
زمیر	مذکر	عربی	5	علامت، نشان
زمیع	مذکر	عربی	2	پستہ قد شخص
زویل	مذکر	عربی	6	مضبوط قوت ارادی کا مالک، دلیر
زوار	مذکر	عربی	7	سواری پر پیچھے کی جانب بیٹھنے والا، ساتھی
زواد	صفت	عربی	9	زیارت کا طلب گار، زیارت کرنے والا
زوان	مذکر	عربی	1	ایک خوشبو، مائل ہونا
زورق	مونث	فارسی	7	جلد بازی، عجلت کرنا
زوبیا	مونث	عبرانی	8	کشتی
زورہ	صفت	عربی	2	اللہ کی عطا
زویل	مذکر	عربی	8	ملاقات کرنے والا
زویم	صفت	عربی	9	حرکت
زورید	مونث	عربی	2	مجموعہ، جمع شدہ
زورین	صفت	فارسی	3	ملاقات کرنے والی، پختہ ارادے کی مالک
				طاقتور، مضبوط

نام	نثر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
زورینہ	صفت	فارسی	8	مضبوط خاتون، طاقت والی
زونا	مونث	عربی	1	عقل والی خاتون
زوفیہ	مونث	عربی	9	ایک خود رو بوٹی کا نام
زودقہ	مونث	عربی	1	گھر کو سجانے والی
زویا	صفت	روسی	6	حیات، زندگی
زہاب	صفت	عربی	5	ہر وقت رواں رہنے والا چشمہ
زہاد	مذکر	عربی	4	پرہیز گار لوگ
زہب	صفت	عربی	5	چمکیل، منور
زہارت	مذکر	عربی	6	چمکیلا، نور سے بھرپور
زہران	صفت	عربی	2	شس و قمر
زہیب	صفت	عربی	9	صاحب علم، روشنی رکھنے والے
زہیر	مذکر	عربی	6	درخشاں، منور، چمکدار، روشن
زہرہ	مونث	عربی / اردو	1	سیدہ فاطمہ کا لقب اطہر، چمک، آرائش
زہیدہ	مذکر	عربی	4	صابر و شاعر
زہمہ	صفت	عربی	3	باز رکھنا
زہاق	صفت	عربی	1	تقریباً "مقدار" انداز
زہیر	مذکر	عربی	6	درخشاں، منور، چمکدار، مشہور، اموی
زہدہ	مذکر	اردو عربی	3	خلیفہ عبدالملک بن مروان کے عہد کے ایک نامور سپہ سالار زہیر بن قیس
زیب	صفت	اردو، فارسی	1	دودھ کی بالائی، مکھن
زیگن	مذکر	ترکی	6	آرائش، زینت، اچھا لگنا
زیب النساء	مونث	فارسی	8	دولت مند، رئیس، امیر
زیارت	صفت	عربی	8	خواتین کی شان، خواتین کی زینت، حسین و جمیل
			8	زیادتی، اضافہ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
زینب	مونث	عربی	6	آنحضرتؐ کی بڑی صاحبزادی کا اسم گرامی، سخاوت کرنے والی، فیاض، ام المومنین، سیدہ زینت بن حزیمہ
زیاد	مذکر	عربی	4	ایک خوشبو، اضافہ، زیادہ، تعمیر و ترقی
زیار	صفت	عربی	2	بچاؤ اور اصلاح
زیبا	مونث	فارسی	2	لائق، خوبصورت، سچی ہوئی
زیبادہ	صفت	عبرانی	2	اللہ کی عنایت
زینت	مونث	عربی	8	آرائش، سجاوٹ
زینا	صفت	یونانی	5	مہمان نواز
زیبائی	مونث	فارسی	3	خوش نمائی، اچھا دکھائی دینا
زیاف	مذکر	عربی	8	جہازوں کا شیر
زیان	صفت	عربی	5	چاند کی طرح خوبصورت
زیدان	مذکر	عربی	9	اضافہ، زیادتی
زینہ	مونث	عربی	9	سوارے والی
زین	صفت	عربی	4	حضرت سیدنا زین العابدین بن حضرت امام حسین کا نام، خوبی، خصوصیت
زید	مذکر	عربی	3	سرکار دو عالمؐ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، اضافہ، زیادتی
زیلہ	مونث	عربی	7	علیحدہ ہونا، متفرق ہونا
زیتون	صفت	عربی	5	ایک ہمہ صفت پھل جس کا ذکر کلام اللہ شریف میں آیا ہے
زیبا ظلت	صفت	اردو، فارسی	7	خوش شکل، حسن و جمال میں یکتا

س

نام کا ابتدائی حرف	س
برج کا نام	دلو
ستارے کا نام	زحل
موافق پھول	سدا بہار بلیں
موافق رنگ	نیلا، سیاہ
موافق پتھر	نیلیم، زردیا قوت
اعداد	600

دلو اور زحل کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ جھوٹ بولنے کے بہت ماہر ہوتے ہیں ان کی توجہ جھوٹے واقعات کی طرف عام طور پر مرکوز رہتی ہے۔ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا جانتے ہیں۔ ان کی توجہ ناجائز اور غلط کاموں کی طرف بھی مبذول ہو جاتی ہے۔ مگر محنتی ہونے کی وجہ سے انہیں کاشت کاری میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تکبر اور غرور ان میں بہت ہوتا ہے۔ اپنے سے بڑھ کر کسی کو خیال نہیں کرتے۔ اسی لئے دوسروں سے فائدہ بہت کم حاصل کرتے ہیں۔ احسان فراموش نہیں ہوتے اگر کوئی ان پر احسان کر دے تو تادم مرگ فراموش نہیں کرتے۔

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
ساجد	مذکر	عربی	5	حضرت امام زین العابدین کا لقب سجدہ کرنے والا، عبادت گزار
ساجدہ	مونث	عربی	1	سجدہ کرنے والی
ساج	مذکر	عربی	9	تیرنے والا، تیراک
سابلہ	مونث	عربی	9	دور دراز رستہ، بہت چلنے والا راستہ
ساجج	مذکر	عربی	8	میانہ رفتار سے چلنے والا
ساجعہ	مونث	عربی	4	میانہ رفتار سے چلنے والی
ساحت	صفت	عربی	1	میدان، احاطہ
ساجلہ	مونث	عربی	9	بیت بازی کی ماہر، شعروں کے مقابلوں میں شرکت کرنے والی
ساجی	صفت	عربی	2	ہاتھ لگانا، چھونا
ساحر	مذکر	عربی	8	سحر کرنے والا، جادوگر، مشہور شاعر ساحر لدھیانوی
ساحرہ	مونث	عربی	5	سحر کرنے والی، جادوگر۔
ساخر	مذکر	فارسی	6	دل جیت لینے والا
ساخرہ	مونث	فارسی	2	دل جیت لینے والی
ساجیہ	مونث	عربی	7	چھولنے والی
ساحہ	مونث	عربی	7	نیک برتاؤ کرنے والی، حسن سلوک کرنے والی
ساجیہ	صفت	عربی	1	تیز بارش، سیلاب
ساخابہ	مونث	فارسی	3	جھیل، خلیج
سادر	مذکر	فارسی	4	بے باک، حیراں و ششدر
ساذرہ	مونث	فارسی	9	بے باک حیراں

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
سادہ	مونث	عبرانی	8	شاہزادی، ملکہ
سارب	صفت	عربی	2	ظاہر، صاف، واضح، عقیدہ والا
سارق	ذکر	عربی	1	چوری کرنے والا
سارہ	مونث	عبرانی	5	حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسحاق کی والدہ ماجدہ کا نام شاہزادی
ساریہ	صفت	عربی	6	رات کو آنے والے ہادل
سارا	مونث	فارسی	1	اعلیٰ درجہ کی خوشبو
سارہ	مونث	عربی	7	ظاہر، صاف و شفاف عقیدے والی
ساریٹا	مونث	عبرانی	7	شاہزادی، ملکہ
سارد	ذکر	اردو	6	سرانجام دینے والا
ساشا	صفت	یونانی	2	معاون و مددگار
ساطع	ذکر	عربی	5	درخشاں، بلند و بالا
ساطلہ	مونث	عربی	6	بلند غبار
ساطل	ذکر	عربی	1	بلند غبار
ساعت	صفت	عربی	9	لحظہ، منٹ لمحہ
ساعہ	ذکر	عربی	9	بازو، شیر
ساعہ	مونث	عربی	5	شیرنی
ساعف	ذکر	عربی	4	قریب، نزدیکی تعلق
ساعلہ	مونث	عربی	9	حاجت رومی کرنا، قربت
سای	ذکر	عربی	6	کاٹنے کرنے والا
ساعور	ذکر	عربی	4	قربت، نزدیکی تعلق
ساغر	ذکر	فارسی	1	شراب پینے والا برتن، ایک مشہور شاعر ساغر صدیقی
سافر	مونث	عربی	8	مسافر سفر کرنے والا

نام	ذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
سافرو	مونث	عربی	4	سفر کرنے والی
ساقی	ذکر	فارسی	9	شراب پلانے والے
سالہ	مونث	عربی	1	زورہ، مصالحت
ساگر	ذکر	اردو	2	سمندر
سالار	صفت	عربی	4	سردار، فوج کا افسر
سائقہ	صفت، مونث	عربی	5	برابری کرنا، کسی کی ہمسری کرنا
سائق	ذکر	عربی	9	پیش قدمی کرنے والا، برابری کرنے والا
سالک	ذکر	عربی	3	اللہ کی قربت کا خواہاں، ایک نامور ادیب صدیق سالک
سام	صفت	فارسی	2	سونا، چاندی، آگ حضرت نوح کے بیٹے کا نام
سامتہ	مونث	عربی	2	مد مقابل ہونا
سامر	ذکر	فارسی	4	داستان سنانے والا
سامرو	مونث	فارسی	9	داستان سنانے والی
سامع	ذکر	عربی، اردو	9	سننے والا، ماہ رمضان میں امام یا حافظ صاحب کے پیچھے کھڑا ہونے والا، غلطیوں کی نشاہدی کرتا ہے
سامعہ	مونث	اردو، عربی	5	سماعت کی قوت
سامیہ	مونث	عربی	8	عالی رتبہ، بلند
سامے	ذکر	عربی	3	بیشہ زندہ رہنے والا
سامہ	مونث	عربی	7	عہد و وعدہ، اقرار
سای	ذکر	عربی	3	سام کی قوم کا فرد، بلند، سائے جو سراونچا کر کے شکار کے لئے نکلے

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ساہر	صفت	فارسی	5	ہشیار، بیدار، مغز
ساہرہ	مونث	فارسی	1	ہشیار، بیدار، مغز
سارخ	مذکر	عربی	7	دین کے لئے سفر کرنے والا، روزہ دار
سائد	مذکر	عربی	4	کسی کا درد محسوس کرنا، سر درد
سائر	مذکر	عربی	1	سیاح، سیلانی، سیاحت کا شوقین
سائرہ	مونث	عربی	6	سیاح، سیاحت کی شوقین
سازم	مذکر	عربی	5	معروف، سیلانی، بے قرار
سائم	مذکر	عربی	3	خود سری سے چلنے والا، سیر کا شوقین
سائہ	مونث	عربی	8	خود سری سے چلنے والی، سیر کی شوقین
سائمون	صفت	عبرانی	5	جسے سنا گیا ہو، جس کی شنوائی ہوگی ہو
سبات	صفت	عربی	4	زمانہ، نیند
سباح	صفت	عربی	3	تیراک
سباحین	صفت	عربی	9	سباح کی جمع
سباح	مذکر	عربی	8	اچھا تیراک
سباہ	صفت	عربی	5	دور دراز کا سفر
سبا	صفت	عربی	9	ملکہ بلقیس کے شہر کا نام
سباق	مذکر	عربی	1	آگے بڑھ جانے والا
سبحہ	مذکر	عربی	1	کالی کملی، آنحضرتؐ کو بطور عقیدت
				عاشقانِ نبیؐ، کالی کملی والا کہتے ہیں
پیٹا	مونث	لاٹینی	6	چھوٹی سی تلوار
ہزینہ	مونث	فارسی	8	محبوبہ، خوبصورت جوان
ہین	مونث	لاٹینی	5	بین قبیلے کی لڑکی
سبطانہ	صفت	فارسی	1	بدوق، اسلحہ

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
سمیلہ	صفت	عربی	7	راہ، کسی کے راستے یا اصول پر چلنا
ممیلہ	صفت	عربی	8	راستے، راہ نما
سبریتا	مونث	اردو، سندھی	8	ملکہ، شاہزادی
سبوحا	مونث	فارسی	2	برتن، صراحی
سبقت	صفت	عربی	4	آگے نکل جانا، اولیت حاصل کرنا
سبحان	صفت	عربی	4	تعریف، پاکی، عالم، دانا، دانش مند
سیوح	صفت	عربی	4	مضبوط کپڑا، ثناء
سبط	مذکر	عربی	8	پوتا، نواسا
سبیل	صفت	عربی	3	راہ، وجہ، طریقہ، وقف چیز
سبق	مذکر	عربی، اردو	9	نصابی کتب کا کچھ حصہ۔ سبق ليجانے والا
سباء	مذکر	عربی، اردو	9	عبداللہ بن سبا ایک منافق کا نام جس نے اہل اسلام میں سب سے پہلے نفاق پیدا کیا
سبائی	صفت	عربی	1	عبداللہ بن سبا کی مناسبت سے اس کے پیروں کو سبائی کیا جاتا ہے
ستارا	مونث	اردو، فارسی	5	تارا، نجم
ستیا	صفت	اردو، پنجابی	3	طاقت، ہمت
ستار	صفت	عربی، اردو	4	اللہ کریم جل جلالہ کا صفاتی نام، محبوب، چھپانے والا، ڈھانپ لینے والا
ستیز	مذکر	عربی	9	جنگجو، لڑاکا
سجاد	صفت	عربی، اردو	5	عبادت کرنے والا، سجدے کرنے والے، سیدنا امام زین العابدین کا لقب
سجاف	صفت	عربی	9	پردہ، حجاب

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
سجاد	صفت	عربی	5	حیا، شرم، پردہ کر نیوالی
سجاع	مذکر	عربی	8	مست آواز والا، خوش چہرہ، خوش کلام
سجیل	صفت	فارسی	4	خوبصورت، سچ دھج والا جوان، آراستہ
سجیلہ	مونث	فارسی	9	خوبصورت، سچی سنوری خاتون
سچل	صفت	سندھی	3	حضرت سچل سرمست ایک سندھی معروف صوفی، درست، اصل
سجیہ	مونث	عربی	6	خصلت، طبیعت
سجھسے	صفت	ترکی	5	جو دل کو بھاجائے، دل پسند
سجاح	مونث	عربی	9	ایک ملعونہ عورت جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا
سجان	مذکر	عربی	6	داروغہ جیل، قید خانے کا محافظ
سجین	مذکر	عربی	6	نافرمان روحوں کا مسکن، ایسا آدمی جو مجرد زندگی گزارے، یعنی شادی کے بغیر رہے
سجل	مذکر	عربی	3	عمد و پیاں، سرکاری کاغذات، سجلات رکھنے والا
سجد	مذکر	عربی	4	سجدہ کرنے والے، عبادت گزار
سجان	صفت	عربی	6	دانش مند، عالم، حکمت والا
سجات	صفت	اردو	5	نیک خو، نیک ذات
سحابہ	صفت	عربی	8	بادل، ابر، گھٹائیں
سحاح	مذکر	عربی	5	بکھیرنے والا، جد کرنے والا
سحر	صفت	عربی، اردو	7	جاذب، صبح
سحیقہ	مونث	عربی	3	موسلا دھار بارش، باران رحمت
سحبان	مذکر	عربی	4	نصح و مبلغ لوگ، اعلیٰ درجے کے خطیب حضرات

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
سحرش	مونث	فارسی	1	جادو کی شخصیت والی، مسحور کن
سحرہ	صفت	عربی	3	فریفتہ ہونا، جادو کرنا
سحاب	مذکر	عربی	6	شور مچانے والا
سخن	مذکر	عربی	8	ادب کی بات
مسغورہ	صفت	عربی	1	فرمانبردار، اطاعت گزار
مسغلہ	صفت	عربی	2	پاک و صاف کرنا
مسغوران	صفت	عربی	2	اطاعت گزار لوگ
سختاوت	مذکر	اردو، عربی	5	سختی، فیاضی، کھلے دل سے خرچنا
سختی	مذکر	اردو، عربی	4	کھلے دل والا، فیاض
مسغوت	صفت	عربی	9	عمدہ رفتار سے چلنے والی کشتی
سداد	صفت	عربی	6	سلامت روی، درستگی، ہدایت
سدافہ	صفت	عربی	6	حیا، پردہ حجاب
سدید	مذکر	عربی	6	درست، راست، مضبوط
سدرت	مونث	عربی	7	کسی بھی چیز کی آخری حد، ایک درخت
سدردہ	مذکر	عربی	8	پیری کا درخت، بلندی
سدیر	مونث	عربی	4	شاہ نعمان کا محل، ایک دریا
سدفہ	صفت	عربی	5	دروازہ، روشنی
سدیل	مذکر	عربی	5	پاگی کا دروازہ، لمبے اور گھنے بال
سدوس	مونث	عربی	4	سبز چادر
سدیم	مذکر	عربی	6	اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنے والا
سدیلہ	مونث	عربی	1	سدیل کی مونث، پاگی کا دروازہ لمبے بال
سدیم	مونث	عربی	2	اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنے والی
سدف	مونث	عربی	9	روشنی، نور

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
سرافینا	مونث	لاطینی	6	پرسکون، اطمینان قلب
سروج	صفت	ہندی	8	کنول کا پھول
سراج	صفت	عربی، اردو	3	چراغ، آواز، غیب، آفتاب، انداز کا لقب اطہر، سراج السالکین
سراج الدولہ	مذکر	عربی، اردو	7	بنگال کا نواب جس نے انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی اور شہادت قبول کی چراغ کا حلقہ، سورج کا دائرہ
سرحان	صفت	عربی	4	قلب، شیر
سراط	صفت	عربی	9	تیز دھار تلوار
سرود	مونث	فارسی	9	خوشی، نغمگی
سرفراز	مذکر	فارسی، اردو	8	اوپر سے، سردار، عالی مرتبہ والا
سروش	صفت	فارسی	8	خوشی کی خبریں لانے والا فرشتہ غیبی آواز
سراج	مذکر	عربی	7	جلد باز، عجلت کرنے والا
سریج	صفت	عربی	7	تیزی، سرعت
سرتج	صفت	عربی	8	آسان
سرباز	مذکر	فارسی	9	جنگ جو، دلیر
سرحت	صفت	عربی	2	سیلابی پانی کا آہستگی سے بہنا
سریس	مذکر	عربی	6	حفاظت کرنے والا، واثائی والا
سرخاب	مذکر	فارسی	8	ایک نایاب آبی پرندہ
سرد	صفت	عربی	7	دائم، ہمیشہ زندہ رہنے والا
سرتاج	مذکر	فارسی	7	شوہر، سرکاتاج
سرور	صفت	فارسی	7	سردار، بلند مرتبہ والا
سرور	صفت	اردو	7	مزہ، لذت

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
سرود	صفت	فارسی	9	نغمگی، خوشی، شادمانی
سروری	صفت	عربی	8	برائی، سرداری
سرہ	صفت	عربی	4	خالص، نقیض، گلدستہ
سرخیل	مذکر	فارسی	9	سرغنہ، سردار
سروپ	صفت	ہندی	7	مقشابہ، صورت
سربنگ	صفت	فارسی	2	سپہ سالار
مطل	مذکر	فارسی	9	طویل اقامت، سرو قد
سطوت	صفت	عربی	7	وقار، دبدبہ، عظمت
سرپتا	مونث	ہندی	5	عقل و فہم والی ہوشیار
سرینہ	مونث	عربی	9	نگہبانی و حفاظت کرنے والی، عقل مند
سریکھا	صفت	اردو	8	مانند، لوح، منسل
سریجہ	مونث	عربی	3	شاعری میں غزل کی ایک بحر
سریتا	صفت	لاطینی	6	پرسکون، اطمینان قلب
سعد	مذکر	عربی، اردو	8	حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، آپ
				عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، نیک، مبارک
سعدیہ	مونث	عربی، اردو	5	سیدہ حلیمہ کالقب، مبارک، نیک خاتون
سعود	مذکر	عربی	5	موجودہ سعودی عرب کے بانی شاہ سعود
				نیک، صالح، سعد
سعودہ	مونث	عربی	1	سعود کی مونث، صالحہ نیک
سعید	مذکر	عربی	9	سیدنا سعید بن زید عظیم المرتبہ صحابی
				رسول کریمؐ تھے آپ عشرہ مبشرہ کی پاک
				ہستیوں میں شامل ہیں نیک، صالح، فاروق
				اعظمؑ کے بنوئی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
سعیدہ	مونث	عربی	5	سعید کی مونث، صالحہ نیک
سعادت	صفت	عربی	4	اعزاز، خوش بختی
سعد من	صفت	عربی	5	مبارک اصحاب، مدد
سعدی	صفت	فارسی	9	شیخ سعدی کا نام، نیک بخت
سعاد	مذکر	فارسی	9	صالح، خوش بخت
سعیر	صفت	عربی	7	شعلہ، آتش
سعیدین	صفت	عربی	6	دو مبارک ستارے، عیدین سعیدین
مطیع	مونث	عربی	5	طویل قامت
سفل	مذکر	عربی	1	نا تواں شخص
سمی	مونث	عربی	5	جد و جدہ، کاوش
سفیان	مذکر	عربی	3	حضرت ابو سفیانؓ جن کے گھر میں ٹھہرنے والوں کے لئے فتح مکہ کے دن سرکار دو عالمؐ نے امان عطا فرمائی تھی۔ ایک مشہور ولی کامل حضرت سفیان ثوری
سفانہ	مونث	عربی	7	حاتم طائی کی بیٹی جنہوں نے غزوہ طائف کے بعد اسلام قبول کیا
سفیر	مذکر	عربی	8	سفارت کرنے والا، قاصد
سفیرہ	مونث	عربی	4	سفیر کی مونث، سفارت کرنے والی، قاصدہ
سفاح	صفت	عربی	5	عباسی خلافت کا پہلا خلیفہ جس کی وسیع پکارت پر خوں ریزی کی وجہ سے اس کا نام ابو العباس سفاح مشہور ہوا
سفین	مذکر	عربی	2	کشتی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
سفان	مذکر	عربی	2	کشتی بنانے والا، ملال
سفینہ	صفت	عربی	7	کشتی
سفمظ	مذکر	عربی	6	بنادر، جوان مرد، بچی
سفی	مذکر	عربی	6	تیز ہوا
سکینہ	مونث	عربی	1	امام حسینؑ کی صاحبزادی کا نام، آرام
سکون	صفت	عربی، اردو	1	زراعت، قیام کرنے والی
سکونت	مذکر	فارسی، اردو	5	راحت، تسلی
سکب	مذکر	عربی	1	قیام پذیر، رہائشی، ٹھہرنا
سکر	صفت	عربی	1	لالہ، خوشبودار پودہ
سکران	صفت	عربی	7	بے خودی، مدہوش
سکندر	مذکر	فارسی	1	بے خود، مدہوش
				مشہور یونانی فاتح سکندر اعظم، خالص
				بلندی
سکور	مذکر	عربی	7	مست، نشہ میں چور رہنے والا
سکھو	مذکر	عربی	2	بے خود نشہ
سکوت	صفت	اردو	9	خاموشی، امن
سکات	مونث	عربی	4	خاموش کر دینے والی
سلام	مذکر	عربی	5	سلامتی، مسلمان آپس میں ملنے وقت
				آپس میں سلام کا تبادلہ کرتے ہیں
سلامہ	مونث	عربی	1	عیوب سے مبرا، سلامتی والی
سلطان	مذکر	فارسی	6	مسلمان حکمرانوں کا لقب، حکمران
سلطانہ	مونث	فارسی	2	رضیہ سلطانہ، مسلمان حکمران خاتون
سلسبیل	صفت	عربی	6	بہشت کے ایک چشمے کا نام

نام	مذکر / مونث	بزیان	عدد	مطالب و معانی
سلیمان	مذکر	عربی	2	حضرت سلیمان ایک مشہور و معروف نبی جن کے قبضے میں تمام مخلوق تھی۔
سلمان	مذکر	عربی	1	ایک بہت مشہور نبی کریمؐ کے صحابی سلمان فارسیؓ
سلجوق	مذکر	ترکی	1	خاندان سلجوقیہ کا بانی، ایک ترک سردار کا نام
سلاء	مونث	عربی	1	بے مثال گلوکارہ
سلیل	صفت	عربی	4	برہنہ تلوار
سلامت	صفت	عربی	9	بے عیب، تندرستی
سلیم	مذکر	عربی	5	سنجیدہ، صاف دل
سلیمہ	مونث	عربی	1	سلیم کی مونث، صاف دل خاتون
سلم	مذکر	عربی	4	وسیلہ، رکاب، میڑھی
سلمیٰ	مونث	عربی	5	محفوظ، اطاعت کرنے والی
سلطہ	مونث	عربی	5	تیز، دراز
سلمہ	صفت	اردو	9	زری کا کام، سنہری کام
سلمہ	صفت	لاطینی	9	خوبصورت صبح
سلیط	مذکر	عربی	1	حاضر جواب
سلموم	مذکر	عبرانی	1	پر امن، پرسکون
سلوی	مونث	عربی	7	شہد، ایک پرندہ
سلوی	مونث	عربی	2	پرسکون، اطمینان قلب
سلویا	مونث	لاطینی	8	جنگل کی شہزادی
محبوب	مذکر	عربی	1	حاصل کرنے والا، اچک لینے والا
سلاسل	مونث	عربی	1	ذنجیریں، بطور

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
سلیطہ	مونث	عربی	6	خوش گفتار، فصیحہ
سلیعہ	مونث	عربی	4	عادت، فطرت، سرشت
ساطر	مذکر	عربی	4	طویل قامت شخص
سماع	صفت	عربی	9	قوالی، صوفیائے کرام کی محفل میں شگیت
سامح	مذکر	عربی	1	جواں مردی سخاوت عطا کرتا
سمارا	صفت	عبرانی	5	مخاطب
سماء	مونث	عربی	2	آسمان
سلحان	مذکر	عربی	5	اسلحہ، سامان حرب
سلیس	صفت	فارسی	7	آسان فہم، روانی
سلسمال	مذکر	عربی	1	ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، خوشگوار
سلیقہ	مونث	اردو	7	طور طریقہ انداز
سلیقی	مذکر	عربی	3	تلوار رکھنے والا
سامہ	مونث	عربی	2	خوبصورت جسم والی
سام	مونث	عربی	6	تیز، ہلکا، چھریرا
سمر	مونث	عربی	3	رات کا سفر، رات کو باتوں میں بتانے
سمرن	صفت	عربی	8	والی، قصہ سناتے والی
سامہر	صفت	عربی	9	مضبوط نیزہ
سمرہ	مونث	ترکی	8	بہشت
سمرہ	مونث	عربی	8	گندی رنگ والی
سمروت	مذکر	ہندی	4	صابر و شاکر، صالح
سمج	صفت	عربی	1	اللہ کریم کا صفاتی نام، سننے والا
سمسام	مونث	فارسی	3	تلوار، ہتھیار

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
سمید	صفت	عربی	6	نڈر، بہادری
سمطو	مذکر	عربی	3	عقل مند
سمین	مذکر	عربی	7	خوش گفتار، پاکیزہ گفتار، فریب
سماک	صفت	عربی	4	ایک ولی کامل کا اسم گرامی
سمیح	مذکر	عربی	1	جواں مرد، سخی
سمن	مونث	فارسی	6	پاسین، چینیلی کا پھول
سیا	صفت	عربی	3	بلند و بالا ارفع
سمیکی	مونث	فارسی	4	چاندی جیسی خاتون
سمیہ	مونث	عربی	7	ایک ہی نام جیسی
سمونا	مونث	عبرانی	4	مقرب الہی
سمینہ	صفت	عربی	3	اچھی بول چال
سمی	صفت	عربی	2	مشابہ، ہمنام
سمیجہ	صفت	عربی	2	قل، واحد
سمیجہ	صفت	عربی	6	بہادر، سخاوت
سمن بر	صفت	فارسی	1	دلبر، محبوب
سمیجہ	مونث	عربی	6	اللہ کا نام سننے والی
سمیرہ	مونث	عربی	9	کہانیاں سننے والی
سمیر	مذکر	عربی	4	کہانیاں سننے والا
سموع	مذکر	عربی	6	سننے والا
سمینا	مونث	ہندی	7	بچے موتیوں کی مالا
سمیل	صفت	عبرانی	5	بارگاہ ایزدی میں جو مقرب ہو گیا ہو
سند	مذکر	اردو فارسی	1	گھوڑا، زردی مائل رنگ کا گھوڑا
سمسار	مذکر	عربی	1	قاصد، ایلچی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
سمہری	مذکر	عربی	9	سیدھا، نیزہ، ٹھیک طریقہ
سنبل	مونث	فارسی	6	خوشبودار گھاس
سناہ	مونث	عربی	3	ضیاء، بلند و بالا، روشنی
سنبلہ	صفت	عربی	2	آسمانی برج، خوشہ
سناہ	مذکر	عربی	7	خوشبودار گھاس
سنی	مذکر	عربی	3	بلند تر، افضل و اعلیٰ
سنہہ	صفت	فارسی	8	بلند تر، چمکدار، اونچا
سنجیدہ	مونث	اردو، فارسی	6	کم گو، خاموش رہنے والی
سنہنہ	صفت	فارسی	4	ساتھی
سنگھار	صفت	اردو	2	سجاوا، آراستہ کرنا
سنیلہ	صفت	عربی	2	نیک خو، اطاعت گزار
سنگھم	صفت	اردو، ہندی	4	ملاپ، دو دریاؤں کا ملاپ کا مقام
سنگیتا	مونث	ہندی	1	گیت گانے والی
سنتوش	مذکر	ہندی	6	صابر، استقلال، قانع
سنہہ	صفت	عربی	6	نیک خو، پاک باز
سنین	مونث	عربی	8	تیز و ہار چھری، ہم عمر، ساتھی
سنور	مونث	عربی	1	دم کی جڑ، ساتھی، بچنا
سنایہ	مذکر	عربی	9	شریف النفس
سناط	مذکر	عربی	3	ایسا شخص جس کے چہرے پر دائرہ
				مونچھ کے بال بہت کم ہوں
سار	صفت	عربی	5	سونے کے زیورات بنائے والا
سودا	صفت	عربی	8	ایک مشہور شاعر محمد رفیع کا تخلص
سودہ	صفت	عربی	2	ام المومنین سیدہ سودہ، سرداری

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
سونیا	مونث	یونانی	1	عقل مند، دانائی کی مالک
سویدہ	صفت	عربی	4	انسانی دل کا سیاہ نقطہ
سوہنی	مونث	اردو	5	خوبصورت، سوہنی مینوال کے کرداروں سے ایک کردار
سویرا	مونث	ہندی	4	اپنا خاوند خود پسند و تلاش کرنے والی
سورہ	مونث	عربی	1	بیری کا درخت
سوری	مذکر	فارسی	6	شیر شاہ سوری، ایک پھول کا نام
سوہجا	مونث	ہندی	2	لائق زیبائش، شان و شوکت
سوار	مذکر	اردو، فارسی	6	سواری کرنے والا، مست
سوید	صفت	اردو، ہندی	6	صح، جلدی، اولیت
سوک	مذکر	اردو، ہندی	5	ناپید، ستارہ زہرہ
سوز	مذکر	اردو، فارسی	1	ایک مشہور شاعر محمد میر دہلوی کا تخلص، آواز میں درد دکھایا بلجہ
سر	صفت	عربی	4	حسن لا زوال، خوبصورتی
سہاد	مذکر	عربی	7	بیدار مغز، جاگنے والا
سہیل	مذکر	عربی	6	ایک ستارے کا نام
سراب	صفت	عربی	7	رستم کے ایک بیٹے کا نام جس کو رستم نے مقابلہ میں قتل کر ڈالا
سہام	صفت	عربی	7	تیر انداز، تیر
سہیمہ	مونث	عربی	3	شرکت دار
سہیلہ	مونث	عربی	2	ستارے کا نام
سہا	مونث	عربی	3	چھوٹے ستارے کا نام
سہل	صفت	عربی	5	ایک نامور ولی اللہ حضرت سہل بن عبد اللہ تستوی کا نام، آسان

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
مہر	صفت	عربی	5	حسین و جمیل
سیم	مذکر	عربی	7	شراکت کار
سوم	مذکر	عربی	3	شاہین، عقاب
سباق	صفت	عربی	4	خالص ترین اسیل
سہلہ	مونث	عربی	1	ستارہ، دریا کی ریت
سید	مذکر	عربی	2	راہنما، سردار، رسول مقبولؐ کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے
سیدہ	مونث	عربی	7	سید کی مونث، سردار کی بیوی، راہنما خاتون
سیدۃ النساء	صفت	عربی	5	سیدہ فاطمہ الزہراؑ کا لقب الطہر، خواتین کی پیشوا
سیادت	صفت	عربی	7	پیشوائی، بزرگی، راہنمائی
سیوتی	صفت	ہندی	9	سفید گلاب کا پھول، پھولوں کی مانند
سیماب	صفت	فارسی	5	ایک دھات جو ہمہ وقت تھرکتی رہتی ہے۔ اس کا عام فہم نام پارہ ہے۔
سیما	مونث	فارسی	3	علامت، پیشانی، چہرہ
سیار	مذکر	عربی	1	تیز رفتار، سیر کرنے والا
سیہام	مذکر	عربی	7	ترکش، تیر
سیف	مذکر	عربی، اردو	6	تکوار
سیف اللہ	صفت	عربی، اردو	9	سیدنا خالدؓ بن ولید کا خطاب جو آنحضرتؐ نے عطا فرمایا۔ اس خطاب کی بدولت سیدنا خالدؓ بن ولید تمام زندگی ناقابل شکست رہے۔

نام	ذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
سیام	ذکر	عربی	3	ترکستان کا ایک پہاڑ جس کے عقب سے ابن مقفع کا ماہ خشب طلوع ہوتا تھا۔
سہلبد	مونث	عری	7	پلکیں، جالی، جالی دار
سیبہ	مونث	ترکی	5	مورچہ، حفاظت والی
سیا	صفت	فارسی	4	ظلم، ظلمی علم
سیراء	مونث	عربی	1	ریشم، خالص سونا
سبحہ	مونث	فارسی	5	چاندی کے جسم والا
سبیس	مونث	فارسی	8	چاندی جیسی خوبصورت
سیسی	مونث	فارسی	3	چاندی کا
سیلی	مونث	عبرانی	2	شہزادی، ملکہ
سیم تن	مونث	فارسی	2	چاندی جیسے جسم والی
سیون	صفت	عبرانی	4	اللہ کے مقرب بندے
سینی	ذکر	عربی	7	تلوار والا
سیدیم	ذکر	ترکی	9	پسند کیا گیا، محبوب
سہاد	ذکر	عربی	7	بیداری، رت کرنے والا
سہملہ	مونث	فارسی	1	چاندی
سیاف	ذکر	عربی	7	تلوار چلانے والا
سیوک	ذکر	ہندی	6	خدمت کرنے والا، نوکر عقیدت مند
سینا	ذکر	عربی	4	افوج، لشکر
سینا	ذکر	عربی	4	ملک شام کا مشہور پہاڑ
سینا پی	ذکر	ہندی	2	کانڈر، فوج کا افسر اعلیٰ
سیس	ذکر	ہندی	4	کھوپڑی، پیشانی
سیرت	مونث	عربی	4	خصائص، عادات، اوصاف

ش

ش	نام کا ابتدائی حرف
دلو	برج کا نام
زحل	ستارے کا نام
بیلیس	موافق پھول
نیلا سیاہ	موافق رنگ
زرد یا قوت نیلم	موافق پتھر
300	اعداد

دلو اور زحل کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ جھوٹ بولنے کے بہت ماہر ہوتے ہیں ان کی توجہ جھوٹے واقعات کی طرف عام طور پر مرکوز رہتی ہے۔ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا جانتے ہیں۔ ان کی توجہ ناجائز اور غلط کاموں کی طرف بھی مبذول ہو جاتی ہے۔ مگر محنتی ہونے کی وجہ سے انہیں کاشت کاری میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ حکمران اور غرور ان میں بہت ہوتا ہے۔ اپنے سے بڑھ کر کسی کو خیال نہیں کرتے۔ اسی لئے دوسروں سے فائدہ بہت کم حاصل کرتے ہیں۔ احسان فراموش نہیں ہوتے اگر کوئی ان پر احسان کر دے تو تادم مرگ فراموش نہیں کرتے۔

نام	مذکر / مونث	بر زبان	عدد	مطالب و معانی
شافی	صفت	عربی	4	اللہ کریم کا صفاتی نام، شفا دینے والا
شاداب	مذکر	عربی	4	نرمازہ، سیراب
شاذب	مذکر، مونث	عربی	4	غریب الوطن، وطن سے دور
شاب	مذکر	عربی	6	جوان مرد، نوجوان
شابہ	مونث	عربی	2	جوان لڑکی
شاد	مذکر	فارسی	8	خوشی و مسرت
شادیہ	مونث	فارسی	5	خوشی و مسرت حاصل کرنے والی
شادان	مونث	فارسی	5	خوشی پانے والی، غموں سے دور
شادزی	صفت	فارسی	7	ایک دعائیہ کلمہ، سدا خوش رہو
شاہ پور	مذکر	فارسی	1	بادشاہ کا بیٹا
شادورد	صفت	فارسی	2	چاند کا ہالہ
شادہ	صفت	فارسی	4	خوش و خرم
شادین	مذکر	فارسی	5	ہرن کا بچہ
شاہ دین	مذکر	عربی	1	دین کا شاہ
شاذ	صفت	فارسی	2	کبھی کبھار اکیلا، تنہا
شاذہ	صفت	فارسی	7	منفرد، غیر معمولی
شازیہ	مونث	عربی	8	زالی، نایاب، انوکھی
شارب	مذکر	عربی	8	پینے والا
شاربہ	مونث	عربی	4	پینے والی
شارح	مذکر	عربی	5	وضاحت سے بیان کرنے والا
شارق	مذکر	عربی	7	سورج، چمکنے والا، طلوع ہونے والا
شارق	صفت	فارسی	7	شراب، مینا
شارز	مونث	عربی	4	نخت مزاج

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
شارم	مذکر	عربی	1	تیر
شارفہ	مونث	عربی	3	چمکنے والی
شارجہ	صفت	عربی	5	مشابہ، عرب ریاست کا نام
شاطر	صفت	عربی	6	چالیں چلنے والا، چالاک، شطرنج کا کھلاڑی
شافع	مذکر	عربی	1	سرکار دو عالم کا لقب مبارک، شفاعت کرنے والا
شاردہ	مونث	فارسی	6	تیز رفتار شیرنی
شاردا	مونث	ہندی	2	ایک ساز، پرندہ
شارکہ	مونث	عربی	4	شرکت کرنے والی
شارفہ	مونث	عربی	1	عزت والی، شرف والی
شاکر	مذکر	عربی	8	شکر کرنے والا
شاکرہ	مذکر	عربی	4	شکر بجالانے والی
شابل	مذکر	عربی	2	اکٹھے مل جانا
شاری	مونث	عربی	7	خریدنے والی
شاریہ	مونث	عبرانی	3	شہزادی
شان	مذکر	عربی	9	شوکت، خوبی، عظمت
شاہجہان	مذکر	فارسی	5	مغل فرماں روا کا لقب دنیا بھر کا حکمران
شاہد	مذکر	عربی	4	کلام اللہ شریف میں آنحضرت کو شاہد کے خطاب سے پکارا گیا ہے، گواہ
شافف	مذکر	عربی	8	عرض کرنے والا، وفا کرنے والا
شاہ ویر	مذکر	فارسی	9	بادشاہوں کے لائق
شاطی	مذکر	عربی	5	دریا کا کنارہ
شاطیہ	مونث	عربی	1	شاطی کی مونث، دریا کا کنارہ

نام	مذکر / مونث	بیان	عدد	مطالب و معانی
شافیہ	مونث	عربی	9	شفادینے والی
شاعرہ	مونث	فارسی	9	شعر کہنے والی
شافعی	صفت	عربی	9	امام محمد بن ادریس کا لقب شافعی تھا آپ کے مقلدین کو بھی شافعی کہا جاتا ہے۔
شافہ	صفت	عربی	8	جلادینا
شافہ	مونث	عربی	4	پیراکی سے بات کرنے والی
شادل	مذکر	عربی	4	اٹھانا، سرکانا
شاہزور	مذکر	فارسی	6	قوت کا بادشاہ، زبردست، طاقت والا
شاکہ	مونث	عربی	2	مشابہت والی
شاکیہ	مونث	عربی	3	شکی خاتون، شکایت کرنے والی
شاہ رخ	صفت	فارسی	8	خوبصورت چہرہ
شاہر	مذکر	عربی	2	نامور بزرگ
شاہدہ	مونث	عربی	9	گواہ، خوبصورت
مشاما	مونث	فارسی	9	بلبل، ایک پرندہ
شہانہ	صفت	فارسی	2	شاہوں جیسا، شاہی اطوار والی
شامین	مونث	فارسی	5	شام کی، شام کی راگنی
شاہین	مذکر، مونث	فارسی	6	ایک بہت بڑا شکاری پرندہ جس کو عقاب بھی کہا جاتا ہے۔
شاہینہ	مونث	فارسی	2	چھوٹا عقاب
شانفہ	مونث	عربی	4	وفا کرنے والی
شامیہ	مونث	عربی	5	سو گھنے والی
شاہندہ	مونث	فارسی	5	شاہوں کی عطا، شاہوں جیسی
شاہق	مذکر	عربی	1	بلند و بالا عالی مرتبہ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
شائق	مذکر	عربی	6	شوقین، مشتاق
شائقہ	مونث	عربی	2	شوق رکھنے والی، اشتیاق
شاہ دار	مذکر	فارسی	9	بادشاہوں کی پسند
شایان	مذکر	فارسی	2	قابل، موزوں
شارزہ	مونث	عربی	8	غیر معمولی، انوکھی
شبانہ	مونث	عربی	7	ہر رات، رات کی
شائستہ	مونث	عربی	2	باادب، مہذب
شبابہ	مونث	عربی	4	شہنائی، بانسری
شاقہ	مذکر	عربی	8	شفا بخش کرنے والا
شبابان	مذکر	عربی، اردو	3	جوان لوگ
شامی	مذکر	عربی	9	ملک شام سے تعلق رکھنے والا
شاوی	مذکر	عربی	2	بکری والا
شادی	مونث	اردو، فارسی	2	خوشی، بیاہ
شاغل	صفت	عربی	8	اللہ کا ذکر کرنے والا، معروف
شارف	مذکر	عربی	5	بزرگ آدمی، پرانا تیر
شاق	مذکر	عربی	5	دھچکا، بلند، اونچائی
شاہدی	مونث	عربی	5	شہادت، گواہی
شان	مذکر	عربی	2	چرواہا، گڈریا
شاب	صفت	عربی	8	حسن، بھرپور جوانی
شبر	مذکر	عربی	7	حضرت امام حسن بن علیؑ کا لقب، عطیہ تحفہ
شب گل	مذکر	عربی	9	صبح کھلنے والا پھول
شجان	مذکر	فارسی	3	طویل، لمبا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
شبرہ	مونث	عربی	3	تحفہ، انعام
شبلمہ	مونث	عربی	4	شیرنی، شیر کی بچی
شبلی	مذکر	عربی	9	شیر کا بچہ، حضرت مولانا شبلی نعمانی
شبیر	مذکر	عربی	8	حضرت امام حسینؑ کا لقب، نیک خو
شبیر	مذکر	عربی	2	مشابہ، تصویر، مانند
شیو	مونث	فارسی	2	رات کی رانی، ایسی تیل جو رات کو میکے۔
شبعیمہ	مونث	عربی	9	بڑی عاتقہ، عقل و دانش والی
شین	مونث	فارسی	2	رات کی راگنی
شبنم	مونث	فارسی، اردو	5	رات کی نمی، اوس تازہ پانی جیسی
شب تاب	صفت	اردو، فارسی	3	جگنو، باہتاب، خواہر
شبینہ	صفت	فارسی	7	راٹ کا جگنا
شیارق	مذکر	عربی	9	اونچا درخت، شلوار
شتاب	مذکر	عربی	1	عجلت، جلدی
شجاعت	صفت	عربی	9	دلیری
شجاع	مذکر	عربی	5	دلیر، بہادر، نڈر، بے خوف
شجان	مذکر	عربی	3	باغیرت شخص
شجمع	مذکر	عربی	5	دلیر و نڈر
شجیمہ	مونث	عربی	1	دلیر خاتون
شجیر	صفت	فارسی	9	قسمت، درختوں کے جھنڈ
شجع	مذکر	عربی	4	باؤلا اونٹ، دلیر
شعون	مذکر	عربی	4	بڑا، طاقتور، علم والا
شعوانہ	مونث	عربی	9	شعون کی مونث، بڑی طاقتور علم والا

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
کیم	ذکر	عربی	7	مونث، پھیلا ہوا
شعیمہ	مونث	عربی	3	مونث، پھیلی ہوئی
شعیم	صفت	عربی	6	چربی، فریبی
شحنہ	ذکر	عربی	3	کو تو ال، محافظ، کھیت کا گران
شعنبہ	صفت	عربی	7	تلوار یا چھری کی دھار
شداد	ذکر	عربی	3	عاد قوم کا ایک بادشاہ جو ظلم کرنے کے لئے بہت مشہور ہے۔
شدیف	ذکر	عربی	7	لمبی چھلانگ لگانے والا
سددہ	ذکر	عربی	2	کلوا
شدائد	ذکر	عربی	4	دلیر اور بہادر
شرجیل	ذکر	عربی	3	معروف صحابی رسول کریمؐ حضرت شرجیلؓ بن جسنہ
شرارہ	صفت	فارسی	4	چنگاری
شرافت	صفت	اردو، فارسی	9	نیکی، اچھائی، بزرگی
شریہ	مونث	عربی	3	ایک قسم کی مشک، تالاب
شرح	صفت	عربی	2	نوجوان لوگ
شرزا	ذکر	عربی	4	شیر بہر
شرزہ	مونث	عربی	8	غصیلی، ٹکڑے کر دینا
شرزب	صفت	عربی	5	نشان، علامت
شرف	صفت	عربی	4	فوقیت، اعزاز، ترجیح
شرفہ	مونث	عربی	9	باحیا باعفت و شریف
شرفیہ	صفت	عربی	1	بلند درجہ دینا، بزرگی دینا
شرق	ذکر	عربی	6	طلوع آفتاب کی جگہ، اعزاز

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
شرقیہ	مونث	عربی	2	طلوع آفتاب کی جگہ 'اعزاز
شرقت	مذکر	عربی	1	طلوع آفتاب
شرکت	صفت	اردو 'فارسی	2	شمولیت 'شامل ہونا
شرکہ	مونث	عربی	3	شمال اور شریک ہونے والی
شروف	مذکر	فارسی	1	آتش دان
شروق	صفت	عربی	3	طلوع آفتاب ہونا 'خوشہ نکل آنا
شری	مونث	اردو 'سندھی	9	سفید مرغزاروں میں رہنے والی
شریل	صفت	اردو 'سندھی	9	سفید پھولوں کے باغات
شریف	مذکر	عربی 'اردو	5	پاک نیک معزز
شریق	مذکر	عربی	7	خوبصورت لڑکا 'طلوع ہونے والا سورج
شریقہ	مونث	عربی	3	خوبصورت لڑکی
شرہا	صفت	عربی	2	شد
شریلہ	مذکر	اردو	9	حیادار
شرمیلی	مونث	اردو	5	حیا والی
شریفہ	مونث	اردو 'عربی	1	اردو میں ایک پھل جبکہ عربی میں شریف لڑکی
شریبہ	صفت	عربی	4	تیر چلائے والی کمان
شریب	مذکر	عربی	4	تیر کی کمان
شروط	صفت	فارسی	2	شرعی لگنا 'اقرار عہد کرنا
شراکت	مونث	عربی	3	حصہ داری 'شمولیت
شرمین	مذکر	عربی	6	حیا و شرم والی
شطفہ	صفت	عربی	8	منع کرنا 'روک دینا
شطیبہ	مذکر	فارسی	6	نزدیک 'دور کرنا 'تجنا'

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
شطاف	صفت	عبرانی	3	دوری، طوالت
شطر	مذکر	عربی	5	ستون، سہارا دینے والا
شعار	مذکر	عربی، اردو	4	طریقہ، عادت، اصول
شعار	صفت	عربی	5	عبادات، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات یا اصول
شعشعہ	مونث	عربی	9	سورج کی کرن یا روشنی
شعلہ	صفت	فارسی، اردو	9	آگ کی لو
شعلہ رخ	مونث	فارسی، اردو	8	دکتے چہرے والی سرخ چہرے والی
شعیب	مذکر	عربی	5	اللہ کے ایک پیغمبر کا نام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر تھے۔ حضرت صفورا زوجہ حضرت موسیٰ انبی کی صاحبزادی تھیں۔ مطلب، درست کرنے والا، راہ راست پر لانے والا
شعرانی	مذکر	عربی	1	جس شخص کے جسم پر گھنے اور لمبے بال ہوں
شعیل	مذکر	عربی	5	ستاروں جیسا چمکدار
شعلیہ	مونث	عربی	1	ستاروں جیسی چمکدار خوبصورت
شعور	صفت	عربی	9	فہم، ادا رک
شعیرہ	مونث	فارسی	9	قربانی ایثار
شغل	مذکر	عربی	7	کام، عادت، مصروفیت
شغیلہ	مونث	عربی	4	مصروف رہنے والی
شغیف	مذکر	عربی	4	بہت محبت کرنے والے
شغف	مذکر	اردو، عربی	3	لگاؤ رکھنے والا، انسیت رکھنے والا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
شفاعت	مذکر	اردو، عربی	5	گناہ معاف کرنے کی سفارش کرنا آنحضرتؐ کی صفت روزِ محشر سرکارؐ ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔
شفا	صفت	عربی، اردو	3	بیماری سے آرام، صحت
شفاء	مونث	عربی	3	سیدنا عمر فاروقؓ کی خالہ زاد بہن کا نام کنارا، ساحل
شفان	صفت	عربی	8	بازش کے ساتھ چلنے والی ٹھنڈی ہوا
شفیق	مذکر	اردو، عربی	4	پیار کرنے والی، مہربانی کرنے والا
شفیقہ	مونث	اردو، عربی	9	پیار کرنے والی، مہربان خاتون، پاکستان کے سابق صدر ضیاء الحق کی زوجہ کا نام
شفیع	مذکر	اردو، عربی	1	آنحضرتؐ کا صفاتی نام، شفاعت کرنے والے
شفیعہ	مونث	اردو، عربی	6	شفارش کرنے والی
شفق	مذکر	اردو، عربی	3	افق کی سرخی
شفقة	مونث	اردو، عربی	8	افق کی سرخی جیسی، خوبصورت
شفقت	صفت	عربی، اردو	7	اپنائیت، نظرِ عنایت، اچھا سلوک
شفن	مذکر	فارسی	7	عقاب کی نظروں والا، عاقل و دانہ
شفون	مذکر	عربی، اردو	4	غیرت مند، ایک باریک کپڑے کا نام
شکرین	مونث	فارسی	4	مٹھاس والی، شکر جیسی مٹھی
شکور	مذکر	عربی	4	اللہ کا شکر کرنے والا
شکریہ	مونث	اردو، فارسی	4	احسان مندی کا اظہار، اچھے سلوک پر اظہارِ پسندیدگی، ممنونیت
شکیم	مذکر	عربی	1	مقتابہ، طبع

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
تکلیف	مونث	اردو، عربی	5	بہت خوبصورت، حسین و جمیل خاتون
شکیمہ	مونث	عربی	5	بدلہ، دینا
تکلیب	مذکر	فارسی	8	مہربانداشت کرنے والا
تکلیبہ	مونث	فارسی	4	مہربان کرنے والی، چٹل
تکلیل	مذکر	اردو، عربی	9	خوبرو مرد
شکیمہ	مونث	عربی	6	طبع، مشابہت
شگوفہ	مذکر	فارسی، اردو	6	کھٹا ہوا پھول
شگفتہ	مونث	فارسی، اردو	4	کھلتی ہوئی کھلی، پھول، پھولوں جیسی مسکراہٹ
شعب	مذکر	عربی	3	گھاٹی، تیشب، درہ، تاریخ میں شعب بنو ہاشم نے شہرت پائی
شعبہ	مذکر	اردو، عربی	3	عجیب کام کرنا، حیران کر دینے والا کام کرنا
شگون	مذکر	اردو، فارسی	7	نیک کام کی ابتداء، شگون کی جمع
شگفت	مذکر	فارسی	8	حیرت، تعجب کی بات
شگنیا	مذکر	ہندی	3	نوجوی، شگون نکالنے والا
شطاق	مذکر	عربی	6	ڈینگیں مارنے والا
شققہ	مذکر	عربی	2	بست جانے والا
شقیض	مذکر	عربی	4	حصہ دار، شریک، شراکت
شگرف	صفت	فارسی	6	ایک پتھر کا نام، عمدہ نیک
شک	مذکر	فارسی، اردو	1	اردو میں ساتھ جبکہ فارسی میں پتھر
شہنوا	صفت	فارسی	6	فریاد سننے والا
شہاور	مذکر	عربی	8	تیراک

نام	مذکر / مؤنث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
شفیق	مذکر	عربی	1	بے کر پالا ہوا بے پالک
شلال	مذکر	فارسی	1	آبشار، جھرنہ
شائل	مذکر	عربی	3	عادات، جیسا، مشابہ
شائلہ	مؤنث	عربی	8	صورت، وضع قطع
شاص	مذکر	عربی	8	عجلت، سرعت سے نکلنا
شاصہ	مؤنث	عربی	4	عجلت کرنے والی
شائم	مؤنث	عربی	4	خوشبویات
شمر	مذکر	عربی	9	حضرت امام حسینؑ کے قاتل کا نام
شرانہ	صفت	عربی	5	سکات کرنے والی، فیاض
شرانہ	صفت	عربی	2	خاموش طبع، سنجیدہ صفت
شس	مذکر	عربی	4	سورج
شمسہ	مؤنث	عربی	9	کلس کی شہری تھالی، آفتاب جیسی روشنی
				پھیلانے والی
شمیٹ	صفت	عربی	8	مخلوط، صبح
شمشاد	مذکر	فارسی	3	لمبا اور خوبصورت درخت
شمیر	مذکر	عربی	1	محنتی، تجربہ کار
شمیم	صفت	عربی	3	نمک، خوشبو
شمیل	مذکر	عربی	2	بشویت اختیار کرنے والا طبع
شماقہ	صفت	عربی	5	چستی، خوشحالی
شمار	صفت	عربی	6	دل لگی ہنس
شمار	صفت	عربی	5	روشنی دینے والی
شمیہ	مؤنث	عربی	4	طبع، عادت، فطرت
شامہ	صفت	فارسی	8	مدھم خوشبو

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
شمظہ	صفت	عربی	3	منع کرنا، طبعی سے بات کرنا
شمہ	مونث	فارسی	3	بالائی، اچھی طبیعت
شمع رو	مونث	اردو فارسی	4	دکتے چرے والی
شمیہ	مونث	فارسی	8	مہک، بہت اچھی خوشبو
شمعی	مونث	اردو	6	سبز رنگ
شمیلہ	صفت	فارسی	7	خصائص، عادات
شملہ	صفت	عربی	6	ہندوستان کا ایک پہاڑی مقام، شمالی ہوا
شمول	مونث	عربی	7	ایسی شراب جو شمالی ہواؤں میں سرد کی گئی ہو ایسی ہوا جو قطب کی جانب سے آئے۔
شماس	مذکر	عربی	5	پادری جو قیس سے درجہ میں کم ہوتا ہے۔
شمول	مذکر	اردو	7	شامل ہونا، اختیار کرنا، سورج کا پجاری
شمع الین	مونث	اردو، عربی	1	اس ججی کو کہا جاتا ہے جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو دکھائی گئی۔
شواد	صفت	عربی	5	ایک پرندہ چکور
شواف	مذکر	عربی	8	عقابی نظروں والا
شواظ	مذکر	عربی	1	تیز آگ، ایسی آگ کا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔
شونہ	مذکر	عربی	1	غلہ کا ذخیرہ، جنگی جہاز
شواہد	مذکر	اردو، عربی	1	گواہان، امثال، ثبوت
شويعو	مذکر	عربی	1	کم درجہ کا شاعر، شاعروں کا تخلص۔
شمویل	مذکر	عربی	8	ایک نئی کانام
شوکت	مذکر	اردو، عربی	6	رتبہ، عظمت، رعب

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
شوقی	مذکر	عربی	2	مشتاق، آہی مند
سومیز	صفت		3	زرخیز زمین
شامت	صفت	عربی	8	شجاعت، دلیری، بزرگی۔
شربانو	مونث	فارسی	6	حضرت امام حسین کی زوجہ، معزز خاتون۔
شہاب	صفت	عربی	2	سرخ رنگت والا، نہایت روشن ستارہ لگتا ہوا شعلہ
شہانہ	مونث	عربی	9	مچی ہوئی، گھوڑی۔
شہ پارہ	مونث	فارسی	9	شہابی کھڑا، خوبصورت
شہرہ	صفت	فارسی عربی	6	فارسی میں شہرت، سہرا، جو پھولوں سے بنایا گیا ہو۔ جبکہ عربی میں تحفہ اور عطیہ
شہانہ	صفت	فارسی	1	بادشاہوں جیسے انداز
شہباز	مذکر	فارسی	9	بازوں کا شاہ، عقاب
شہنیر	مذکر	عربی	2	شہرت یافتہ
شہبا	مونث	عربی	2	سفید و سیاہ گھوڑی، مہکی رنگت
شہر زاد	مونث	فارسی	4	الف لیلوی کہانی کی ملکہ، شہر کی بیٹی
شہپر	مذکر	فارسی	3	پردوں کے بازوں کا بڑا پر
شہرور	مذکر	فارسی	5	بہت طاقتور، زور کا بادشاہ
شہید	مذکر	عربی، اردو	4	آنحضرتؐ کا لقب و صفاتی نام، گواہ حاضر، اللہ پاک کی راہ میں جان دینے والا۔
شہرناز	مونث	فارسی	5	عروس، شہر کا ناز، موسیقی کی ایک آواز
شہزاد	مذکر	فارسی، اردو	9	بادشاہ کا بیٹا
شہزادی	مونث	فارسی، اردو	3	بادشاہ کی بیٹی

نام	مذکر / مؤنث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
شہس	صفت	عربی	9	آرزو رکھنا، امید رکھنا
شہم	مذکر	عربی	4	تیز رفتار گھوڑا، طاقتور، تیز ذہن والا
شہقہ	صفت	فارسی	5	نعرہ مارنا
شہیرہ	مؤنث	عربی	7	مشہور و معروف
شہلا	مؤنث	عربی	3	نرگس کا پھول، نیلی آنکھوں والی
شہوار	صفت	فارسی	8	بادشاہوں کے لائق
شہین	مذکر	عربی	7	حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا اکٹھا ذکر کرنا ہو تو حضرات شہین کہا جاتا ہے۔
شہجان	مذکر	عربی	9	غیرت والا
شہناز	مؤنث	اردو	3	بادشاہ کے ناز و دامن
شہنا	مؤنث	فارسی	5	القوزہ، بانسری، شہنائی
شہرور	مذکر	فارسی	9	ایک ساز
شہبندر	مذکر	عربی	3	سفارت کار کو نسل
شہم	مذکر	عربی	3	عقل و فہم میں تیز، ہشیار
شہکار	صفت	اردو، فارسی	4	بادشاہوں جیسا کام، عمدہ کاریگری کا نمونہ
شہور	مصدر	عربی	7	حاضر ہونا، حاضری دینا
شہس	مؤنث	اردو، فارسی	9	سلطانی، شاہی
شہیدناز	صفت	اردو، عربی	8	عاشق، عشق میں مرا ہوا۔
شہادت	مؤنث	عربی، اردو	8	اللہ کریم کی راہ میں جان قربان کرنا، گواہی دینا
شہانی	صفت	اردو	6	عمدگی سے تیاری، دامن۔

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
شیبان	مذکر	عربی	3	ایک ولی کامل کا نام
شیخ	مذکر	اردو، عربی	1	مسلمانوں کی ایک ذات، اولیائے کرام کا لقب اور ناموں کا سابقہ، استاد، مرشد
شہت	مذکر	عربی	9	حضرت آدم کے جانشین بیٹے کا نام۔ بدلا
شہا	مونث	انگریزی	7	ملکہ بلقیس کے ملک سبا کا انگریزی نام، خوبصورت
شیوا	صفت	فارسی	2	فصح و بلیغ
شیوا	صفت	ہندی	2	دیوتا کا نام
شیوہ	صفت	اردو	6	طور طریقہ، عادت، خصلت
شیدہ	صفت	اردو، فارسی	4	قربان ہونا، صدقے ہونا، ایک شاعر کا تخلص، فریفتہ ہونا۔
شیراز	مذکر	فارسی	5	ایران کا ایک شہر، جہاں سے مشہور علماء اور شاعر پیدا ہوئے اور عالمگیر شہرت پائی، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، جہاں ہوا دودھ، انتظام
شیزہ	مونث	فارسی، عربی	7	روشنی، نور
شیفتہ	مذکر	عربی، اردو	3	اردو کے نامور شاعر نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، فریفتہ، سچا عاشق
شدر	صفت	فارسی	1	اللہ کریم، خدا
شدر	صفت	فارسی	2	اللہ کریم، خدا، مالک کل۔
شیرازہ	مونث	اردو، فارسی	1	بکھرے ہوئے، ٹکڑے، غیر منظم
شہنا	صفت	مہرانی	1	خوش خلق، مہربان
شیریں	صفت	فارسی	8	پردیز کی ملکہ جس کا فرہاد عاشق تھا، میٹھا، عزیز

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
شمن	مونث	ترکی	9	پہاری، خوبصورت، عزیز از جان
شیردل	مذکر	فارسی اردو	4	شیر جیسے دل والا، بہادر
شینری	صفت	فارسی	3	ایک لکڑی آبنوس
شیراقلن	مذکر	فارسی	4	بہادر، شیر مارنے والا
شیرجنگ	مذکر	فارسی	7	دلیر شیر سے لڑنے والا
شیلہ	مونث	ہندی اردو	8	سرور آمیز، ملل
شیلانہ	صفت	فارسی	3	عتاب
شیما	مونث	عربی	9	سیدہ حلیمہ سعدیہ کی دختر کا نام عادات، خصلت، طبع
شیرنستان	مذکر	فارسی	4	بہادر، جنگل کا شیر
شیرازی	صفت	فارسی	6	کوتروں کی ایک قسم، شیراز کا رہنے والا
شرن	مذکر	اردو، سندھی	1	امن کی جگہ، جائے پناہ
شیر	مذکر	فارسی اردو	6	بہادر، نڈر، ایک درندہ
شیال	مذکر	عربی	8	محنتی، زیادہ بوجھ اٹھانے والا
شیاج	مونث	عربی	8	پرہیز، کاوش
شیروانی	صفت	فارسی	1	افغان، قبیلہ، ایک پہتاوا
شیرانی	صفت	اردو	4	اردو کے مشہور شاعر اختر شیرانی

ص

ص	نام کا ابتدائی حرف
دلو	برج کا نام
زحل	ستارے کا نام
سدا بہار بیلین	موافق پھول
نیلا سیاہ	موافق رنگ
زر دیا قوت، نیلم	موافق پتھر
90	اعداد

دلو اور زحل کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ جھوٹ بولنے کے بہت ماہر ہوتے ہیں ان کی توجہ جھوٹے واقعات کی طرف عام طور پر مرکوز رہتی ہے۔ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا جانتے ہیں۔ ان کی توجہ ناجائز اور غلط کاموں کی طرف بھی مبذول ہو جاتی ہے۔ مگر محنتی ہونے کی وجہ سے انہیں کاشت کاری میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تکبر اور غرور ان میں بہت ہوتا ہے۔ اپنے سے بڑھ کر کسی کو خیال نہیں کرتے۔ اسی لئے دو سروں سے فائدہ بہت کم حاصل کرتے ہیں۔ احسان فراموش نہیں ہوتے اگر کوئی ان پر احسان کر دے تو تادم مرگ فراموش نہیں کرتے۔

نام	ذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
صابرہ	مذکر	اردو، عربی	5	مشہور پیغمبر حضرت ایوب کا وصف، بہت صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا
صابرہ	مونث	اردو، عربی	1	صبر کرنے والی، برداشت کرنے والی
صاحب	مذکر	اردو، عربی	2	دوست، مالک
صاحبہ	مونث	اردو، عربی	7	محترمہ، معزز خواتین کو مخاطب کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
صاحب	مذکر	عربی	9	چلانے والا۔
صاحب	مونث	فارسی	1	روشن دان، ہشیار
صافد	صفت	عربی	5	دوپہر
صاف	صفت	عربی	4	ملاپ میل ملاقات کرنا
صارفہ	مونث	عربی	2	صاف گو، کھول کر بیان کرنے والی
صادق	مذکر	عربی	6	سچ لے والا، آنحضرتؐ کو قبل از اسلام بھی لوگ صادق کہتے تھے۔
صادقہ	مونث	عربی	2	سچ بولنے والی، نیک
صادر	صفت	عربی	7	احکامات روانہ کرنا، حکم جاری کرنا، حیر نشانے پر لگنا۔
صارم	مذکر	عربی	7	دلیر، بہادر، تیز دھار، تلوار۔
صارمہ	مونث	عربی	3	دلیر، خاتون، تیز دھار، خنجر، تلوار۔
صارخ	مذکر	عربی	9	اجپل کرنے والا، التجا کرنے والا۔ فریادی
صارہ	مونث	عربی	8	پاس، طلب، حاجت۔
صاعد	مذکر	عربی	3	نیچے سے اوپر جانے والا، ترقی کرنے والا
صاعدہ	مونث	عربی	8	ترقی کرنے والی
صاعقہ	مونث	عربی	5	آسمانی بجلی کی کڑک

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
صاغیہ	صفت	عربی	8	ماتحت بندے
صائم الدہر	صفت	عربی	3	ہمیشہ روزے رکھنے والے
صافرہ	صفت	عربی	7	ایک پرندے کا نام
صابقہ	مونث	عربی	9	نزدیکی
صافقہ	مونث	عربی	6	اترنے والی جماعت
صالح	مذکر	عربی	3	اللہ پاک کے ایک پیغمبر کا نام، نیک اچھے کام کرنے والا
صالحہ	مونث	عربی	8	اچھے کام کرنے والی، نیک خاتون
صامت	مذکر	عربی	9	خاموش طبع
صائب	مذکر	عربی	4	درست امور انجام دینے والا، درست
صائبہ	مونث	عربی	9	درست کام کرنے والی، نیک، درست
صائم	مذکر	عربی	6	روزے رکھنے والا، پیاس برداشت کرنے والا
صائبہ	مونث	عربی	2	روزے رکھنے والی، پیاس برداشت کرنے والی
صائلہ	مونث	عربی	1	دار کرنے والی، نڈر، دلیر
صبا	صفت	عربی	3	صبح کی تازہ ہوا
صباح	صفت	عربی	2	خوبصورت، قدیل، نور کا ترکا
صاغر	مذکر	عربی	4	گالیاں کھا کر بد مزہ نہ ہونے والا، ذلیل و خوار
صانع	صفت	عربی	5	تحلیق کرنے والا، بنانے والا، ہنرمند
صارف	صفت	عربی، اردو	2	استعمال کرنے والا، خرچ کرنے والا
صائد	مذکر	عربی	6	شکار کرنے والا

مطالب و معانی	عدد	ب زبان	مذکر / مؤنث	
التجاکرے والا، فریادی	6	عربی	مذکر	صائت
کشتی کا مستول، ملاح	4	عربی	مذکر	صادری
پکڑنے والا، دیکھنا چشم	5	اردو، عربی	مذکر	صاد
حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے مرید اپنے آپ کو صابری کہلاتے ہیں۔	6	اردو، عربی	صفت	صابری
نفوذ کر جانے والا	7	عربی	مذکر	صاد
اپنا مذہب چھوڑ کر دو سرا مذہب اختیار کرنے والا، ستارہ پرست	4	عربی	مذکر	صابی
مالک کا بیٹا، آقا کا بیٹا	1	اردو، فارسی	مذکر	صاحبزادہ
مالک کی بیٹی، شریف بیٹی۔	6	اردو، فارسی	مؤنث	صاحبزادی
حسن بن صباح اسماعیلی فرقہ کا سربراہ تھا۔ جس نے اپنے مریدوں کو نشہ پر لگا رکھا تھا اور جنت دوزخ بھی بتائی تھی۔ اس نے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو شدید نقصان پہنچایا، مطلب گورے اور نکمرے رنگ والا خوبصورت	2	عربی	مذکر	صبح
حسین اور گوری لڑکی	6	عربی	مؤنث	صباح
خوبصورتی میں یکسا	8	عربی	مؤنث	صباحیہ
ممبر والا	5	عربی	مذکر	صبری
صبح کی چیز، پاک چیز	7	عربی	صفت	صبح
خوبصورتی، سفید رنگ	6	عربی	صفت	صباحت

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
صبحانی	مذکر	عربی	8	خبر و غنص
صبح	مذکر	عربی	8	دین، ملت، رنگ، اثر۔
صبح	مذکر	عربی	2	خبر و حسین و جیل
صبحا	مونث	فارسی	2	گوری رنگت والی
صبحی	مونث	عربی	2	سفید رنگت والی، خوبصورت
صبور	صفت			کریم غفور الرحیم کا صفاتی نام، صبر کرنے اور بدلہ نہ لینے والا، گناہ گاروں پر نرمی کرنے والا
صبور	مونث	عربی	2	بہت نرمی کرنے والی، صبر کرنے والی
صوبی	مونث	فارسی	8	صبح کا مشروب
صبر	مذکر	عربی	5	صبر کرنے والا
صبوہ	مونث	عربی	1	صبر کرنے والی
صبیہ	مونث	فارسی	6	خوبصورت خاتون، سفید رنگ والی
صبیہ	مونث	عربی	8	بچی، بیٹی
صبی	مونث	عربی	3	حضرت امام حسینؑ کی بیٹی کا نام، چھوٹی
صباث	مذکر	عربی	8	بہت صبر و تحمل والا
صباغ	مذکر	عربی	4	رنگنے والا، رنگ ساز
صفت اللہ	مذکر	عربی	1	اللہ کا رنگ، دین کا رنگ، ملت کا رنگ
صحابت	صفت	عربی	6	رفاقت، دوستی
صحو	مذکر	عربی	5	بیدار مغز، ہشیار
صحفہ	مونث	عربی	3	پانی کا چشمہ، پیالہ
صحیفہ	صفت	عربی	4	آسمانی ہدایات، کتاب
صحاح	مونث	عربی	8	صبح کی جمع، درنگی

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و محانی
صحاف	مذکر	عربی	8	کتابوں کی جلدیں بنانے والا، کتب فروش
صحبت	مونث	اردو، عربی	5	دوستی، بیٹھک، عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، پیار، الفت
مخبر	مذکر	عربی	8	چٹان
صفحہ	مونث	عربی	4	پتھریلی چٹان
صغوب	مذکر	عربی	5	دبک، آواز والا، اونچی آواز والا
صداقت	صفت	اردو، عربی	1	گواہی، سچائی، تصدیق
صدر	مذکر	فارسی، اردو	6	سینہ، مرکز، مملکت کا سربراہ
صدیق	مذکر	عربی	6	سیدنا و مولانا ابوبکرؓ کا لقب، اطہر جو سرکار عالی مقام نے مرحمت فرمایا۔ سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا
صدیقہ	مونث	اردو، عربی	3	ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا لقب مبارک، ہمیشہ سچ بولنے والی، راست باز
صدف	صفت	عربی	3	پہلی
صدکان گوہر	صفت	فارسی	9	از حد خوبصورت
صدوق	مذکر	عربی	2	سچ کا ذخیرہ
صدوقہ	مونث	عربی	7	راست باز بی
صدق	مذکر	اردو، عربی	5	ظلم، حوصلہ
صدرہ	مذکر	عربی	2	جسم کا اوپری حصہ
صراط	مذکر	اردو، عربی	3	راستہ، چلن، طریقہ
صدور	مونث	اردو	3	صدر کی جمع، اجراء ہونا
صراحت	صفت	عربی، اردو	6	اجھے انداز میں وضاحت کرنا، تشریح کرنا
صراحہ	صفت	عربی	7	وضاحت، ظلم، پیار

مطالب و معانی	عدد	ب زبان	مذکر / مونث	
آواز، صدا، قلم سے لکھنے کی آواز	5	عربی	مذکر	صریر
دولت کی تھیلی	7	عربی	مونث	صرہ
ارادہ، مضبوط عزم، قصہ	3	عربی	صفت	صریمہ
سونے کے کام کا ماہر، پرکھنے والا	2	عربی، اردو	مذکر	صراف
پہلوان	6	عربی	مذکر	صروع
ایک قسم کی سخت کھجور، تابنا، قلعی	7	عربی	مذکر	صرقان
دروازہ بند اور کھلنے کی آواز، خالص	2	عربی	مذکر	صریف
چاندی				
اعلانیہ، ظاہری طور پر، واضح	2	عربی	صفت	صریح
نیک کام، درست طریقہ	3	عربی	مذکر	صرعاب
ایک چڑیا کا نام، مولا	9	اردو، عربی	مذکر	صعود
ترقی کرنے والا	8	عربی	مذکر	صعود
ترقی کرنے والی	4	عربی	مونث	صعودہ
مٹی کا ٹیلہ، پہاڑی	3	عربی	مذکر	صعید
روئے زمین، مٹی	8	عربی	مونث	صعیدہ
چھوٹا، خورد	4	عربی	مذکر	صغیر
چھوٹی	9	عربی	مونث	صغیرہ
چھوٹی، حضرت امام حسین کی بیٹی کا نام	4	عربی	مذکر	صغریٰ
چھوٹا، کم سن، خردی	3	عربی، اردو	مذکر	صغر
ام المومنین سیدہ ام حبیبہؓ کے والد کا نام	6	عربی	مذکر	سفیان
صحابی رسول کریمؐ، صفوان بن امیہ	2	عربی	مذکر	صفوان
نایت چمکیلا پتھر				

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و مغانی
صفاء	مونث	عربی	9	مناسک حج کے لئے دو پہاڑیوں میں سے ایک صفا اور مروہ، دوستی، پاکیزگی
صفدر	مذکر	عربی، اردو	5	صاف گو، صفوں کو چیرنے والا
صفی	مذکر	عربی	9	مخلص دوست، صفائی، ستھرائی کرنا
صفواء	مونث	عربی	6	نرم پتھر
صفورا	مونث	عربی	8	حضرت موسیٰ کی زوجہ محترمہ کا نام، عالی مرتبہ، عظمت والی۔
صفیر	مذکر	عربی	2	ایک پرندے کی آواز، باریک آواز
صفیہ	مونث	عربی	5	ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حنی، آنحضرتؐ کی پھوپھی کا نام بھی صفیہ تھا۔ مطلب برگزیدہ خاتون پاکباز و مخلص خاتون
صفیح	صفت	عربی	8	چوڑی چیز، وسیع و عریض، "آسان"
صفیحہ	مونث	عربی	4	چوڑی تلوار
صفاق	مذکر	عربی	1	سیاحت کرنے والا، لین دین میں بہت ناک
صقر	مذکر	عربی	3	شاہین، عقاب
صلاح	مذکر	عربی، اردو	3	اردو میں صلاح کو مشورے کے لئے اور عربی میں آواز، اور پکار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
صلابت	صفت	عربی، اردو	1	مضبوط، مستحکم، سخت
صلیبہ	مونث	عربی	2	آنکھ کا ساتواں پردہ
صلاح الذین	مذکر	عربی، اردو	8	فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام۔ دین کی پکار۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
صلاب	صفت	عربی	6	استحکام، قوت
صلاء	صفت	عربی	4	آواز، ندا، پکار
صلیل	صفت	عربی	7	بجھنے کی آواز، جھنکار
صلب	مذکر	عربی	5	سخت زمین
صلحہ	مونث	عربی	7	دوستی، محبت، ملاپ
صمد	صفت	اردو، عربی	8	اللہ کریم کا صفاتی نام، بے نیاز
صمیل	مذکر	عربی	8	خشک
صماء	مونث	عربی	5	نذیر، بچائی ہوئی چیز
صمصام	مذکر	عربی، اردو	8	تیز دھار تلوار
صمد	مونث	عربی	9	بہادر، بے خوف، بڈر
صمیان	مذکر	عربی	2	ماہر، شجاعت والا، دلیر
صمیم	مذکر	عربی	9	پختہ، خالص، گرم، سچا
صمیمہ	مونث	عربی	5	سچی، پختہ، مخلص خاتون
صمید	مذکر	عربی	9	قانع شخص
صمیدہ	مونث	عربی	5	قناعت پسند خاتون
صمیر	مذکر	عربی	7	غروب آفتاب کی جگہ، شام کا وقت
صمیت	مذکر	عربی	9	خاموش طبع، کم گو
صمود	مونث	عربی	5	قبل از اسلام عربیوں کا ایک بت
صنان	مذکر	عربی	2	دلیر، بہادر
صنیع	صفت	عربی	4	احسان کرنے والا، مخلوق
صنذید	مذکر	عربی	5	سردار، بزرگ، شریف النفس
صندل	صفت	فارسی	3	ایک خوشبودار لکڑی
صندلین	مونث	فارسی	9	صندل جیسی، مہک والی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	تعداد	مطالب و معانی
صنوبر	صفت	فارسی	6	سرو قامت، سرو کادرخت
صنم	مذکر	عربی، اردو	9	محبوب، دلیر، عاشقیت
صنوان	مذکر	فارسی		دو بھائی، ایک بیچ کی دونندیاں
صنوید	مذکر	عربی	8	بزرگ، رئیس
صنادید	مذکر	اردو، عربی	6	شریف لوگ، بزرگ و شریف، جرنیل
صناعت	مونث	اردو، عربی	8	دست کاری، ہنرمندی
صند لاف	مونث	عربی	1	صندل کی لکڑی فروخت کرنے والی
صناع	مذکر	اردو، عربی	4	تخلیق کار، ہنرمند
صوار	صفت	عربی	9	تھنڈی بیچ ہوائیں
صوفی	مذکر	یونانی	6	عاقل، دانائی، عالم دین
صوفیا	مونث	یونانی	7	علمائے کرام کو صوفیا کہا جاتا ہے
صوفیہ	مونث	یونانی	8	ہست پرہیز گار خاتون
صویب	مذکر	عربی	9	اچھی اور درست رائے دینے والا
صولت	صفت	عربی	4	دبدبہ، رعب
صومر	صفت	عربی	3	نیاز بولتسی، خوشبو
صومان	مذکر	عربی	7	روزہ دار
صومد	مونث	عربی	4	عبادت گاہ
صہیب	مذکر	عربی	8	صحابی رسول، کریم، حضرت صہیب
صہبا	مذکر	اردو	8	رومی سرخ رنگت والا
صہبہ	مذکر	عربی	8	اردو کے معروف شاعر، صہبا اختر سفید
صہیرہ	مونث	عربی	4	انگور کی شراب، سرخ شراب
			8	گرمانے والا، پکھلانے والا
			4	گرمانے والی، پکھلانے والی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
صیان	مذکر	عربی	7	حفاظت کرنے والا
صیام	صفت	عربی	6	روزے
صیانت	صفت	عربی	2	حفاظت، نگہبانی
صیہ	مذکر	فارسی	5	شکار، جنگل
صيدا	مونث	فارسی	6	جنگل، شکار
صوبلج	صفت	عربی	9	دوست، پارسا
صيدا گلن	مذکر	فارسی	3	شکاری
صیاح	صفت	عربی	1	ایک بہترین خوشبو، سرد ہونے والا
صیدنی	مذکر	عربی	3	کھوئے کھرے کی پہچان کرنے والا، سنار
صیہ	مونث	عربی	5	نعرہ، تیز آواز
صیقل	صفت	عربی	5	صفائی صفتوں والا، چمک
صریہ	مذکر	عربی	3	پر عزم، ارادہ
صیدم	مذکر	عربی	7	دن رات میں ایک کھانا تناول کرنا، غفلت و ہوشیار شخص
صیغہ	مذکر	عربی، اردو	7	نکاح، طریقہ، خلقت
صہود	مذکر	عربی	6	موتا، فریہ

ض

نام کا پہلا حرف	ض
برج کا نام	عقرب
ستارے کا نام	مرخ
موافق پھول	سورج مکھی
موافق رنگ	سرخ
موافق پتھر	سرخ پتھر یا قوت
اعداد	800

مرخ اور عقرب کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ بہت غصیلے ہوتے ہیں۔ بات بات پر غصہ آنا معمول کی بات ہوتی ہے۔ اسی لئے اکثر ان لوگوں کو اپنی قائم کی گئی امیدوں میں ناکامی ہوتی ہے۔ انہیں دولت کی طلب بہت ہوتی ہے۔ عزم و حوصلہ اور قوت ارادہ ان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ان سے ہمیشہ ہمدردی اور اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ مگر عمر اور دولت چلے جانے سے یہ لوگ محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں ان سے لوگ کم میل جول رکھتے ہیں۔ بحث مباحثے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ ہر بات دلیل سے کرتے ہیں۔

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ضیارع	ذکر	عربی	9	عجز و انکسار والا
ضابطہ	ذکر	عربی	2	قوی اور ٹھوس - ہوشیار - فولادی شخص
ضاہر	صفت	عربی	7	پہاڑ کی چوٹی - بلند ی
ضاحک	ذکر	عربی	1	ہنسنے والا - مسکراتا ہوا
ضاحکہ	مونث	عربی	6	ہنسنے والی - مسکراتی ہوئی
ضاحیہ	مونث	عربی	5	ظاہر - نمایاں
ضاد	ذکر	عربی	4	غلبہ پانے والا
ضادہ	مونث	عربی	9	غلبہ پانے والی
ضادی	ذکر	عربی	5	رات کو وارد ہونے والا مہمان
ضارب	ذکر	عربی	4	جنگ جو - مارنے والا
ضاربہ	مونث	عربی	9	جنگ جو خاتون
ضافرہ	ذکر	عربی	1	مددگار - تعاون کرنے والا
ضافرہ	مونث	عربی	6	مدد کرنے والی
ضامر	ذکر	عربی	6	نازک اندام - پوشیدہ
ضامرہ	مونث	عربی	2	نازک طبع، پوشیدہ
ضامن	ذکر	اردو عربی	9	ضمانت دینے والا - ذمہ دار
ضامنہ	مونث	عربی	5	ضمانت دینے والی - ذمہ لینے والی
ضامہ	صفت	عربی	9	پکھلانے والی
ضہیفہ	صفت	عربی	8	خاطر تواضع کرنے پر ناہممان بنانا
ضای	صفت	عربی	5	حمایت کرنا - مدد کرنا
ضبور	ذکر	عربی	9	شیر ببر
ضبیب	مونث	عربی	4	کمواری کی دھار
ضحاک	ذکر	عربی	1	ہنسنے مسکراتے رہنے والا

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
ضحاکہ	مونث	عربی	6	ہنس مکراتی ہوئی
ضعیف	مذکر	عربی	1	جس کا حجم بہت بڑا ہو۔ پھیلاؤ والا۔
ضحکہ	مونث	عربی	5	سب کا مسخرا اڑانے والی۔
ضراب	مذکر	عربی	4	ضرب لگانے والی
ضائن	مذکر	عربی	6	لٹکے ہوئے پیٹ والا۔ ست
ضادی	مذکر	عربی	7	کمزور و ناتوان۔ اطاعت کریں والا
ضار	مذکر	عربی	2	نقصان پہنچانے والا۔ ضرر رساں
ضراوت	مذکر	عربی	1	عادی ہونا۔ عادت
ضربان	صفت	عربی	9	چمک دمک۔ شعلہ کی لپک۔
ضرغام	مذکر	عربی	7	طاقور۔ شیر جیسا۔ بر شیر۔
ضرغامہ	مونث	عربی	2	طاقور خاتون۔ شیرنی
ضرار	مذکر	عربی	4	صحابی رسول اکرم سیدنا ضرارؓ بن ازور۔ سختی کرنے والا
ضرہ	صفت	عربی	1	آگ۔ آتش۔
ضرہ	مونث	عربی	9	تلوار جیسی تیز۔ عادت۔
ضطر	صفت	عربی	5	گوہر۔ موتی
ضفہ	مذکر	عربی	3	دریا کا کنارہ
ضفیرا	مونث	عربی	2	بالوں کا جوڑا
ضلائل	مذکر	عربی	5	راستہ بنانے والا۔ راہنما
ضلمح	مذکر	عربی	2	نوجوان لڑکا
ضار	مذکر	عربی	6	پوشیدہ۔ خفیہ
ضمودہ	مونث	عربی	2	پتلی کردالی۔ شیرنی
ضمودہ	مذکر	عربی	5	سخت شیر

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ضمان	مذکر	عربی	9	خود کفیل - ضمانتی
ضمیر	مذکر	عربی	6	دل کی آواز - اندر کی آواز
ضمیرہ	مونث	عربی	2	دل کی اندرونی بات
ضمویر	مذکر	عربی	3	آنحضرتؐ کے ایک غلام کا نام
ضوفشال	صفت	فارسی	4	روشنی دینے والا، منور، نور
ضمین	مذکر	عربی	9	ضمانت دینے والا
ضیاء	مذکر	اردو، عربی	1	چمک دمک، پاکستان کے ایک صدر ضیاء الحق -
ضیب	مذکر	عربی	2	لکوار کی دھار
ضیار	مذکر	عربی	3	سرعت سے کام کرنے والا
ضمشم	مذکر	عربی	7	شیر
ضمشمہ	مونث	عربی	3	شیرنی
ضمہوہ	مونث	عربی	6	پانی کا حوض نیکی
ضیغم	مذکر	عربی	1	چیرنے پھاڑنے والا شیر
ضیغمہ	مونث	عربی	6	شیرنی
ضیف	مذکر	عربی	8	مہمان
ضیفال	مونث	عربی	5	مہمان خاتون، مہمانداری
ضداد	مذکر	عربی، اردو	8	دوا کا لپ، دوا کو پھیلا کر لگانا
ضخام	مذکر	فارسی	1	بڑے ڈیل ڈول والا
ضمور	مذکر	عربی	3	نمازیوں کی جماعت، اعراب
ضمورہ	مذکر	عربی	3	شیر، سخت
ضمان اللہ	مذکر	عربی	4	اللہ پاک کے مقرب بندے
ضموی	مذکر	عربی	5	جیسا، مانند

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
ضیض	مذکر	عربی	9	فریاد، چلتے میں جسم کا ہلنا
ضمیم	مذکر	عربی	4	پھاڑ کا کنارہ
ضرغم	مذکر	عربی	6	شیر
ضرم	مذکر	عربی	5	عقاب کا بچہ، بھوکا
ضعفان	مذکر	عربی	1	کمزور و ناتوان
ضابطہ	صفت	عربی، اردو	7	قابض، محافظ، احتیاط
ضحک	مونث	عربی	9	مسکرائنا، قہقہے لگانا
ضوریز	صفت	عربی	6	منور کرنے والا
ضوگلن	صفت	فارسی	2	روشنی پھیلانے والا
ضیا افروز	صفت	عربی، فارسی	7	منور کر دینے والا
ضیا فشاں	صفت	عربی، فارسی	9	نور پھیلانا، منور کرنا
ضبیر	مذکر	اردو، عربی	4	مضبوط، سخت، عضو تاسل
ضجن	مذکر	عربی	7	ایک پہاڑ
ضجنان	مذکر	عربی	4	مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ
ضحل	مذکر	عربی	1	خالص، قلیل پانی

ط

نام کا ابتدائی حرف

ط

برج کا نام

میزان

ستارے کا نام

زہرہ

موافق پھول

سرخ و سفید

موافق رنگ

نیلا اور ہلکا سرخ

موافق پتھر

مروارید عقیق

9

اعداد

زہرہ اور میزان کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ ہر حال میں عیش و آرام پسند کرتے ہیں۔ اعلیٰ طبقہ میں میل جول بڑھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ جنس مخالف کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ ایک سے زائد شادیوں کو برا خیال نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے ان کو بچوں کی تعداد کی فکر نہیں ہوتی۔ بڑا کنبہ پسند کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کی عزت اور وقار سے بڑھ کر ان کے نزدیک کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔ عزت دولت اور شہرت کے حصول کے لئے یہ لوگ ہمہ وقت مصروف عمل رہتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
طہ	صفت	عربی	5	حضور نبی کریم ﷺ کا لقب، کلام اللہ شریف کی ایک سورۃ، پاک، پیغمبر
طاب	مذکر	عربی	3	پاک خوشبو، خوشگوار
طابہ	مونث	عربی	8	پاک، بھجور
طابق	مذکر	عربی	4	پسندیدہ، موافق
طابندہ	مونث	عربی	4	دانا خاتون
طابن	مذکر	عربی	8	عقل و فہم والا
طارق	مذکر	عربی	4	فاتح ہمسائیہ طارق بن زیاد، صبح کا ستارہ
طارف	مذکر	عربی	2	نیا حاصل شدہ مال، تازہ پھل، انوکھا
طارفہ	مونث	عربی	7	مال و دولت والی
طاہونہ	مونث	فارسی	7	اطمینان قلب والی، پرسکون
طاری	صفت	عربی	4	احاطہ کرنے والا، چھا جانے والا
طاہیہ	مونث	عربی	8	بجلی، خود سر
طافہ	صفت	عربی	4	خشک
طافیہ	مونث	عربی	6	سبک، ہلکی چیز، کم وزن
طالع	مذکر	عربی	2	فرماں بردار، طلوع ہونے والا
طالعہ	مونث	عربی	7	فرماں بردار، قسمت، طلوع ہونے والا
طالب	مذکر	عربی	6	طلب گار، حضرت علی کریم اللہ وجہہ کے والد کی کنیت ابو طالب
طاس	صفت	عربی	7	نظروں سے دور، پوشیدہ
طالش	صفت	عربی	7	روشن، منور، پاکستان کے ایک مشہور و معروف اداکار
طالیہ	صفت	عبرانی	1	اللہ کی عطا

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
طامعہ	صفت	عربی	9	بلند خیالات والا، سرکش
طالوت	ذکر	عبرانی، عربی	5	بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ کا نام جس کی حکومت حضرت داؤد سے قبل تھی اس نے جالوت کو شکست دی تھی۔
طاغوت	ذکر	عربی	3	باغی سرکش
طاؤس	ذکر	فارسی	4	ایک خوبصورت پرندہ منور، مشہور تخت، طاؤس
طائر	ذکر	عربی	4	پرندے، پرواز کرنے والا
طائرہ	مونث	عربی	9	پرواز کرنے والی، پرندے
طائظ	صفت	عربی	2	مضبوط و مستحکم
طائف	ذکر	عربی	1	حفاظت کرنے والا، نگہبان، حجاز مقدس کا ایک قصبہ
طاہر	ذکر	عربی	8	حضور پر نور، کا صفاتی اسم گرامی، پاک صاف
طاہرہ	مونث	عربی	4	پاک، صاف خاتون
طائق	ذکر	عربی	3	احاطہ کرنے والا، پہاڑ کی نوکیلی چٹان
طائل	ذکر	عربی	5	دولت مندی، غر، فراخی
طائلہ	مونث	عربی	1	مالدار خاتون، قائمہ پہنچانے والی
طارم	ذکر	اردو، عربی	7	بلند و بالا مکان، آسمان
طار سدرہ	ذکر	عربی	3	حضرت جبریل امین کا مقام سدرہ
طائی	صفت	عربی	2	زمانہ قبل از اسلام کا مشہور سخی ماتم طائی، قبیلہ بنو طے سے تعلق رکھنے والا
طالع	ذکر	عربی	8	اطاعت گزار

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
طاعم	مذکر	عربی	3	بسیار خور، چاہنے والا
طبہ	صفت	عربی	7	زری کرنا، اچھا سلوک کرنا
طبیبہ	صفت	عربی	3	ہشیاری، چالاک
طعمہ	مونث	عربی	8	اطاعت کرنے والی، اعلیٰ و ارفع
طہوت	مونث	عربی	5	بادلوں کو اڑانے والی ہوا
طمان	مذکر	عربی	5	آٹا فروش، آٹا بیسنے والا
طیب	مذکر	عربی	5	معالج، شفا دینے والا
طیبہ	مونث	عربی	1	معالجہ، شفا دینے والی
طغیا	مونث	عربی	8	سیاہ رات، گہری بات
طراد	مذکر	عربی	7	رقلین جھنڈا، طویل دن
طراز	مذکر	عربی	1	نقش و نگار بنانے والا، سیاحت
طرازیہ	مونث	عربی	7	نقش و نگار بنانے والی
طرازی	مذکر	ترکی	2	شریف انصاف، امیر کبیر
طراوت	مونث	عربی، اردو	4	زراہٹ، ٹھنڈک، تازگی
طرب	مذکر	عربی	4	خوشی، مسرت، شادمانی
طریہ	مونث	عربی	9	خوشی، انبساط
طریال	صفت	فارسی	8	بڑی چٹان، بلند چٹان
طرخان	مذکر	ترکی	5	شریف، سردار
طرف	صفت	عربی	7	بصارت، تیز کرنا
طرف	مذکر	عربی	1	کریم، نجیب الطوفین، جانب
طرفہ	مونث	عربی	6	خوبصورت، نئی چیز، نادر چیز
طرفندہ	مونث	ترکی	6	بے موسی پھل
طرقہ	مونث	عربی	8	فطرت، خصلت

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
طروبہ	مذکر	فارسی	1	خوشحالی، شادیاں و فرحان
طروبہ	مونث	فارسی	6	خوشحال رہنے والی، شاد رہنے والی
طرہ	مونث	عربی	7	بالوں کی لٹ، کٹنی
طرید	مذکر	عربی	7	ڈھونڈا ہوا، تلاش کیا ہوا
طریدہ	مونث	عربی	3	ڈھونڈنے والی، حاصل شدہ
طریہ	مذکر	عربی	5	حسن و جمال والا، خوبصورت
طریہ	مونث	عربی	1	وضع دار، خوبصورت
طریف	مذکر	عربی	2	نادر مہوہ
طریقہ	مونث	عربی	7	نئی عمدہ چیز
طرار	مذکر	عربی	5	تھیل اچک کر لیجانا، تیری
طفرل	مذکر	ترکی	6	سلجوق خاندان کا پہلا حکمران، ایک مشہور شکاری پرندہ
طعب	صفت	عربی	9	خوشبو، خوش ذائقہ
طغرا	مذکر	عربی	4	تحریر، نشانی
طغریہ	صفت	عربی	8	چڑیوں کی چچماہٹ
طغوہ	مونث	عربی	3	بلند جگہ
طغیہ	مونث	عربی	7	بلند و بالا، سر بلند
طعم	مذکر	عربی	2	کھانا پینا شخص
طفیل	مذکر	اردو عربی	3	بدولت، برائے
طفحان	صفت	عربی	4	معمور، بھرا ہوا
طفیف	مذکر	عربی	8	ناکمل مختصر
طفارہ	مونث	عربی	9	سورج کا بالہ
طفل	مذکر	عربی اردو	2	بچہ، کمسن

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
طلال	مذکر	عربی	7	شادمان، خوبصورت
طلالہ	مونث	عربی	3	شادمانی، خوبصورت
طلاب	مذکر	فارسی	6	آرزو کرنے والا، متلاشی
طلابہ	مونث	فارسی	2	آرزو کرنے والی، متلاشی
طلحہ	مذکر	عربی	7	صحابی رسول کریم، سیدنا طلحہ بن عبد اللہ
				آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، نعمت تازگی
طلیحہ	مذکر	عربی	7	ہراول دستہ فوج
طلاح	صفت	عربی	2	نراکت تازگی
طہیہ	مونث	فارسی	8	مانگی گئی، طلب کی گئی۔
طلعت	صفت	عربی	6	دیدار، نظارہ
طلیق	مذکر	عربی	5	خوش رہنے والا، آزاد منش
طلیقہ	مونث	عربی	1	خوش رہنے والی
طلاخی	مذکر	عربی	4	کانڈ کے بت سے ورق
طلیحہ	مذکر	عربی	8	قرطاس، کانڈ کا ایک صفحہ
طلق الدین	مذکر	عربی	1	اللہ کریم کے راستے میں خرچ کرنے والا، بخشنے والا
طلق اللسان	مونث	عربی	5	زبان کی تیز، چرب زبان
طلوب	مذکر	عربی	2	چاہت کرنے والا مانگنے والا
طلبہ	مذکر	عربی	6	صحابی رسول کریم، حضرت طلہ بن عمرو
				عمید چاہنے والا، طلب کرنے والا
طناز	مونث	فارسی	4	شوخی و چٹیل، ناز و کھانے والی
طہار	مذکر	عربی	7	بلند جگہ، عالی رتبہ
طوبی	صفت	عربی	9	سعادت، پاک، جنت کا ایک درخت
				پسندیدہ

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
طوسہ	مونث	عربی	8	سجائا، تیار کرنا
طوسیہ	صفت	عربی	9	پینے کے برتن کا نام، رنگ
طور	مذکر	عربی	8	اس پہاڑ کا نام جہاں حضرت موسیٰ کو تجلی دکھائی گئی۔
طوفان	مذکر	عربی	4	گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا، چھا جانے والا
طول	مذکر	اردو، عربی	9	لمبا کرنا، اضافہ کرنا، کامل لمبا
طولہ	مونث	عربی	5	لمبا کرنا، طویل کرنا، مہلت بڑھانا
طواطا	مذکر	عربی	7	دلیر، بہادر، بے خوف
طویس	مذکر	عربی	4	چھوٹا مور
طہور	صفت	عربی	4	پاک، پاکی، صفائی
طواسیم	مونث	عربی	9	کلام اللہ شریف کی وہ سورۃ مبارکہ جن کا آغاز طسم سے ہوا ہے۔
طوالت	مونث	عربی، اردو	5	زیادتی، اضافہ کرنا
طولانی	صفت	عربی	7	طول دینا، بڑھانا
طہمو	مذکر	عربی	4	ایران کے پیش داری خاندان کے تیسرے شاہ کا نام
طہماس	مذکر	فارسی	3	ایران کے ایک بادشاہ کے بیٹے کا نام۔
طہمیر	صفت	عربی	8	پاک و صاف
طہمیرہ	صفت	عربی	4	پاک و صاف، آلائشوں سے پاکی
طیب	مذکر	عربی، اردو	3	رسول کریمؐ کا صفائی نام، آنحضرتؐ کے صاحبزادے کا اسم مبارک، پاک اعلیٰ ستھرا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
طیبہ	مونث	عربی	8	پاکیزہ خاتون
طیبہ	صفت	عربی	8	آنحضرتؐ کے آستانہ عالیہ کی وجہ سے مدینہ منورہ کو عاشقان کرام طیبہ بھی کہتے ہیں۔
طیاب	صفت	عربی	4	بست عمدہ چیز، خوشبو
طیفون	مذکر	عربی	2	غصہ، اشتعال، برے خواب
طیرزہ	مونث	عربی	6	ہلکا، کم وزن، چھوٹا پرندہ
طہلی	مذکر	عربی	1	مقبول، خواب میں وارد ہونے والے خیال
طیفیہ	مونث	عربی	6	مقبول، طہلی کی مونث
طیفور	مذکر	عربی	8	ولی کامل حضرت بایزید بطائی کا اصل نام، غصیلا
طیار	مذکر	عربی	4	حضرت سیدنا، جعفر بن ابی طالب کا لقب جو سرکارِ دو عالم نے آپ کو بعد از شہادت عطا فرمایا، اڑنے والا
طین	مونث	اردو، عربی	6	مٹی، خاک
طینت	صفت	اردو، عربی	1	نطرت، خلعت، عادت
طہف	مذکر	عربی	9	خیالات

ظ

ظ	نام کا ابتدائی حرف
عقرب	برج کا نام
مرنج	ستارے کا نام
سورج مکھی	موافق پھول
سرنج	موافق رنگ
سرنج پتھر یا قوت	موافق پتھر
900	اعداد

مرنج اور عقرب کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ بہت غصیلے ہوتے ہیں۔ بات بات پر غصہ آنا معمول کی بات ہوتی ہے۔ اسی لئے اکثر ان لوگوں کو اپنی قائم کی گئی امیدوں میں ناکامی ہوتی ہے۔ انہیں دولت کی طلب بہت ہوتی ہے۔ عزم و حوصلہ اور قوت ازادہ ان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ان سے ہمیشہ ہمدردی اور اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ مگر عمر اور دولت چلے جانے سے یہ لوگ محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں ان سے لوگ کم میل جول رکھتے ہیں۔ بحث مباحثے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ ہر بات دلیل سے کرتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	بیزبان	عدد	مطالب و معانی
ظاہر	صفت	عربی، اردو	8	اللہ رب العزت کا صفاتی نام، نمایاں عیاں
ظاہرہ	مونث	عربی	4	ظاہر ہونے والی چیز، دکھائی دینے والی۔
ظافر	مذکر	عربی	2	کامیاب و کامران، فتح مند
ظافروہ	مونث	عربی	7	کامیاب خاتون
ظاعنہ	مونث	عربی	9	راہ گیر خاتون، سفر کرنے والی
ظامر	مذکر	عربی	7	نظر آنے والا
ظام	مذکر	عربی	5	آواز، کلام
ظاری	مذکر	عربی	3	غصہ کرنے والا، کاٹ کھانے والا
ظبیہ	مونث	عربی	7	تکوار کی دھار
ظبیہ	مونث	عربی	8	ایک جانور ہرنی
ظریف	مذکر	عربی	2	خوش کرنے والا، ہنسانے والا
ظریفہ	صفت	عربی	7	خوش کرنے والی، خوش طبع
ظرافت	مذکر	عربی	6	ہنسی مذاق، خوش مزاجی
ظراف	مذکر	عربی	2	عقل و فہم والا
ظرف	مذکر	عربی، اردو	1	حوصلہ ضمیر کی آواز، ایک برتن
ظروف	مونث	عربی، اردو	7	صرافی، برتن کی جمع، ظرف کی جمع
ظرب	مذکر	عربی	4	چھوٹے قد کا فولادی موٹا آدمی
ظریہ	مونث	عربی	5	راہ نماسارہ، پتھریلی زمین
ظلل	صفت	عربی	3	سایہ
ظلل سبحانی	صفت	عربی	8	بادشاہوں کا لقب، اللہ سبحانہ کا سایہ
ظلل اللہ	مذکر	عربی	5	شاہوں کا لقب، اللہ کا سایہ
ظلل الہی	مذکر	عربی	4	اللہ کریم کا سایہ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ظل قمر	مونث	عربی	1	چاند کاسایہ
ظل ہما	مونث	عربی	4	ہما کاسایہ
ظل یزدان	صفت	عربی فارسی	3	خدا کاسایہ
ظلال	صفت	عربی	7	ابر کاسایہ، سائبان
ظلام	مذکر	عربی	8	ایک بوٹی کا نام، ظلم کرنے والا
ظلیف	مذکر	عربی	3	سخت جگہ، بد حال
ظلمہ	مونث	عربی	8	سایہ کرنے والی، چھپانے والی
ظلیل	صفت	عربی	7	ٹھنڈا، اور سرد، سایہ دار
ظفر	مذکر	عربی، اردو	1	آخری مغل تاجدار کا تخلص، پورا نام بہادر شاہ ظفر، ان کی وفات اسیری کی حالت میں رنگوں کے قید خانہ میں ہوئی، مطلب جینے والا، فتح مند
ظفیر	مذکر	عربی	2	ہر جگہ کامیاب و کامران ہونے والا
ظفیرہ	مونث	عربی	7	ہر مقام پر کامیاب ہونے والی
ظفار	مونث	عربی	2	ایک بہترین خوشبو
ظفر جنگ	مذکر	فارسی	2	فوجی خطاب، جنگ میں فتح پانے والا
ظفواہر	مذکر	عربی	5	شرقاء، زمین کی بلندیاں، نباتات
ظربان	مذکر	عربی	1	چھوٹا سا جانور
ظہر	مذکر	عربی	7	ایک نماز جو بعد از دوپہر پڑھی جاتی ہے، بہت سامان، فخر
ظہرانہ	مونث	عربی	9	دوپہر کا وقت، دوپہر کا کھانا
ظہرہ	مونث	عربی	3	مدد کرنے والی
ظہور	صفت	عربی	4	اظہار، انکشاف

نام	مذکر / مؤنث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ظہور قدسی	صفت	عربی	7	سچ کا انکشاف، پاکیزگی کا اظہار، آنحضرتؐ کی ولادت پاک کو کہا جاتا ہے۔
ظہیر	مذکر	عربی	8	مغل سلطنت کا بانی ظہیر الدین بابر مدد کرنے والا، دوست
ظہیرہ	مؤنث	عربی	4	مدد کرنے والی، دوست، ساتھی
ظہر	مؤنث	عربی	8	پشت والی، عقب والی، یعنی دوسری بیٹی
ظہور النساء	مؤنث	عربی	6	نمایاں ہونے والی، جلوہ دکھانے والی
ظہارت	صفت	عربی	3	پشت مضبوط ہونا۔
ظہارہ	مؤنث	عربی	4	بادل
ظہنی	صفت	عربی	6	خیال ظاہر کرنا، وہم کرنا
ظہن	مذکر	عربی	5	رائے، خیال، مطمح نظر
ظہنل	مذکر	عربی	8	درختوں کے نیچے ایسا پانی جس پر دھوپ نہ پڑے، یعنی درختوں کے سایہ میں پانی۔
ظہنون	مذکر	عربی	7	شریف آدمی، خیالی شخصیت
ظہنان	مذکر	عربی	2	بد مزاج شخص
ظہلم	مذکر	عربی	8	ظلم و ستم کرنے والا

ع

نام کا ابتدائی حرف	ع
برزج کا نام	حمل
ستارے کا نام	مرخ
موافق پھول	سورج مکھی
موافق رنگ	سرخ
موافق پتھر	جھریلان، لعل
اعداد	70

حمل اور مرخ کے باہم ملنے سے اثرات

فیاضی اور حکمرانی کا جذبہ نیز خود غرضی اور انانیت کا جذبہ ان لوگوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ انانیت اور خود غرض طبع کی وجہ سے کبھی کبھار ازدواجی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ مگر غیروں سے تعلقات بہتر رکھتے ہیں، اپنے اعزاء سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ترقی کے از حد خواہاں ہوتے ہیں، ان میں حکم چلانے کا جذبہ، اعلیٰ سرکاری حکام سے رابطہ کی سعی۔ بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ خود نمائی کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ بلاشبہ ان کا ذہن ہر وقت کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا ہی سوچتا رہتا ہے۔ عقل مندی ان کی سرشت میں شامل ہوتی ہے۔

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
عابس	مذکر	عربی	7	شیر
عابد	مذکر	اردو، عربی	5	اللہ کریم کی عبادت کرنے والا، باحیا۔
عابدہ	مونث	اردو، عربی	1	اللہ کریم کی عبادت کرنے والی، شرم والی
عابث	مذکر	عربی	6	لاابالی، بے پرواہ، کھیل کا شوقین
عابثہ	مونث	عربی	2	لاابالی، کھیل کی شوقین
عابر	مذکر	عربی	3	غور و فکر کرنے والا، پار اترنے والا
عابره	مونث	عربی	8	پار اترنے والی
عادیق	مذکر	عربی	4	گانڈھا، آزاد
عادیقہ	مونث	عربی	9	گانڈھا، آزاد
عاتک	مذکر	عربی	5	اصیل، شریف النفس
عاتکہ	مونث	عربی	1	ایک صحابیہ کا نام جن کے گھر سرور کونین نے بوقت ہجرت قیام فرمایا تھا یہ صحابیہ ام معبد کے نام سے مشہور تھیں اصیل، شریف
عاتم	مذکر	عربی	7	مہربانی کرنے والا، کامل
عاترہ	مونث	عربی	3	کالمہ، مہربانی کرنے والی
عاشم	مونث	عربی	8	دیر کرنے والا، ست
عائمہ	مونث	عربی	4	دیر کرنے والی
عاتن	صفت	عربی	8	طاقت اور مضبوطی
عاجل	مذکر	عربی	5	جلد باز، عجلت کرنے والا
عاجلہ	مونث	عربی	1	جلد باز، عجلت کرنے والی
عاد	مذکر	عربی، اردو	3	ایک قوم جس پر اللہ کریم کا عذاب نازل ہوا، حساب میں عدد اور حرف

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
عادر	مذکر	عربی	5	پھسلنے والا، 'خرف' عدد
عاشق	مذکر	اردو	3	عشق کرنے والا، پیار کرنے والا
عاس	مذکر	عربی	9	بہت سفر کرنے والا
عادل	مذکر	اردو، عربی	6	عدل کرنے والا
عادلہ	مونث	عربی، اردو	2	عدل کرنے والی
عاذر	مذکر	عربی	8	معذرت خواہ
عاذرہ	مونث	عربی	4	معذرت کرنے والی
عاذل	مذکر	عربی	9	ملامت کرنے والا، سرزنش کرنے والا
عاذلہ	مونث	عربی	5	سرزنش کرنے والی
عارض	مذکر	فارسی	9	رخسار
عارضہ	مذکر	اردو، فارسی	5	علالت، بیماری
عارف	مذکر	اردو، عربی	9	اولیائے کرام کا ایک درجہ، اللہ کریم کو جاننے والا
عارفہ	مونث	اردو، عربی	5	اللہ کریم کو جاننے والی
عارفین	مذکر	اردو، عربی	6	اللہ پاک کو جاننے والے اشخاص
عازم	مونث	عربی	1	تہیہ کرنا، ارادہ کرنا
عازم	صفت	عربی	5	شوخی و چٹیل
عارمہ	مونث	عربی	1	شوخی
عاسل	مذکر	عربی	8	نیکیو کار جس کی ثناء و صفت خوب معلوم ہو
عارکہ	مونث	عربی	8	مقابلہ
عاص	مذکر	عربی	8	نگاہ رکھنا، صحابی رسول کریم، حضرت عمرو بن العاص
عاسیہ	مونث	عربی	2	رات کو حفاظت کرنے والی

نام	مذکر / مونث	بزدبان	عدد	مطالب و معانی
عاصف	مذکر	عربی	7	ہدف پر نہ لگنے والا تیز ہوا
عاشر	مذکر	عربی	4	شیر و شکر ہو کر رہنے والا
عاشرہ	مونث	عربی	9	شیر و شکر ہو کر رہنے والی
عاصم	مذکر	عربی	3	صحابی رسول مقبول، حضرت عاصم بن ثابتؓ منع کرنے والا، روکنے والا
عاصمہ	مونث	عربی	8	برائی سے منع کرنے والی۔
عاطر	مذکر	عربی	1	سخی، خیر خواہ
عاطرہ	مونث	عربی	6	سخی خیر خواہ، خوشبودار
عاطس	مذکر	عربی	5	ہرن، صبح، سامنے آنے والا
عاطف	مذکر	عربی	7	مہربانی کرنے والا، اللہ پاک کے آگے جھکنے والا
عاطفہ	مونث	عربی	3	اللہ پاک کے حضور جھکنے والی، مہربان
عاصفہ	مونث	عربی	3	تیز ہوا جیسی
عاطہ	مونث	عربی	4	سامنے آنے والی
عافسر	مذکر	عربی	9	تیزی سے کام نپٹانے والا، چست
عافرہ	مونث	عربی	5	چست خاتون، تیزی سے کام کرنے والی
عافی	مذکر	عربی	8	معاف کرنے والا
عافہ	مونث	عربی	3	غلطی معاف کر دینے والی
عافین	صفت	عربی	4	غلیظیل کو درگزر کرنے والے
عانیہ	مونث	عربی	4	خیریت کی طالب، خیر خبر پوچھنے والی
عاقب	مذکر	عربی، اردو	2	جانشین
عائدہ	مذکر	عربی	4	عقد کرنے والا، نیک معاہدہ کرنے والا
عائدہ	مذکر	عربی	9	عقد کرنے والی، نیک معاہدہ کرنے والی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و مخانی
عاکف	مذکر	عربی	9	گھنگریا لے بالوں والا، خلوت پسند
عاکفہ	مونث	عربی	5	گھنگریا لے بالوں والی، خلوت پسند
عاقل	مذکر	عربی	3	ہمت عقل والا، سمجھ دار، داناائی والا
عاقلہ	مونث	عربی	8	ہمت عقل والی، سمجھ دار، داناائی والی
عاطم	مذکر	اردو، عربی	6	دنیا، علم والا
عالم آراء	مونث	اردو، فارسی	1	دنیا کو سنوارنے والی، خوبصورت
عالم گیر	مذکر	اردو، فارسی	2	مغل تاجدار اور رنگ زیب کا لقب، دنیا پر چھانے والا
عالی	مذکر	عربی، اردو	3	بلند تر، اونچا
عالیہ	مونث	عربی، اردو	8	بلند تر، اونچی
عامد	مذکر	عربی	7	طویل شب
عامر	مذکر	عربی، اردو	5	آباد کرنے والا، لبریز
عامرہ	مونث	عربی	1	لبریز، معمور
عال	مذکر	اردو	6	سفلی علم کرنے والا، ہاتھ سے کام کرنے والا، حکمران
عالمہ	مونث	عربی، اردو	2	عملیات کرنے والی، حکمران کی بیوی
عامیہ	مونث	عربی	9	تکبر کرنے والی
عانش	مذکر	عربی	7	جھگڑے کے بعد صلح کرنا
عانشہ	مونث	عربی	3	جھگڑے کے بعد صلح کرنا
عابد	مذکر	عربی	8	ایقائے عہد کرنے والا
عائدہ	مذکر	عربی	4	عود کر آنے والا، حکم لگانا، لگانا
عابدہ	مونث	عربی	4	عہد و پیمان کرنے والی
عائزہ	صفت	عربی	2	ہستات، زیادتی

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
عائزہ	مونث	عربی	7	ہمت، زیادتی
عائش	مذکر	عربی	3	عیش و آرام میں زندگی گزارنے والا
عائشہ	مذکر	عربی	8	ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہؓ کا نام، آپ صدیق اکبرؐ کی صاحبزادی تھیں۔ اچھی زندگی گزارنے والی
عاطفت	مونث	عربی، اردو	2	عنایت، شفقت
عاطر	مذکر	عربی	1	عطر کا شوقین
عاطرہ	مونث	عربی	6	عطر کی شوقین خاتون
عاکہ	مذکر	عربی	2	قیام کرنے والا
عائدہ	مذکر	عربی	4	کنویں کا جن گرہ لگنے والا
عالی الکعب	مذکر	عربی	9	شریف النفس شخص
عامد	مذکر	عربی	7	قصد کرنے والا، ارادہ کرنے والا
عاید	مذکر	عربی	4	وعدہ کرنے والا، عید منانے والا
عاطی	مذکر	عربی	9	حاصل کرنے والا
عاطب	مذکر	عربی	1	خشک مقامات میں اترنے والا
عائل	مذکر	عربی	3	درویش صفت، ترازو، خمیدہ
عالمہ	مونث	عربی	8	درویش صفت خمیدہ، منکسر المزاج
عائن	مذکر	عربی	8	مضبوط، طاقتور
عاجز	مذکر	اردو، عربی	9	عجز اختیار کرنے والا، کمزور، بے بس
عاذور	مذکر	عربی	5	فساد، داغ
عارب	مذکر	عربی	3	نہر جو پانی سے بھری ہو
عارد	مذکر	عربی	5	کنارہ کشی اختیار کرنے والا

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
عاس	مذکر	عربی	5	نگہبان
عاسم	مذکر	عربی	9	حریص نقصان دہ
عاشر	مذکر	عربی	4	حساب میں دسواں، دسواں حصہ
عاصر	مذکر	عربی	1	روکنے والا، نچوڑنے والا
عائل	مذکر	عربی	7	بڑا بادشاہ
عاہن	مذکر	عربی	9	درویش صفت
عائش	مذکر	عربی	5	شیر
عائزہ	مذکر	عربی	6	امان حاصل کرنے والا
عائزہ	مذکر	عربی	6	فقرو قاتہ والا
عاقہ	مذکر	عربی	2	ریت کا اونٹنٹلہ، ہانچھ خاتون بے اولاد
عبد العس	مونث	عربی	7	مرد نازک اندام لڑکی، گوری، سورج کی روشنی جیسی
عباس	مذکر	عربی	7	حضرت عباس بن عبدالمطلب، آنحضرتؐ کے چچا
عبداللہ	مذکر	عربی	1	آنحضرتؐ کے والد گرامی، اللہ کا بندہ
عباد	مذکر	عربی	5	بندہ، محتاج، غلام، پرہیزگار لوگ
عباد اللہ	مذکر	عربی	7	اللہ کی عبادت کرنے والا
عبادت	مونث	عربی، اردو	9	اطاعت، بندگی
عباسی	صفت	عربی	8	بنو عباس سے تعلق رکھنے والا
عبال	مذکر	عربی	4	جنگلی گلاب کا پھول
عبالہ	مونث	عربی	9	جنگلی گلاب
عبرود	مونث	عربی	3	گوری لڑکی، نازک اندام

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
عبید	مذکر	عربی، اردو	5	بندہ، غلام، عبد کی تصغیر
عبید اللہ	مذکر	عربی، اردو	7	اللہ کے غلام، تحریک آزادی کے نامور مجاہد عبید اللہ سندھی
عبیدہ	مذکر	عربی	1	حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ مطلب چھوٹا غلام
عبدالرحمان	مذکر	عربی، اردو	9	رحمان کا بندہ، حضرت سیدنا عبدالرحمان بن عوف، آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔
عبدالرحیم	مذکر	عربی، اردو	4	رحیم کا بندہ
عبیلہ	مونث	عربی	8	سفید، زری کا ٹکڑا
عبرہ	صفت	عربی	7	نقصیت
عبودیہ	صفت	عربی، اردو	7	وہ حدانیت
عبیرہ	مونث	عربی	3	زعفران، خوشبو
عبرت	صفت	اردو، عربی	6	نقصیت حاصل کرنا
عبیلہ	مونث	عربی	9	صحت مند، فربہ
عقبقر	مذکر	عربی	3	سر اب چکنا
عبنار	صفت	عربی	8	نور، چمکدار
عبیث	مذکر	عربی	6	ایک پھول
عبیل	مذکر	عربی	4	مونا، فربہ، صحت مند
عبدالقادر	مذکر	عربی	6	قادر مطلق کا بندہ و غلام، پیران پیر حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی، کا اسم گرامی

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
عبسار	صفت	عربی 'اردو'	9	درویش، فقیری
عبا	مذکر	عربی	1	صوفیائے کرام کا مخصوص ابادہ، چغہ
عبق	صفت	عربی	1	خوشبودار، وہ چیز جس سے خوشبو بھڑکے
عبام	مذکر	عربی	5	عجز و انکاری والا، فریہ و جیم شخص
عبرد	مونث	عربی	6	گوری لڑکی
عتاب	مذکر	عربی 'اردو'	5	فحش، غصہ، عذاب
عترت	مونث	عربی	8	عزت، عصمت، قریبی عزیز، اولاد
عتاق	صفت	عربی	4	رہائی، آزادی
عترہ	مونث	عربی	9	خالص مشک کا ٹکڑا
عتبہ	مذکر	عربی	9	آستانہ، چوکھٹ
عقمہ	مونث	عربی	2	پہلا تہائی رات کا حصہ
عتریں	مذکر	عربی	2	غصیل، سرکش
عتیدہ	مذکر	عربی	7	آبادگی، حاضر
عتیدہ	مونث	عربی	3	آبادگی، تیاری
عتیق	مذکر	عربی 'اردو'	4	برگزیدہ شخص، پسندیدہ
عتیقہ	مونث	عربی 'اردو'	9	برگزیدہ خاتون، پسندیدہ
عتیل	مذکر	عربی	6	خادم، مزدور، پیاسا
عتیلہ	مونث	عربی	2	خادمہ، پیاسی
عثمان	مذکر	عربی 'اردو'	4	سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، تیسرے خلیفہ راشد
عجیف	مذکر	عربی	1	نخیف و ناتواں
عجیل	مذکر	عربی	5	عجلت کرنے والا، تیز چلنے والا
عجلہ	مونث	عربی	9	جلدی کرنے والی

نام	مذکر / مؤنث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
عجیلہ	مؤنث	عربی	1	تیز چلنے والی
عجوم	مذکر	عربی	7	مضبوط شخص
عجلان	مذکر	عربی	1	جلدی کرنے والا
عدن	مذکر	عربی، اردو	7	بہشت میں ایک باغ کا نام
عدین	صفت	عربی	8	بہشت کے باغ میں رہنے والا
عدین	مذکر	عبرانی	8	عیش و عشرت کا دلدادہ، جذباتی
عدنان	مذکر	عربی، اردو	4	جنت میں رہنے والا
عدسہ	مؤنث	عربی، اردو	4	خدمت گزار
عدوہ	مذکر	عربی	4	دریا کا کنارہ
ممدفہ	مؤنث	عربی	6	جماعت، گروہ
عدید	مذکر	عربی	7	شار، مثل، ہمسر
عدیم	مذکر	عربی، اردو	7	ناپید، معدوم، اردو کے نامور شاعر عدیم ہاشمی
عدیمہ	مؤنث	عربی، اردو	3	نایاب، معدوم
عدیل	مذکر	عربی، اردو	6	یکساں سلوک، مرتبہ میں برابر
عدیلہ	مؤنث	عربی، اردو	2	یکساں انصاف کرنے والی
عدلہ	مؤنث	عربی	1	با اعتبار گواہ
عدوس	مؤنث	عربی	5	بہادر اور بے خوف خاتون
عدولہ	صفت	عربی	7	جس کے ساتھ انصاف کیا گیا ہو
عدی	مذکر	عربی	3	حضرت عدی بن حاتم طائی
عدم	مذکر	عربی، اردو	6	اردو کے معروف شاعر کا تخلص، ابراہیم
				عدم، دو سرا جہاں
عربی	مذکر	عربی	5	خوش اخلاق و بے عیب شخص

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
عدرج	مذکر	عربی	7	تیز رو، کم وزن
عذبس	مذکر	عربی	1	مضبوط جسم والا
عذریہ	مذکر	عربی	1	ہلکے، چھ
عذرا	صفت	عربی	8	رخسار
عذراف	مذکر	عربی	6	شیر
عذبه	صفت	عربی	3	نشان، علم، پرچم
عذیر	مذکر	عربی	8	عذر کرنے والا
عذرا	مونث	عربی، اردو	8	دوشیزگی
عذال	مذکر	عربی	9	نصیحت کرنے والا
عذیرہ	مونث	عربی	4	عذر کرنے والی
عزابی	صفت	عربی	4	عرب کا رہنے والا
عراق	مذکر	عربی	2	عرب کا مشہور ملک، دریا کا کنارہ
عرازہ	مونث	فارسی	4	سوغات، تحفہ
عراہیم	مونث	عربی	2	شیر، اونٹنی جو موٹی ہو۔
عرزال	مذکر	عربی	2	شیر کی کھپار
عربانہ	مونث	عربی	4	د، دائرہ
عرزم	مونث	عربی، فارسی	2	عربی میں شیر جبکہ فارسی میں لمبے بال
عربہ	مونث	عربی	7	تیز بہاؤ والی نر
عرنی	صفت	عربی	8	وجہ شہرت، مشہور
عرش	مذکر	اردو، عربی	3	آسمان، جہاز کی چھتری
عروس	صفت	اردو، عربی	3	دلن
عرشی	مونث	عربی	4	عرش کی رہنے والی
عروض	مذکر	عربی	5	گوشہ، کنارہ

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
عریشہ	مونث	عربی	9	عرش پر رہنے والی
عروف	ذکر	عربی	5	صابر و شاکر
عرین	ذکر	فارسی	6	درختوں سے بھرا جنگل
عریش	ذکر	عربی 'اردو	4	ساتبان 'باغ میں بنا گھر
عریہ	صفت	عربی	5	عادت 'نظرت
عریس	ذکر	عربی	7	دولہا
عریز	ذکر	عربی	3	نادائق
عروہ	مونث	عربی	7	بڑی صابر خاتون
عرفان	ذکر	عربی 'اردو	5	پہچان رکھنے والا 'صاحب علم
عرفانہ	مونث	عربی 'اردو	1	تمیز 'علم والی
عریف	ذکر	عربی	9	قوم کا سردار
عریفہ	مونث	عربی	5	قوم کے سردار کی بیوی
عرین	ذکر	فارسی	6	فاختہ کی آواز
حرینہ	مونث	فارسی	2	فاختہ کی آواز
عروہ	مونث	عربی	4	خاوند سے پیار کرنے والی خاتون
عرب	ذکر	عربی 'اردو	2	بلاد عرب
عرباض	ذکر	عربی	2	مضبوط اور طاقتور شخص
عربان	ذکر	عربی 'اردو	8	عرب کی جمع
عرقیل	ذکر	عربی	5	انڈے کی زردی
عرقال	کر	عربی		سیدھی راہ پر نہ آنے والا
عرض	مونث	عربی 'اردو	8	کنارہ 'پکڑے کی چوڑائی 'عاجز انہ بیان
عرصم	ذکر	عربی	4	شیر
عرس	مونث	عربی 'اردو	6	دلہن 'اولیائے کرام کا سالانہ جشن

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
عروج	مونث	عربی، اردو	9	ترقی حاصل کرنا، بلندی
عزیم	مذکر	عربی	5	مصائب و آلام
عریف	مذکر	عربی	9	عرض کرنے والا، درخواست گزار
عزت	صفت	اردو، عربی	9	توقیر، وقار، قدر
عزیف	مونث	عربی	5	ہوا کی سائیں سائیں
عزا	مونث	اردو، عربی	6	حق، ہمت
عزہ	مونث	اردو، عربی	1	مرغوب، کم یاب
عزیز	مذکر	اردو، عربی	4	پیارا، ایک پیغمبر، مصر کے حکمرانوں کا لقب
عزیرہ	مونث	اردو، عربی	9	بیاری، محبوبہ، رشتہ دار خاتون
عزنی	مذکر	اردو، عربی	1	ہمت والا، عزم والا
عزیمت	مونث	اردو، عربی	5	لگن، ارادہ، طلسم
عزالت	صفت	اردو، عربی	3	خلوت گزین، ہونا تنہائی
عسار	مونث	عربی	7	شان و جیسہ، شہد کی بکھی
عسابر	مذکر	عربی	9	چیتا
عسکر	مذکر	اردو، عربی	8	فوج، لشکر
عسکری	مذکر	اردو، عربی	9	لاؤ لشکر والا
عسقلان	مذکر	اردو، عربی	5	ملک شام کا ایک شہر
عسجد	مذکر	اردو، عربی	2	جواہرات، سونا
عشارب	مذکر	عربی	6	شیر دل شخص
عشرت	صفت	اردو، عربی	7	عیش و آرام، خوشحالی
عشیر	مذکر	فارسی	4	خاندان والا
عشرین	مذکر	عربی	9	بیس، بیسواں

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
عشرہ مبشرہ	مونث	عربی	6	ان دس خوش نصیب صحابہ کو کہا جاتا ہے۔ جن کو ان کی زندگیوں ہی میں رسالت ماب نے جنت کی بشارت عطا فرمادی تھی۔ ان کے اسمائے گرامی اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو جائیں گے
عشبد	صفت	عربی	8	ایک موتی
عشبق	صفت	فارسی	3	ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہنا
عشنا	مونث	عربی	7	خوبصورت لڑکی
عشوہ	مونث	فارسی	3	نخرے دکھانا، ناز دکھانے والی
عشیقہ	مونث	فارسی	8	بہت عزیز رکھنے والی
عشارم	مذکر	عربی	8	رات کا کھانا کھانے والا
عشارم	مذکر	عربی	8	شہر
عشیب	مذکر	عربی	4	گھاس سے بھری جگہ، پستہ قد شخص
عصام	مذکر	عربی	3	نگہداشت کرنے والا
عصابہ	صفت	عربی	6	خواتین کے سر ڈھانچنے والا کپڑا یا رومال
عصار	مونث	عربی	6	نچوڑ، رس، حاصل
عصفور	مذکر	عربی	5	ایک پرندہ
عصم	مذکر	عربی	2	ناموس عزت
عصیم	مذکر	عربی	3	عزت و ناموس والا
عصفور	مونث	عربی	8	کسم کا پھول
عصرہ	مونث	عربی	5	خوشبو کی بھڑک
عصیب	صفت	عربی	1	حمایت، طرفداری

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
عصمت	صفت	عربی، اردو	6	پاک دامنی، پارسائی، پاکیزگی
عصود	مونث	عربی	8	نازک اندام خاتون
عضاد	مذکر	عربی	2	بازو بند تعویذ، نگین
عضادی	مذکر	عربی	3	موٹے بازو والی طاقتور
عضال	مونث	عربی	1	دشوار، عاجز کر دینے والی
عضروط	مذکر	عربی	5	کسی کے پیچھے دوڑنے والا، خادم
عضیض	مذکر	عربی	6	مد مقابل، ہم عمر
عطا	مذکر	اردو، عربی	8	عنایت، انعام، بخشش
عطارد	مذکر	اردو، عربی	5	سیارے کا نام
عطافت	مذکر	عربی	2	عنایت، مہربانی
عطاف	مونث	عربی	5	چادر
عطاکن	مذکر	ترکی	6	بڑا آدمی، عالی رتبہ
عطار	صفت	عربی	1	حضرت فرید الدین عطار ایک ولی کامل عطر فروش
عطاط	مذکر	عربی	8	دلاور جسم، طاقتور
عطیل	مونث	عربی	3	وراز قد بھرے بھرے جسم والی خوبصورت لڑکی جس کی گردن موٹی ہو
عطموس	مونث	عربی	5	وراز قد خوبصورت لڑکی
عطیہ	مونث	اردو، عربی	4	تحفہ، نذرانہ
عظام	صفت	اردو، عربی	3	عالی مرتبہ، بزرگ لوگ
عطیفہ	صفت	عربی	2	دوستی، انیت
عطیفہ	مونث	عربی	3	شفیق و مہربان خاتون
عظیم	مذکر	اردو، عربی	3	زی و قار عالی مرتبہ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
عظمت	صفت	اردو عربی	6	بزرگی بڑائی
عظمیٰ	مونث	اردو عربی	3	بزرگی، سمجھ دار خاتون
عظمتہ	صفت	عربی	7	توقیر، قدر و منزلت، عزت
عظیمہ	مونث	اردو عربی	8	بزرگ خاتون عظیم خاتون
عظمتوت	مونث	عربی	3	تکبر والی خود نمائی، بزرگی
عظم	مونث	عربی	2	جمعیت، بزرگی، بڑائی
عفاف	صفت	عربی	6	پارسائی، پاکیزگی
عفان	مذکر	عربی	3	سیدنا عثمان غنیؓ کے والد گرامی، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا
عفانہ	مونث	عربی	8	معاف کرنے والی
عفتان	مذکر	عربی	8	شوخی، بے باکی
عقیف	مذکر	عربی، اردو	6	پاک باز، پارسائی
عقیفہ	مونث	عربی، اردو	2	پاک خاتون
عفرنا	مذکر	عربی	5	ایال والا شیر
عفی	صفت	عربی، اردو	7	پاک فطرت
عضہ	مونث	عربی	2	پاکبازی، نیکی
عفرین	مونث	عربی	5	عجلت پسند، جلد بازی، چالاک
عفاش	مذکر	عربی	1	گتھی ڈاڑھی والا
عقاب	مذکر	عربی، اردو	2	بست بڑا پرندہ شاہین
عقل	مذکر	عربی	8	عقل و فہم والے
عقلہ	مونث	عربی، اردو	7	معدہ گتھی
عتیب	مذکر	عربی	2	نقش قدم پر چلنے والا، پیرو کار
عتیل	مذکر	عربی، اردو	3	عقل والا، سمجھ دار

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
عقلیہ	مونث	عربی، اردو	8	عقل والی، سمجھ دار
عقد	مذکر	عربی، اردو	3	نکاح، موتیوں کی لڑی
عقبی	مونث	عربی، اردو	2	دو سرا جہاں، آخرت، اگلا
عقمان	مذکر	عربی	6	سچا سوچا
عقیدہ	مذکر	عربی	4	عہد و پیمان کرنے والا
عکرمہ	مذکر	عربی	2	صحابی رسول کریمؐ جو بدترین دشمن اسلام ابو جہل کے فرزند تھے۔ آپ نے جنگ یرموک میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا، مطلب جھوٹا کبوتر
عکاس	مذکر	عربی، اردو	7	تصویر اتارنے والا
عکوف	مذکر		5	موتیوں کو لڑی میں پرونا
علاء	صفت	عربی، اردو	2	عالی رتبہ بزرگی
علاء الدین	مذکر	عربی، اردو	3	مشہور و معروف سلطان علاؤ الدین
علام	مذکر	عربی	6	خلجی، دین کا نام بلند کرنے والا بڑا عالم دین، نشان راہ، واقف
علق	مذکر	عربی	2	پیش قیمت شراب
علای	مذکر	عربی	7	عقل و فہم والا، خوش مزاج، پھر تھلا
علقہ	مونث	عربی	5	نذر تحفہ
علم	صفت	عربی، اردو	5	واقفیت، پرچم، نشان
علم دار	مذکر	عربی، اردو	3	میدان کر بلا میں عباس علم دار، پرچم اٹھانے والا
علامص	صفت	عربی	4	عجیب، نادر

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
علوان	صفت	عربی	4	عالی رتبہ، بلندی
علوفہ	مونث	عربی	2	خوراک، وظیفہ
علی	صفت	عربی	2	اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام، بلند ترین چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ
علیان	صفت	عربی	8	بلند درجہ لوگ، طویل قامت
علیا	مذکر	عربی	3	عمدہ چیز، بلند درجہ
علیشاہ	مونث	عربی	2	مضبوطی سے باندھنا
علیم	مذکر	عربی اردو	6	علم و حکمت والا، اللہ پاک کا صفاتی نام
علیمہ	مونث	عربی اردو	2	علم و حکمت والی
علامہ	مذکر	اردو، فارسی	2	عالم فاضل شخص، علامہ اقبال
علیق	مذکر	عربی	3	ایسا سفید کپڑا جس پر لکھا جاتا ہے۔
علیا	مونث	عربی	3	عزت مآب خاتون
علوی	مذکر	عربی اردو	8	حضرت علی المرتضیٰ سے منسوب
علاف	مذکر	عربی	4	چارہ فروش
علیون	مذکر	عربی	4	ساتویں آسمان پر مومن روجوں کا مسکن
علوج	مذکر	عربی	1	پیغامبر
علف	مذکر	عربی	9	بسیار خور
علہب	مذکر	عربی	8	بڑے سیگوں والا بکرا، طویل قد کا شخص
عمار	مذکر	عربی اردو	7	اعتبار ستون
عمار	مذکر	عربی اردو	5	صحابی رسول کریم، عمار، صاحب علم
عمارہ	مونث	عربی	1	سید الشہداء سیدنا امیر حمزہؓ کی بیٹی کا نام
عمادہ	مونث	عربی	3	عبادت گزار، علم والی

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
عمارہ	صفت	عربی	1	تاج، دستار
عمان	مذکر	عربی	8	ایک عرب ریاست، مگر اسسندر، حفاظت
عمامہ	مونث	عربی، اردو	3	دستار
عمد	مذکر	عربی	6	بھرپور، ارادہ
عمدان	مذکر	عربی	3	افواج کا بیخامبر
عمران	مذکر	عربی، اردو	1	زندگی والا، پاکستان کرکٹ ٹیم کے شہرت یافتہ کپتان عمران خان
عمرانہ	مذکر	عربی	6	زندگی کی علامت
عمر	مذکر	عربی، اردو	4	سیدنا حضرت عمر فاروق اعظمؓ کا نام۔ آپ دو سرے خلیفہ راشد تھے۔
عمری	مونث	عربی	5	زندگی
عمرس	مذکر	عربی	1	مضبوط اور طاقتور شخص
عمرط	مذکر	عربی	4	بہادر جوان
عمود	مذکر	عربی	3	ستون، سہارا، سردار قوم
عمعیدہ	مونث	عربی	3	معزز خاتون
عمورہ	مونث	عربی	6	اپنے گھر سے جدا نہ ہونے والی
عمش	صفت	عربی	5	براہر، بھلائی، بہتری
عمید	مذکر	عربی	7	راہنما، قوم کا سردار
عمیر	مذکر	عربی، اردو	5	لبریز، معمور
عمیرہ	مونث	عربی، اردو	1	لبریز، معمور
عمیہ	مونث	عربی	8	تکبر کرنے والی، مغرور
عمیل	مذکر	عربی	6	محنت کرنے والا
عمیم	مذکر	عربی	7	سب میں گھل مل جانے والا، کامل

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
عمیمہ	مونث	عربی	3	سب میں گھل مل جانے والی، اثر انگیز
عمیدر	مذکر	عربی	9	نازک اندام
عنادل	مذکر	عربی	6	ایک بست پیارا جانور بلبل
عندلہ	مونث	عربی	6	بلبل جیسی
عتاس	صفت	عربی	1	طاقت ور، عتاب، آئینہ
عزیر	صفت	عربی، اردو	7	خوشبو کا نام
عزیرین	مونث	عربی، اردو	4	عزیر جیسی خوشبو والی
عزیرینہ	مذکر	عربی، اردو	9	ایک زیور کا نام، عزیر کی طرح
عثان	مذکر	عربی، اردو	9	باگ، ڈور، بادل، آسمان کی بلندی
عنشہ	مونث	عربی	4	ایسی گھاس جس میں سے خوشبو آئے
عتایت	صفت	عربی، اردو	9	احسان، کرم، مہربانی عطا
عندل	صفت	عربی	1	بلبل کا چھمٹا
عندلہ	مونث	عربی	6	بلبل جیسی آواز والی
عصر	صفت	عربی، اردو	5	لازمی جز، ہمت، نیا د
عندیب	صفت	عربی، اردو	6	بلبل
عنیدہ	مذکر	عربی	8	جنگجو
عنزہ	صفت	عربی	7	نیزہ مارنا
عیسفہ	مونث	عربی	9	تیز مزاج، سرکش
عیسف	مذکر	عربی	4	تیز مزاج، سرکش
عنقہ	مونث	عربی	7	تیز مزاج والی
عتقا	مونث	عربی، اردو	5	صراحی دار گردن والی
عنیق	مذکر	عربی، اردو	5	پیارے گردن میں باہیں ڈالنے والا
عنیقہ	مونث	عربی	1	گردن میں باہیں ڈالنے والی

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
عود	مذکر	عربی، اردو	8	پلٹ آنے والی، بہترین خوشبو
عودہ	مونث	عربی	4	پلٹ آنے والی، ایک خوشبو
عواطف	مذکر	عربی	4	نوازشات کرنے والا
عوزر	مذکر	ترکی	4	اصل، خالص
عواد	مذکر	عربی	9	مہربانی کرم
عویسہ	مونث	عربی	7	دوست ہمد، مددگار
عوذی	مذکر	عربی	5	مخصوص، مرغوب خاطر
عویس	مذکر	عربی	5	قوت والا بخ
عویس	مذکر	عربی	2	مددگار، ہنسنے وقت جس کے رخساروں میں گڑھے پڑیں۔
عوض	مذکر	عربی، اردو	3	خاطر، سخت، دشواری، بدلے میں
عومر	مذکر	عربی	2	سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے نانا کا نام
عون	مذکر	عربی	9	فیاض مدد کرنے والا
عوید	مذکر	عربی	9	نوازش کرنے والا
عوین	مذکر	عربی	1	مددگار
عودان	مذکر	عربی	5	آنحضرتؐ کا ممبر اور عصاء مبارکہ
عواذب	مذکر	عربی	5	شادی شدہ خواتین
عمید	مذکر	عربی	8	ہم عصر
عید	مونث	عربی، اردو	3	خوشی، اہل اسلام کا بڑا تہوار
عیمص	مذکر	عربی	8	سایہ دار، حضرت اسحق کے صاحبزادے کا نام
عیاش	صفت	اردو، عربی	3	عیش کرنے والا
عیوث	مذکر	عربی	1	بہت زیادہ فساد کرنے والا

نام	مذکر / مؤنث	بہان	عدد	مطالب و معانی
عیار	مذکر	اردو عربی	2	چالاک، توننا، چاندی سونے کی چاشنی لینا
عیان	صفت	اردو عربی	5	نمایاں ظاہر
عیظا	مؤنث	عربی	9	صراحی دار گردن والی
عیقہ	مؤنث	عربی	5	ندی کانارہ
عینین	مؤنث	اردو عربی	1	آنکھیں
عیلہ	صفت	عربی	7	درویشی، فقیری
عینی	صفت	اردو عربی	5	دکھائی دینے والی
عیصہ	مؤنث	عربی	8	خوشحالی، عمدہ حال
عین	مؤنث	اردو عربی	4	آنکھ
عینا	مؤنث	اردو عربی	5	بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی
عین النور	مذکر	اردو عربی	3	ایک ستارے کا نام
عیسیٰ	مذکر	عربی	6	اللہ کے ایک پیغمبر کا نام ان کے پیروکار عیسائی کہلاتے ہیں۔ گناہوں سے بچانے والا
عیذار	مذکر	عربی	9	پھر تیار کا، سخت چیز
عیاش	مذکر	عربی	5	شیر
عیاد	مذکر	عربی	4	چھوٹا سرور
عیدان	مذکر	عربی	9	بہ اخلاق شخص
عیوق	مذکر	عربی	6	چھوٹے ستارے کا نام
عیمان	مذکر	عربی	9	دودھ کا آرزو مند پیاسا
عیصوم	مذکر	عربی	9	بسیار خور

غ

غ	نام کا ابتدائی حرف
سنبہ	برج کا نام
عطارد	ستارے کا نام
ازالیا، کنول	موافق پھول
زرد	موافق رنگ
زمرود الماس	موافق پتھر
1000	اعداد

سنبہ اور عطارد کے باہم ملاپ کے اثرات

ان لوگوں کی طبع میں فنون لطیفہ کا شوق بہت ہی نمایاں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حکام سے میل ملاپ بڑھانا اچھی طرح جانتے ہیں اور زندگی کو بہت اچھے انداز میں بسر کرتے ہیں۔ مادی ترقی کے لئے ان کو ہر وقت محنت ہی کرتے دیکھا گیا ہے اور عام طور پر یہ لوگ کامیاب ہی رہتے ہیں۔ انہیں روحانیت سے بھی اچھا خاصا لگاؤ ہوتا ہے۔ خوبصورتی اور حسن ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت دانش مند اور سعادت مند ہوتے ہیں۔ لوگوں کے کام اگر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ اپنے ذمے کام کو پوری دیانتداری سے سرانجام دیتے ہیں۔ ان کے دوست احباب ان پر بہت اعتماد کرتے ہیں اور ان کو جان سے عزیز جانتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
غاب	مذکر	عربی	4	جنگلی پن
غابر	مذکر	عربی	6	بچا ہوا بگڑشتہ
غابط	مذکر	عربی	4	ریشک کرنے والا
غادی	مذکر	عربی	7	صبح کے وقت چلنے والا شیر، چلنے والا
غادیہ	مونث	عربی	3	صبح کا بادل
غادہ	مونث	عربی	2	نازک خاتون، صبح کی بارش
غارب	مذکر	عربی	2	جسم کا بالائی حصہ، کندھا
غازیہ	مونث	عربی	6	کامیاب و کامران خاتون
غازی	مذکر	عربی	1	اللہ کریم کی راہ میں لڑنے والا زندہ مجاہد
				فاتح، کامیاب
عارس	مذکر	عربی	1	باغبان، درخت لگانے والا
عازل	مذکر	عربی	3	غزل گو
عاسق	مذکر	عربی	9	ماہ تاب، چاند رات
عاسقہ	مونث	عربی	5	چاند رات جیسی
عاشیہ	مونث	عربی	2	دل کا پردہ، راہنمائی امامت
عاضف	صفت	عربی	9	نرم دلی، رحم کا جذبہ
عاضفہ	مذکر	عربی	5	نرم دل خاتون
عاصف	مذکر	عربی	1	خوش و خرم زندگی گزارنے والا
عاطیہ	مونث	عربی	8	انگور کی بیل، نازک
عافر	مذکر	عربی	3	گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا
عافره	مونث	عربی	8	گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والی
غالی	مذکر	عربی	6	جموٹ بولنے والا، غلو کرنے والا
				بڑھا ہوا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
غالیہ	مونث	عربی	2	جھوٹ بولنے والی، ایک خوشبو کا نام، حد سے زیادہ
غالب	مذکر	عربی، اردو	7	چھا جانے والا، اردو کے نامور شاعر اسد اللہ غالب
غانیہ	مونث	عربی	4	گلوکارہ، دولت مند
غاور	مذکر	عربی	1	غور کرنے والا، زیر دست
غانز	مذکر	عربی، اردو	5	وسیع، گہرائی
غانزہ	مونث	عربی	1	دوپہر کا سونا
غدریہ	مذکر	عربی	8	جھیل، تالاب
غدریہ	مونث	عربی	4	زلف، گیسو
غذوہ	صفت	عربی	7	سورج نکلنے سے پہلے کی روشنی، سپیدہ، سحر
غامیز	مذکر	عربی	5	نیزے کو سیدھا کرنے کا خواہش مند
غازہ	مذکر	عربی، اردو	5	خواتین سنگھار کے لئے چہرے پر لگاتی ہیں
غامض	صفت	عربی	5	عقل میں نہ آنے والی چیز
غازی میاں	مذکر	اردو	3	محمود غزنوی کے سالار مسعود غازی کا خطاب
غادف	مذکر	عربی	5	کشتی چلانے والا
غازی لالہ	مذکر	عربی	1	مدبر، اصلاح کرنے والا
غدر	صفت	عربی	4	بے وفا
غذوان	صفت	عربی	7	درشت مزاج
غراضیہ	صفت	عربی	4	آزگی
غرضیہ	صفت	عربی	4	محبت پیار، عشق
غزبیلہ	مونث	عربی	1	نخرے والی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
غزلت	مذکر	عربی	5	فطرت، عادت
غزفہ	مونث	عربی	7	کھڑکی
غریف	مذکر	عربی	3	گھنے درخت
غزال	مذکر	فارسی	3	ہرنی
غزال رعنا	مونث	فارسی	9	ہرنی جیسی محبوبہ
غره	صفت	عربی	8	چاندکی چاندی
غریہ	مذکر	عربی	6	خوش اخلاق، حسن سلوک
غریہ	صفت	عربی	2	عادت، فطرت
غریب الدیا	مذکر	اردو، عربی	9	بے وطن، پردہسی
غریب نواز	صفت	اردو، عربی	7	خواجہ معین الدین چشتی کا خطاب، غریب کو نوازنے والا
غریبان	صفت	عربی	2	بھوکا
غزالہ	مونث	عربی	8	محبوبہ، ہرنی، ہرنی کی آنکھوں جیسی خوبصورت
غزالہ	مونث	فارسی	8	سوت کا تے والی
غزل	صفت	فارسی	2	عشق، اشعار
غزار	مذکر	عربی	2	رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا
غزرا	مونث	عربی	2	زرخیز زمین
غزنوق	مذکر	عربی	2	سفید رنگ والا
غزلہ	مونث	فارسی	7	نوجوان ہرنی کی مانند
غزال چشم	صفت	اردو، فارسی	4	ہرنی جیسی آنکھوں والا، محبوب کی صفت
غزال کعبہ	مذکر	اردو، عربی	1	بعثت نبویؐ سے قبل کعبہ میں ایک سونے کا ہرن لٹکایا جاتا تھا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
غزرات	مذکر	عربی	6	کثرت، افزوں
عشارب	مذکر	عربی	9	طاقتور، ہنرمند شخص
عشمیر	مذکر	عربی	2	اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے والا
عشمیرہ	مونث	عربی	7	سختاوت کرنے والی
عصنہ	مونث	عربی	2	کوئیل
غفر	مذکر	اردو، عربی	6	مضبوط جسم کا مالک، دلیر بہادر
غضیض	صفت	عربی	9	تازہ پھول
غضارہ	صفت	عربی	8	نعت، خوشحالی
غضیر	مذکر	عربی	3	سرسبز و شاداب، نرم و نازک
غضنہ	صفت	عربی	1	روکنا، باز رکھنا
غضبان	مذکر	عربی، اردو	8	متعین سے پیچھا کاجانے والا پتھر، غصے والا
غفار	صفت	عربی، اردو	3	اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام، بخش دینے والا
غفور	صفت	عربی، اردو	8	اللہ کریم کا صفاتی نام، گناہ معاف کرنے والا
غفران	مذکر	عربی	8	اللہ کریم کی صفت گناہوں کو معاف کرنے والا، معاف کرنے والا، بخش دینے والا
غفر	صفت	عربی	3	ہجوم محیط
عطریف	مذکر	عربی	3	جواں مرد، قوم کا سردار
عظیم	مذکر	عربی	6	بہت پانی والا، سمندر
غلیم	مونث	عربی	9	سن بلوغت کو پہنچی ہوئی خوبصورت لڑکی
غلام	مذکر	عربی، اردو	9	خریدا ہوا، فروخت شدہ، بندہ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
غلمان	مذکر	عربی، اردو	5	وہ لڑکے جو جنت میں خدمت کریں گے
غلفان	مونث	عربی	9	طویل قامت خاتون، تیز رفتار خاتون
غلبہ	مونث	عربی	2	درختوں کے جھنڈ والی جگہ
غلفہ	صفت	عربی	8	عیش و نشاط
غلیان	صفت	عربی	2	جوش، ہمت
غلیتہ	مونث	عربی	5	ایک مفید گھاس
غلگیر	مذکر	عربی، اردو	9	تیل بونے بنانے والا
غلغور	مذکر	عربی	6	گل کار، معمار
غماسہ	مذکر	عربی	6	ابر، بادل
غمر	مذکر	عربی	7	فراخ دل، جواں مرد
غمہ	مونث	عربی	3	زعفران
غمزہ	مونث	عربی	7	نازو، نخرے، ادائیں
غمیمس	مونث	عربی	3	نایاب چیز، تاریک رات
غمیمز	مونث	عربی	4	ہمت و افریبانی، سبز گھاس
غوم	مذکر	عربی	6	پوشیدہ چھوٹے ستارے
غنا	صفت	عربی، اردو	7	فیاضی، بے نیازی عطا کرنا
غنوم	مذکر	عربی	7	چھوٹے ستارے
غنچہ	مونث	عربی، اردو	9	بن کھلا پھول، پھول کی کلی
غنی	مذکر	عربی، اردو	2	سیدنا عثمانؓ، بن عفان کا لقب مبارک
				دولت مند، فیاض، سخی، بے نیاز
غنجر	صفت	عربی	4	غازہ، ناز و ادا، اٹمن
غنات	مذکر	عربی	2	نشست و برخاست میں آداب، ملحوظ رکھنے والا، باادب

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
غنیان	مونث	عربی	4	دسترس، کفایت، بے نیازی
غنیم	صفت	عربی	2	خزانہ، دولت کا انبار
غوث	مذکر	عربی، اردو	3	حضرت محی الدین جیلانی غوث الاعظم، اولیائے کرام کا ایک درجہ، مدد کو پہنچنے والا
غوشیہ	مونث	عربی، اردو	8	غوث کی تائیت، غوث کے ساتھ تعلق والی
غواث	صفت	عربی	4	مدد کرنے والا، فریاد سننے والا
غواص	مذکر	عربی	8	غوطہ خور، غوطہ لگا کر موتی نکالنے والا
غورا	مونث	عربی	1	ترش انگور، بوجھل کی بیٹی کا نام
غوزل	مونث	عربی	1	بند کلی، چاندی کی گنبد
غوری	مذکر	عربی	1	غور کار بننے والا، خبر گیری کرنے والا، عظیم
غوشاد	صفت	عربی	6	فاتح ہند سلطان محمد شہاب الدین غوری
غوث الاعظم	مذکر	اردو، عربی	1	قالے کے پڑاؤ کی جگہ، اونچا درخت
غیاث	صفت	عربی	5	حضرت محی الدین جیلانی کا لقب، بڑا فریاد رس
غیبہ	مونث	عربی	9	اوجھل، پوشیدہ
غیاث	مذکر	عربی	6	تیردان، ترکش
غیور	صفت	اردو، عربی	1	شیر
غیاث	مذکر	اردو، عربی	8	اللہ پاک کا صفاتی نام، غیرت والا
غیران	مذکر	عربی	1	تخلق خاندان کا ایک حکمران غیاث
غہٹ	مذکر	عربی	7	الدین تخلق، فریاد رس
				غیرت والا
				بارش

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
غیدان	مذکر	عربی	3	شریف النفس نوجوان
غیداق	مذکر	عربی	8	سر سبز، ہر ابھرا، شرافت کا پیکر
عیشمان	صفت	عربی	6	صنف، جوانی، نو عمری
غیاض	مذکر	عربی	2	جنگل
غیر	مونث	عربی	6	نراکت
غیران	مذکر	عربی	1	غیرت اور انا کا مالک

ف

نام کا ابتدائی حرف	ف
برج کا نام	قوس
ستارے کا نام	مشتری
موافق پھول	چنبیلی۔ سرخ گلاب
موافق رنگ	ارغوانی
موافق پتھر	ارغوانی۔ یاقوت۔ نیلم
اعداد	80

مشتری اور قوس کے باہم ملاپ کے اثرات

صلح و انصاف ان کی سرشت میں شامل ہوتا ہے محبت اور ملنساری کو بہت اولیت دیتے ہیں۔ اور اسی اصول پر عمل پیرا رہتے ہیں کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ اپنے اعضاء سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمیشہ بلند خیال رہتے ہیں۔ ازدواجی عیش کو پسند کرتے ہیں۔ اپنے شریک حیات کو خوش کرنے کے لئے بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اسی میں ان کو روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ مخالفین کو زیر کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ بیرونی سیاحت ان کا پسندیدہ مشغلہ سمجھا جاسکتا ہے۔ مایوسی کو جلد ہی یہ لوگ تدبیر سے کامیابی میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ عام طور پر کامیاب و کامران ہی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حکام تک آسانی سے ان کی راہ و رسم پیدا ہو جاتی ہیں۔

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
فاروق	مذکر	عربی اردو	9	دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب کا لقب۔ مطلب حق و باطل میں فرق کرنا والا۔ یہ لقب سید دو عالمؐ نے آپ کو عطا فرمایا۔
فاروق اعظم	صفت	اردو عربی	3	حضرت سیدنا عمر فاروقؓ کا لقب۔ حق و باطل میں سب سے بڑا فرق۔
فاتح	صفت	اردو عربی	3	کامیاب ہونا۔ فتح پانا۔
فاتک	مذکر	عربی	6	کام کرنا والا۔ ہمت و دلیری والا
فاتکہ	مونث	عربی	2	بہادر خاتون۔ جست۔
فاخر	مذکر	عربی	8	فخر کرنا والا
فاخرہ	مونث	عربی	4	فخر کرنے والی۔ ناز کرنا والی۔
فاتن	مونث	عربی	9	گردیدہ کرنا والی۔ جیتنے والی
قادر	مونث	عربی	2	وسیع راستہ۔
قادیہ	مونث	عربی	1	فدیہ دینا۔ فدا ہونا۔
قارانی	مونث	عربی	9	چمک۔ اجالا۔ نور۔
قارز	مذکر	عربی	9	فصح و بلیغ کلام۔ جدا کرنا۔
قارد	مذکر	عربی	6	تھا۔ یکتا۔ الگ تھلک
قارس	مذکر	عربی اردو	8	ایران کا قدیمی نام۔ مطلب۔ گھوڑے والا صاحب فراست۔
فارسی	صفت	اردو عربی	9	فارس والا۔ حضرت سلیمان فارسی۔ ایرانیوں کی زبان
فارسہ	مونث	عربی	4	گھوڑے کی سواری کرنا والی ماہر خاتون
فارض	صفت	عربی	1	مضبوط۔ موٹا۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
فاروق	مذکر	عربی	3	فرق کرنے والا۔
فارقہ	مونث	عربی	8	فرق کرنے والی۔
فارع	مذکر	عربی	9	خبر و شخص۔ خوشحال
فارط	مذکر	عربی	2	سب سے پہلے پانی کا انتظام کرنیوالا
فارعہ	مونث	عربی	5	خوشحال خاتون۔
فاز	صفت	عربی	7	کامیاب۔
فازر	مذکر	عربی	9	وسیع و عریض راستہ۔
فاربہ	مونث	عربی	3	حسین و جمیل جو ان لڑکی
فانخ	صفت	عربی	3	ٹکڑے ٹکڑے کرنیوالا۔
فانخل	مذکر	عربی اردو	2	عالم۔ علم و فضل والا۔ صاحب فضیلت
فانخلہ	مونث	عربی اردو	7	علم و فضل والی۔
فانصل	صفت	عربی اردو	3	فرق و جدائی ڈالنے والا۔
فاطر	صفت	عربی	2	اللہ کریم کا صفائی نام۔ پیدا کرنیوالا۔
فاطرہ	مونث	عربی	7	پیدا کرنیوالی۔ تخلیق کرنے والی۔ ایجاد کرنے والی۔
فاطق	صفت	عربی	1	عقل و فہم
فاطم	صفت	عربی	4	دوزخ کی آگ سے بچانے والا۔
فاطمہ	مونث	عربی	9	سیدہ فاطمہ الزہرا بنت سیدہ دو عالمؑ۔
				دوزخ کی آگ سے بچانے والی۔ بچے کا دودھ چھڑانے والی
فاطن	مذکر	عربی	5	عقل مند۔ دانائی والا
فانہ	مونث	عربی	1	عقل والی۔ دانائی کی مالکہ
فاغر	مذکر	عربی	3	چپا کا پھول۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
فاغرہ	مونث	عربی	8	چمپا کی کلی۔
فائدہ	مذکر	عربی	5	کھودینے والا۔
فائدہ	مونث	عربی	1	کھودینے والی
فاکر	مذکر	عربی	4	غور و فکر کرنی والا۔ سوچ بچار کرنے والا۔
فاکرہ	مونث	عربی	9	غور و فکر کرنی والا۔ سوچنے والی۔
فائق	مذکر	عربی	4	نکالنے والا۔ عیاں کرنے والا۔
فائقہ	مونث	عربی	9	دو ٹیلوں کے وسط میں ہموار راستہ
فائق	مذکر	عربی	6	تازک طبع شخص۔ عیش و آرام کا دلدادہ
فاغیمہ	مونث	عربی	7	حتا کی کلی
فاکیہ	مونث	عربی	7	خوش اخلاق۔ سبز ہوا۔
فانی	مذکر	عربی اردو	6	فنا ہونے والا۔ انسان۔ اردو کے ایک معروف شاعر۔ فانی بدایونی۔
فانیا	مونث	عربی اردو	7	قید سے چھوٹی ہوئی۔ آزاد
فالطہ	صفت	عربی	8	اچانک وارد ہونا۔
فاسیا	مونث	عربی	6	خوب سیرت اور اچھی شہرت والی
فائز	مذکر	عربی اردو	8	عمدہ پانا۔ ذمہ داری کے لئے نامزد ہونا۔
فائزہ	مونث	عربی اردو	4	جتنی ہوئی۔ فتح پانے والی۔ کامیاب
فائق	مذکر	عربی اردو	2	فوقیت رکھنے والا۔ ممتاز۔
فائقہ	مونث	عربی اردو	7	دائلی اور عقل والا۔ ممتاز درجہ۔
فائضہ	مونث	عربی	5	فیض رساں۔

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
فاملہ	مونث	عربی اردو	6	دائمی و حکمت والی۔ عقل و دانش
فانیلہ	مونث	عربی	5	قابل لائق بنیاد
فانیفہ	مذکر	عربی	4	سقیم قند۔ مصری۔ شکر۔
فناح	مذکر	عربی	3	فیصلہ کرنے والا۔ مدد کرنے والا
فناحہ	مونث	عربی	8	مدد کرنے والی
فتوحہ	صفت	عربی	7	مفتوح۔ جو فتح ہو چکا ہو۔
فتیحہ	مونث	عربی	8	فتح کرنے والی۔ دل تسخیر کرنے والی۔
فتیہ	صفت	عربی	9	تخی۔ فیاض۔ نو عمر
فتاش	مذکر	عربی	7	متلاشی۔
فتح	صفت	عربی	2	کامیابی۔ جیت
فتاق	صفت	عربی	5	سورج کی روشنی
فتیحی	مذکر	عربی	3	تسخیر کیا ہوا
فتال	مذکر	عربی	7	بلبل۔
فتیل	مذکر	عربی	7	شمع کی بتی
فہیلہ	صفت	عربی	7	اچھی نسل اور اچھا نسب
فہیل	مذکر	عربی	2	اچھی نسل اور اچھا نسب
فجیل	صفت	عربی	5	وسیع و عریض۔
فجار	مذکر	عربی	5	راستے۔
فبان	صفت	عربی	8	مہنگو میل ملاقات۔
فحیض	مذکر	عربی	8	عقل مند شخص۔ کھوج لگانے والا۔
فجور	مذکر	عربی اردو	1	جرم۔ گناہ
فخر	مذکر	اردو عربی	7	تاز۔ تکبر۔
فخری	مونث	اردو عربی	8	خوش سے تعلق۔ انگور کی ایک قسم

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
فخیم	مذکر	عربی	1	عالی مرتبہ۔ صاحب عزت۔
فخم	مذکر	عربی	9	پختہ بات۔ رتبہ والا۔
فخیر	مذکر	عربی	8	تکبر کرنے والا۔
فخیرہ	مونث	عربی	4	تکبر کرنے والی۔
فدا	صفت	اردو عربی	4	صدقے۔ قربان۔
فدوی	صفت	اردو عربی	1	قربان ہونے والا۔
فدغم	مذکر	عربی	8	بحیم بخیم شخص۔
فدایان	صفت	اردو عربی	1	قربان ہونے والے
فدر	مذکر	عربی	5	موناٹو کا۔ چاندی۔
فرار	مذکر	عربی	2	موتیوں کا بیوپاری۔
فراختہ	صفت	عربی	8	بلند مرتبہ۔
فراد	مذکر	عربی	6	موتی فروش
فرہت	صفت	عربی	2	عقل مندی۔ استادی۔ فن میں کامل۔
فراق	مذکر	اردو عربی	3	علیحدگی۔ ہجرت۔ جدائی۔ مشہور شاعر فراق گورکھ پوری۔
فراسین	مذکر	عربی	5	شہید کی جمع
فراس	مذکر	عربی	8	شیر
فراز	مذکر	اردو۔ فارسی	9	بلند درجہ۔ پاکستان کے معروف شاعر احمد فراز
فرازیہ	مونث	فارسی	6	بلندی۔
فرازون	صفت	فارسی	2	ظاہر کرنا۔ عیاں کرنا۔
فزال	مونث	فارسی	5	شیر کی ایال۔
فراست	مذکر	عربی اردو	3	عقل مندی۔ دانائی۔ معاملہ فہمی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
فرازین	مونث	فارسی	6	اوپچی۔ عالی مرتبہ۔
فرا مرز	مذکر	فارسی	6	افسر قلعہ کا محافظ
فراصین	صفت	فارسی	3	فرمان کی جمع۔ سرکاری احکامات۔
فراہد	مذکر	عربی	7	جواہرات۔ موتی۔
فرجام	صفت	فارسی	9	کمال۔ انتہا۔
فرچند	مونث	فارسی	8	عزت والی۔ رتبہ والی۔
فرجال	مذکر	عربی	4	خوشحالی۔ سکون
فرمانہ	مونث	فارسی	8	خوش و خرم شادمانی۔
فرح	مونث	فارسی	9	خوشحالی۔ شادمانی۔ ایران کی ملکہ فرح دیا
فرہ	صفت	عربی	6	رعب و دبدبہ۔
فرحان		مذکر	6	مہرت۔ شاداں۔ خوش۔
فرہ	مونث	فارسی	2	ترقی دینے والی۔ افزائش
فرحت	صفت	اردو فارسی	4	شادمانی۔ سکون
فرحین	مونث	فارسی	6	خوشی۔
فرخان	مذکر	عربی	4	خوشی سے بے قابو۔
فرحہ	مونث	فارسی	5	شادمانی۔ خوشی دینا۔
فرخاد	مذکر	فارسی	3	غلبہ پانا۔
فرخ	صفت	اردو فارسی	7	سعید۔ مبارک
فرخار	مذکر	فارسی	1	زیب و زینت۔ سجاوا
فرخی	صفت	عربی	1	مبارکباد۔ خوش نصیبی
فرخ اختر	صفت	فارسی 'اردو	4	خوش نصیب
فرخندہ	مونث	اردو فارسی	3	کھلا ہوا پھول 'خوش نصیب

نام	مذکر / مؤنث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
فرخ نمداد	مذکر	فارسی	4	نیک طبع۔ اچھا۔ صالح
فرخ زاد	مذکر	فارسی	1	مبارک اولاد۔ نیک بیٹا
فرخ سید	مذکر	فارسی	7	صالح۔ اچھی طبیعت والا
فردان	مذکر	عربی	2	بے مثال۔ یکتائے روزگار
فرزان	مذکر	فارسی	5	کامیاب و کامران۔ عقل مند
فرزانه	مؤنث	فارسی اردو	1	عقل و فہم والی
فردوس	صفت	فارسی اردو	8	جنت، بہشت
فرزہ	مؤنث	فارسی	4	عقل مندی۔ دانائی
فردوسی	صفت	فارسی	4	فردوس والا۔ معروف فارسی کا شاعر
فرزین	مذکر	فارسی	5	شاہنامہ اسلام کا خالق
فرزام	مذکر	فارسی	4	شہنشاہ کا ایک مہرہ وزیر
فرساد	مذکر	عربی	3	عالی مرتبہ۔ قابل ترین
فرع	مؤنث	عربی	8	دانائی اور حکمت والا
فرستادہ	مذکر	عربی	1	شاخ جیسی
فرصاد	مذکر	فارسی	6	بن بارش کے بادل
فرطاس	مذکر	عربی	8	انگور کے بیج، سرخ رنگ
فرقت	مؤنث	اردو عربی	6	وسیع و عریض
فرقان	مذکر	اردو عربی	8	شاعروں کا پسندیدہ لفظ جدائی
فرعون	مذکر	عربی	1	کلام اللہ شریف۔ حق و باطل میں فرق کرنے والا
فرغان	مذکر	فارسی عربی	8	مصر کے قدیم حکمران کا لقب۔ مگر مجھ
				فارسی میں موسیقی کی ایک سر اور عربی میں کشادہ برتن

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
فرقانہ	مونث	فارسی	4	از بستان کا ایک علاقہ
فرغہ	مونث	عربی	7	کشادہ جگہ
فرقد	مذکر	عربی	6	قطب شمالی کا قریبی ستارہ
فرل	صفت	فارسی	8	بہترین، خوشبودار
فرمان	مذکر	فارسی	2	بادشاہ کا مکتوب۔ شاہی احکامات
فرمین	صفت	فارسی	2	فرمایا ہوا۔ فرمان سے متعلق
فرناس	مذکر	فارسی	4	شیر، دلیر شخص۔ بہادر
فروہ	مونث	فارسی	7	ٹھہراؤ
فروز	صفت	فارسی	5	چمک، عربی میں دلیر آدمی
فروال	مذکر	فارسی	9	بیرا
فروزاں	صفت	فارسی	2	منور۔ چمکدار
فروغ	صفت	فارسی اردو	8	پھیلاؤ۔ وسعت
فروشندہ	مونث	فارسی	6	اشیاء بیچنے والی
فرویدہ	مذکر	فارسی	3	طلب۔ شوق
فروہ	مونث	فارسی	3	شوق
فرین	مونث	ترکی	3	عقل و فہم والی۔ یکتائے فن
فرہاد	مذکر	فارسی	2	خسرو پرویز کی ملکہ شیریں کا عاشق۔ سچے عاشق
فرہنگ	صفت	فارسی	4	دانا۔ عقل
فریال	مونث	فارسی	6	شیر کی ایال
فرید	مذکر	فارسی	6	حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر۔ بے مثال
فریدہ	مونث	فارسی		لاٹائی یکتا۔ نہیں موتی

نام	مذکر / مونث	بی زبان	عدد	مطالب و معانی
فریبا	مونث	فارسی	5	قربان ہونے والی۔ فریفتہ
فریاض	صفت	فارسی	2	کشادہ۔ وسیع و عریض
فریح	مذکر	فارسی	1	مسرور، خوشحال
فریحہ	مونث	فارسی	6	خوشحالی۔ شادمانی
فریس	مذکر	فارسی	8	عقل مند۔ صاحب فراست
فریدون	مذکر	عربی	3	ایران کا قدیم بادشاہ۔ اکیلا۔ تنہا
فریخ	صفت	عربی	2	وسیع و ہموار زمین
فردان	مذکر	عربی	3	قیمتی موتی
فریس	صفت	اردو	2	عقل و فہم۔ فراست
فرزند	مذکر	اردو فارسی	8	بیٹا۔ بچہ۔ غلام
فسج	صفت	عربی	6	اللہ کریم کی پاکی بیان کرنا
فساخ	صفت	عربی	5	فراخی۔ وسعت
فزداء	مونث	عربی	9	دو شیرہ۔ جوان لڑکی
فسیح	صفت	عربی	5	وسعت۔ کشادگی۔ فراخ
فسیحہ	مونث	عربی	1	فراخ۔ وسعت
فزیں	مونث	فارسی	6	بہتات۔ زیادتی
فسید	مذکر	عربی	8	سیر و سیاحت
فسوں	صفت	فارسی	7	سحر۔ جادو
فسیلہ	مذکر	عربی	5	جانوروں کا غلہ
فشوہ	مونث	عربی	5	عطر دان
نصاحت	صفت	اردو عربی	3	خوش کلامی۔ شیریں گفتاری
نصام	صفت	عربی	4	مضبوط گرفت کرنا
نصح	مذکر	عربی	8	شیریں گفتار۔ اچھی تقریر کرنے والا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
فصیحہ	مونث	عربی	4	شیریں گفتار خاتون۔ مقررہ
فصیل	مذکر	اردو عربی	3	شرکی چار دیواری۔ احاطہ
فصلہ	مونث	عربی	8	شرکی چار دیواری۔ احاطہ
فضال	صفت	عربی	2	سخی۔ بست دینے والا
فضا	مونث	اردو فارسی	8	مطلع۔ پانی جو زمین پر جاری ہو۔ ماحول۔ عربی میں کشادہ۔ وسیع
فضل	مذکر	اردو عربی	1	رحم۔ کرم۔ احسان
فضہ	مونث	عربی	3	ایک صحابیہ کا نام۔ چاندی
فضیلت	مونث	اردو عربی	6	بزرگی۔ عالی مرتبہ
فضیل	مذکر	عربی	2	ایک مشہور ولی کامل حضرت فضیل بن عیاض۔ بڑی فضیلت والا
فضیلہ	مونث	عربی	7	فضیلت و بڑائی والی
فطانت	صفت	عربی	9	ذہانت۔ عقل و فہم
فطین	مذکر	اردو عربی	5	عقل والا۔ فراست والا
فطنت	صفت	عربی	8	دانائی۔ معاملہ فہمی
فطرت	مونث	اردو	5	اصلیت۔ اندر کی حالت۔ نا تبدیل ہونے والی صفت۔ قدرتی وصف
فقید	صفت	اردو عربی	5	نایاب۔ عظیم۔ ناپید
فقید المثال	صفت	اردو عربی	3	جس کی مثال ہی نہ ہو۔ بے مثل
فقیح	مذکر	عربی	9	سرخ رنگ والا
فقیر	مذکر	اردو	3	حاجت مند۔ مانگنے والا
فقیہہ	مذکر	عربی	2	دین کا علم رکھنے والی
فکرت	صفت	فارسی	7	فکر کرنا۔ سوچنا

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
فکر	مذکر	فارسی	4	فکر کرنے والا
فلاح	صفت	اردو عربی	2	نیکی۔ حسن سلوک
فلاحت	مونث	فارسی	6	کھیتی باڑی۔ کاشت کاری
فلکی	مونث	عربی	5	آسمانی
فلذہ	مذکر	عربی	5	پیارا۔ عزیز از جان۔ جگر کا ٹکڑا
فلقہ	مذکر	عربی	8	تلوار کا ٹکڑا
فلحکہ	مونث	عربی	9	ایک آسمان
فلورا	مونث	لاطینی	2	کھلتی ہوئی کھلی
فوار	صفت	عربی	8	جوش و جذبہ
فواد	مذکر	عربی اردو	1	دل۔ قلب
فواز	مذکر	عربی	4	فاتح۔ کامیاب و کامران
فوز	مذکر	عربی	3	فتح۔ کامرانی
فوزیہ	مونث	عربی اردو	9	فتح و کامرانی
فوزان	مذکر	عربی	9	کامیابی حاصل کرنے والا
فوقا	مذکر	عربی	7	بلند و بالا۔ عالی مرتبہ
فوقیہ	مونث	عربی	1	سبقت رکھنے والی
فہام	مذکر	فارسی	9	عقل و فہم والا
فہم مندہ	مونث	فارسی	4	سمجھنے والی۔ فہم و فراست کی مالکہ
فہد	مونث	عربی	8	سعودی عرب کے شاہ فہد۔ چیتا
فہمی	مذکر	اردو فارسی	9	عقل والا۔ دانائی والا
فہیم	صفت	اردو عربی	9	سمجھداری۔ عقل۔ دانائی
فہمید	مذکر	اردو فارسی	4	عقل والا۔ سمجھدار
فہمیدہ	مونث	اردو فارسی	9	عقل والی۔ فہم والی

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
نیاد	مذکر	عربی	5	تکبر کی چال چلنے والا
نیاض	صفت	اردو عربی	9	نخی۔ کھلا خرچ کرنے والا
نیاش	مذکر	عربی	4	تکبر کرنے والا۔ بزرگی والا
فیروز	مذکر	فارسی	6	فاروق اعظمؓ کے قاتل کا نام فیروز لولو تعلق خاندان کے ایک حکمران کا نام فیروز تعلق۔ مطلب فتح مند۔ نیلا رنگ۔ زہر رنگ
فیروزہ	مونث	فارسی	2	نیلے رنگ کا ایک قیمتی پتھر
فیض	مذکر	عربی	8	نفع۔ فائدہ۔ پاکستان کے عالمگیر شہرت یافتہ شاعر فیض احمد فیض
فیضہ	مونث	عربی	4	فائدہ پہنچانے والی
فیصل	مذکر	عربی اردو	3	سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبد العزیز۔ فیصلہ کرنے والا۔ حاکم
فیضی	مذکر	عربی اردو	9	فیض والا۔ نیک خو
فیلینز	مونث	ترکی	2	سرسبز و شاداب
فیونا	مذکر	عربی	3	خوبصورت
فیحان	مذکر	عربی	1	دعدہ۔ عمد و بیاں
فیلانہ	صفت	یونانی	5	ہمدرد۔ انسانیت سے پیار کرنا
فیوض	صفت	اردو عربی	5	فیض کی جمع۔ نیکیاں
فیضانہ	مونث	عربی	6	اکوڑاڑگیسو والی

ق

نام کا ابتدائی حرف

ق

برج کا نام

جوزا

ستارے کا نام

عطارد

موافق پھول

کنول

موافق رنگ

سرخ مائل زرد

موافق پتھر

نیلم۔ الماس

100

اعداد

عطارد اور جوزا کے باہم ملاپ کے اثرات

ان لوگوں کو عزت اور وقار ہر حال میں بہت عزیز ہوتا ہے۔ ان کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ اور تعریف کی جائے کیونکہ یہ لوگ عقل و فہم سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ اپنی عزت و توقیر کو والیتے ہیں۔ اور یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ عزت کرانا جانتے ہیں۔ ان لوگوں میں مذہبی جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں۔ مذہبی اقدار اور شرم و حیا کی پاسداری میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ موسیقی سے بھی کسی حد تک لگاؤ رکھتے ہیں۔ دولت کمانا اور جمع کرنا ان کا شوق ہوتا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں سرگرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اولاد کو اللہ کی نعمت تصور کرتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
قاہر	صفت	عربی	9	اللہ کریم کا معنائی نام۔ زبردست۔ قہر والا۔
قائم	مذکر	عربی	2	عنایت کرنیوالا۔
قائمہ	مونث	عربی	7	عنایت کرنیوالی۔
قادر	صفت	عربی اردو	8	اللہ کریم کی صفت۔ قدرت والا۔ توانا۔
قادورہ	مونث	عربی	4	قابور رکھنے والی۔ طاقت رکھنے والی۔
قادورین	صفت	عربی	5	مقدور بھر۔ طاقت ور۔
قائن	مذکر	عربی	8	عدل کرنیوالا طاقتور۔
قارب	مذکر	عربی	6	چھوٹی کشتی۔
قاربہ	مونث	عربی	2	چاہنے والی۔ قریب ہونے والی۔ قرب کی طالب
قائس	مذکر	عربی	1	آتش کا خواہاں۔
قارہ	مونث	عربی	9	ٹھنڈک۔
قابوس	مذکر	عربی	7	گورا شخص۔ سفید رنگت والا خوبصورت شخص۔
قارعہ	صفت	عربی	7	قیامت۔
قائیل	مذکر	عربی	8	حضرت آدم کے پہلے بیٹے کا نام۔
قارت	صفت	عربی	8	خوشبو۔ مشک۔
قاری	مذکر	عربی	5	کلام اللہ شریف کو قرات سے پڑھنے والا
قاریہ	مونث	عربی	1	قرآن مجید کو قرات سے پڑھنے والی۔
قارون	مذکر	عربی	6	دولت مند۔ بخیل کنجوس۔
قاسم	مذکر	عربی	3	آنحضرتؐ کے صاحبزادے کا نام۔ تقسیم کرنے والا۔

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
قاسمہ	مونث	عربی	8	تقسیم کرنے والی۔
قاسرہ	مونث	عربی	6	صابرہ۔ صبر کرنے والی۔
قاز	مذکر	عربی	9	راجنس۔ ایک آبی پرندہ۔
قائم	مذکر	عربی	7	مضبوط۔ سیدھا۔
قاص	صفت	عربی	2	قصہ گو۔
قانی	مذکر	عربی	8	از حد سرخ۔
قاصد	مذکر	اردو عربی	6	اچھی۔ پیغامبر۔
قاصدہ	مونث	عربی	2	پیغام لے جانے والی
قاصب	مذکر	عربی	4	ہانسی نواز
قاصبہ	مونث	عربی	9	ہانسی بجانے والی
قاصر	مذکر	عربی	4	مجبور۔ بے کس
قاصرہ	مونث	عربی	9	مجبور و بے کس و بے بس۔
قانع	صفت	اردو عربی	6	صبر کرنے والا۔ قناعت پسند
قاصید	صفت	اردو عربی	8	بعید۔ دور۔
قاعف	مذکر	عربی	8	موسلا دھار بارش۔ سیلابی بارش۔
قاعلہ	مونث	عربی	4	سیلابی بارش۔
قافز	مذکر	عربی	8	تیز رفتار گھوڑا۔
قافزہ	مونث	عربی	4	تیز رفتار گھوڑی۔
قالب	مذکر	اردو عربی	7	ڈھانچہ۔ جسم۔ سانچہ
قانت	مذکر	عربی	2	تالغ فرمان، عبادت گزار۔
قانتہ	مونث	عربی	7	فرماں بردار۔ تالغ گزار۔
قائفہ	مونث	عربی	7	اندازے لگانے والی۔ قیافہ شناس
قائلہ	مونث	عربی	2	قائل کرنے والی۔ بات منوانے والی۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
قائد	مذکر	اردو عربی	7	راہنما۔ بانی پاکستان کا خطاب۔ قائد اعظم۔
قاہرہ	صفت	عربی	5	قہر کر نیوالی۔ مصر کا دار الحکومت۔
قائنص	مذکر	عربی	7	شکاری۔
قائم المزاج	صفت	اردو عربی	7	مستقل مزاجی۔
قائمی	مونث	اردو عربی	8	پائیداری۔ استقلال۔
قائمی	مذکر	عربی	8	دین شخص۔ خوشحال۔
قاجار	مذکر	فارسی	8	ایرانی بادشاہوں کا لقب۔
قاصی	مذکر	عربی	3	کسی چیز کی انتہا دیکھنے والا۔ مستقل مزاج
قاموس	مذکر	عربی	9	لغت۔ الفاظ کا سمندر۔
قاطر	مذکر	عربی	4	چلنے والا۔
قاطن	مذکر	عربی	7	رہنے والا۔ خادم۔
قاضی	مذکر	عربی	2	اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کر نیوالا۔
قازف	مونث	عربی	8	تیز رفتار اونٹنی۔ پتھر پھینکنے والا۔
قادیم	مذکر	عربی	1	سیاحت سے لوٹنے والا۔
قبرہ	مونث	عربی	1	بہشت۔ پرچم۔
قباد	مذکر	فارسی	8	بڑا شاہ۔ بادشاہ اعظم۔
قبطیہ	مونث	عربی	9	قدیم مصری قوم کی خاتون۔
قبیل	صفت	عربی اردو	7	ضامن۔ کھیل۔ خاندان۔ مشابہت۔
قتلی	صفت	ترکی	9	سعد۔ مبارک
قتیل	مذکر	عربی	9	صدقے۔ قربان۔ ثار۔ شہید۔ معروف شاعر قتیل شفائی۔
قتیلہ	مونث	عربی	5	سیدہ اسماء بنت سیدنا صدیق اکبرؓ کی والدہ کا نام۔ ثار ہونے والی۔ شہید۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
قتین	مونث	عربی	2	ریشم جیسی خوبصورت خاتون۔
قشم	صفت	عربی	1	تختی۔ فیاضی۔
قدیرہ	مونث	عربی	4	طاقت والی۔ عبور رکھنے والی۔
قدرت	صفت	اردو عربی	2	اہلیت۔ عبور۔ طاقت۔
قدوہ	مونث	عربی	7	زاہما۔ سرکردہ۔
قدس	مذکر	اردو عربی	2	حضرت جبریل کا نام روح القدس۔ پاک
قدسیہ	مونث	اردو عربی	7	پاکباز خاتون۔
قدیس	صفت	عربی	3	گوہر۔ موتی۔
قدوس	صفت	عربی	8	اللہ کریم کا صفائی نام۔ ہر عیب سے پاک۔
قدور	مذکر	عربی	4	طے شدہ امر۔
قدوسی	مذکر	عربی	9	فرشتہ صفت نیک لوگ۔
قدسی	مذکر	عربی	3	پاکباز۔
قدوم	مذکر	عربی	6	مشرق ہونا۔ قدم رنجہ فرمانا۔
قدربیہ	مذکر	عربی	4	ایسا فرقہ جو قضا و قدر کا منکر ہے۔
قدح	مذکر	عربی	4	پالہ۔ پیانہ۔
قدیم	مذکر	عربی	1	شریف النفس شخص۔ سردار۔
قذفہ	مذکر	عربی	3	عمارت کی برجی۔ کنگرہ۔
قراہ	مذکر	عربی	6	تلوار کا غلاف۔ میان۔
قراء	مونث	عربی	4	اچھی طرح پڑھنے والی۔ قاریہ۔ مسمان نواز۔
قربان	مذکر	عربی	2	جان نثار کرنا۔ صدقہ ہونا۔
قریہ	مونث	عربی	1	پانی کا مشکیزہ۔ قرب۔ نزدیکی۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
قرطاس	مذکر	عربی	1	کاغذ۔
قرشی	مونث	عربی	7	قریشی سردار۔ قریش کی۔
قرنی	مذکر	عربی	9	حضرت اولیس قرنی کا نام۔ زمانہ ششاس لیجے بالوں والا۔
قرہ	مونث	عربی	8	ٹھنڈک، نور۔
قریر	مذکر	عربی	6	خوشحال۔ ٹھنڈا۔
قرور	مذکر	عربی	2	ٹھنڈا پانی۔
قرن	مذکر	عربی	9	دوست۔ نزدیک۔ ہم عمر۔
قرۃ العین	مونث	عربی	6	آنکھوں کی ٹھنڈک۔
قریص	مذکر	عربی	4	کشتی کا لنگر۔
قروط	مذکر	عربی	9	آہستہ آہستہ چلنے والا۔
قرحان	مونث	عربی	8	جس کو کبھی کوئی زخم نہ لگا ہو۔
قراہ	صفت	عربی	8	رتکین نقش و نگار والا پردہ۔
قریحہ	مونث	عربی	8	بہترین۔ طبع۔ مرشت۔
قذل	صفت	ترکی	2	سرخ رنگ۔
قزح	صفت	اردو	7	رنگارنگ۔
قزلباش		ترکی	8	ایران کی ایک فوج جو سر پر سرخ رنگ کی بارہ کونوں والی ٹوپی پہنتی تھی۔ ان کی نسل اپنے آپ کو قزلباش کہلاتی ہے۔ مطلب سرخ سر۔
قزلہ	مونث	ترکی	7	سرخ رنگت والی۔
قزانی	مذکر	عربی	9	وسیع و عریض۔
قزاز	مذکر	عربی	7	ریٹھ فروش۔

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
قسیم	مذکر	عربی	3	قسمت بنانے والا۔ تقسیم کرنے والا۔
قسیمہ	مونث	عربی	8	خورو۔ مشک۔
قسطن	مونث	عربی	4	عنا۔ دھنک کے رنگ۔
قسقاس	مذکر	عربی	6	شیر۔ شدید سردی۔ راہنما۔
قسام	صفت	عربی	3	تقسیم کر دینا۔
قسمت	مونث	اردو عربی	6	نصیب۔ احاطہ۔
قیس	مذکر	عربی	5	عینائیوں کا بڑا عالم۔
قصوا	مونث	عربی	8	سرکار دو عالم کی اونٹنی کا نام۔ مبارک سواری۔
قصیر	مذکر	عربی	4	پست قامت شخص۔
قصیرہ	مونث	عربی	9	پست قامت خاتون۔
قصیل	مذکر	عربی	5	جمیت۔ گروہ۔
قصیب	مونث	عربی	5	تیز آلہ۔ تیز تلوار۔
قضا	مذکر	عربی	5	تیز دھار تلوار۔
قطب	مذکر	عربی	3	اولیائے کرام کا ایک طبقہ۔ افضل۔
قطبیہ	مذکر	عربی	9	برگزیدہ قانون۔
قطیف	مذکر	عربی	1	منتخب۔
قطین	مذکر	عربی	7	کینرس۔ نوکرانیاں۔
قطیر	مذکر	عربی	4	بہت چھوٹا۔ اصحاب کف کے کتے کا نام۔
قحید	مذکر	عربی	4	ساتھ بیٹھے والا۔
قطن	مذکر	عربی	6	کپاس۔
قلب	مذکر	عربی	6	دل۔
قلم	مذکر	عربی	6	گمرا۔ گمراہی والا۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
قلب	مذکر	عربی	7	کتواں۔
قلاس	مذکر	عربی	2	پانی سے بھر پور دریا۔ ٹوپیاں بنائیوالا۔
قلاص	مذکر	عربی	5	اونچائی پر جانے والا۔ بلند مرتبہ حاصل کر نیوالا۔
قلیم	مذکر	عربی	9	لکھنے والا۔
قند	مونث	عربی	5	بلند درجہ۔
قطم	مذکر	عربی	5	شدید خواہش۔
قفله	مونث	عربی	8	بات کو سن کر ذہن نشین کر نیوالا۔
ققال	مذکر	عربی	4	قتل بنائیوالا۔
قمر	صفت	اردو عربی	7	آفتاب۔ چاند۔
قمران	صفت	فارسی	4	ماہتاب و آفتاب۔
قمری	مونث	فارسی	8	فاختہ جیسا ایک پرندہ۔
قمیر	مونث	عربی	8	دو شیرہ۔
تقام	مذکر	عربی	2	حضرت علی المرتضیٰ علی ایک تلوار کا نام۔
قمیس	مذکر	عربی	3	سندھ جیسا۔
قمین	مذکر	عربی	2	سحق۔ لائق۔ تیز رفتار۔
قمد	مونث	عربی	1	کھس، بلندی۔
قوا	مونث	عربی	4	کھڑی ناک والی
قنبر	مذکر	عربی	1	حضرت علی المرتضیٰ کا غلام، پروں کی کلٹی۔
قندہ	مونث	عربی	2	پہار کی چوٹی۔
قنطر	مذکر	عربی	7	بلند عمارت کی چوٹی۔
قنہ	مونث	عربی	3	سرمایہ۔ پونجی۔

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
قنطورا	مونث	عربی	6	حضرت ابراہیم کی لونڈی جس سے ترک نسل پیدا ہوئی۔
قدیل	صفت	عربی اردو	5	شمع۔ فانوس۔
قدیلہ	مونث	عربی	1	افانوس۔ منور۔ شمع۔ روشنی پھیلانے والی۔
قنطربہ	صف	عربی	4	مصری خاتون۔
قناعت	صفت	اردو عربی	9	تھوڑے پر صبر کرنیوالا۔ قانع۔
قادر	صفت	ترکی	1	ریشمی کپڑا۔
قوسی	مذکر	عربی	5	کمان والا۔
قوسیہ	مونث	عربی	1	کمان والی۔ دھنک۔
قوسین	صفت	عربی	1	دو کمانیں۔
قوی	مذکر	اردو عربی	8	مضبوط۔ طاقتور۔
قوسیہ	مونث	عربی	9	مضبوط۔ سیدھی۔
قویم	مذکر	عربی	3	مضبوط۔ استوار۔ سیدھا۔
قمران	مذکر	عربی	9	بہادر۔ قریند۔ خزانچی۔
قمار	صفت	عربی اردو	9	اللہ پاک کا صفائی نام۔ قمر نازل فرمانے والا۔
قیام	صفت	عربی اردو	7	سکونت اختیار کرنا۔ ٹھہرنا۔
قیس	مذکر	عربی اردو	8	لیل کا عاشق، مجنون۔
قیوم	صفت	اردو عربی	3	اللہ کریم کا صفائی نام۔ زندہ رہنے والا۔
قیومہ	مونث	عربی	8	قائم زندہ رہنے والی۔
قیم	مذکر	عربی	7	قائم کرنے والا۔ نگران۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
قیمت	صفت	اردو عربی	1	اجرت۔ بھاؤ تاؤ۔
قیصر	مذکر	اردو عربی	4	روم کے حکمرانوں کا لقب۔
قیصرہ	مونث	عربی	8	قیصر کی ملکہ۔
قیمتات	صفت	عربی	3	ایلیچی۔
قیافہ	مذکر	اردو عربی	7	اندازہ۔ قال۔
قیاس	مذکر	اردو عربی	9	تخمینہ۔ جانچ۔
قبص	مذکر	عربی	2	چیننے والا اونٹ۔
قتضارا	تابع فصل	عربی فارسی	4	اچانک۔ اتفاقی۔
قتلاق	مذکر	عربی	9	امراجہاں موسم سرما گزاریں۔

ک

ک	نام کا ابتدائی حرف
جوزا	برج کا نام
عطار د	ستارے کا نام
کنول	موافق پھول
نیلیم الماس	موافق پتھر
سرخي مائل زرد	موافق رنگ
20	اعداد

عطار د اور جوزا کے باہم ملاپ کے اثرات

ان لوگوں کو عزت اور وقار ہر حال میں بہت عزیز ہوتا ہے۔ ان کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ اور تعریف کی جائے کیونکہ یہ لوگ عقل و فہم سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ اپنی عزت و توقیر کو دالیتے ہیں۔ اور یہ کما جائے تو بے جانہ ہو گا کہ عزت کرانا جانتے ہیں۔ ان لوگوں میں مذہبی جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں۔ مذہبی اقدار اور شرم و حیا کی پاسداری میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ موسیقی سے بھی کسی حد تک لگاؤ رکھتے ہیں۔ دولت کمانا اور جمع کرنا ان کا شوق ہوتا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں سرگرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اولاد کو اللہ کی نعمت تصور کرتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
کابر	مذکر	عربی	7	ذی مرتبہ، قوم کا سردار
کابره	مونث	عربی	3	ذی رتبہ خاتون، بزرگی والی
کابد	صفت	عربی	9	چست و چالاک، محنت کرنے والا
کاتف	مذکر	عربی	6	برائیوں کو پسند نہ کرنے والا
کاتفہ	مذکر	عربی	2	برائیوں کو پسند نہ کرنے والی
کثر	مونث	عربی	1	دلیر، بہادر، کثرت پر غلبہ حاصل کرنے والا
کثرہ	مونث	عربی	6	دلیر خاتون، کثرت پر غلبہ پانے والی
کاجب	مذکر	عربی	8	فراوانی، بہتات
کاتمہ	صفت	عربی	8	ملاپ، نزدیک کرنا، قرب
کاجل	مونث	عربی	9	حسن بڑھانے کے لئے آنکھوں میں لگانے کے لئے
کارزل	مونث	عربی	8	فصاحت کرنے والی
کالہ	صفت	ترکی	4	امت، طاقت
کاشہ	مذکر	عربی	1	محنت سے کمائے والا
کاشدہ	مونث	عربی	6	محنت سے کمائے والی
کارم	صفت	عربی	9	حسن سلوک کرنے والا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا
کارمہ	مونث	عربی	5	حسن سلوک کرنے والی
کارمیلہ	صفت	عبرانی	9	چمنستان، پھل دار باغ
کاریمان	مونث	عربی	7	مہربان اور کریم خاتون
کاسف	صفت	عربی	8	خج طبع
کاسفہ	مونث	عربی	1	خج طبع

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
کاشر	مذکر	عربی	8	ہنسی مذاق کرنے والا
کاشرہ	مونث	عربی	4	ہنسی مذاق کرنے والی
کاشف	مذکر	عربی	5	عیاں کرنے والا، نمایاں کرنے والا
کاشفہ	مونث	عربی	1	نمایاں کرنے والی ظاہر کرنے والی
کاشلی	صفت	عربی	1	مفید، بہترین، فائدہ مند
کاظم	مذکر	عربی	6	امام موسیٰ رضا کاظم، کفیل، غصہ ضبط کرنے والا
کاظمہ	مونث	عربی	2	غصہ ضبط کرنے والی
کاعب	مونث	عربی	3	کنواری لڑکی
کانل	مذکر	عربی	5	کفالت کرنے والا
کانلہ	مونث	عربی	1	کفالت کرنے والی
کانہ	مذکر	عربی	7	فوج کا سردار
کاکل	مذکر	عربی	8	گیسو، بالوں کی لٹ
کاکل	مذکر	عربی	1	بھرپور، مکمل
کالہ	مونث	عربی	6	مکمل بھرپور
کامران	مذکر	عربی، اردو	6	فاتح، کامیاب
کامتا	مذکر	ہندی	4	شہرت کی آرزو تمنا
کامنہ	مونث	ہندی	9	دہلی پتی، خاتون
کامنہ	مونث	ہندی	4	نازک سی
کامود	مذکر	عربی	8	رات کا مخصوص راگ
کامور	مذکر	عربی	6	وسیع و عریض
کانب	مذکر	عربی	1	خوشحال شخص
کانبہ	مونث	عربی	6	خوشحال خاتون

نام	مذکر / مؤنث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
کاتبہ	مؤنث	عربی	9	حاضر، موجود ہونے والی
کانس	مذکر	عربی	5	حفظ و امان میں رہنے والا
کانسہ	مؤنث	عربی	1	حفظ و امان میں رہنے والی
کبار	مذکر	عربی	7	عالی مرتبہ، بزرگ
کبریٰ	مؤنث	عربی	7	بزرگ خاتون، بڑی
کاموس	مذکر	عربی	1	زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ
کاست	مؤنث	فارسی	4	گھٹانا، کمی کرنا
کار سنج	صفت	فارسی	1	معاملہ فہم، عقل والا
کاؤس	مذکر	فارسی	6	کیکاؤس کا مخفف، ایران کے شاہ کا نام
کاشی	صفت	عربی	7	نقاشی کرنے والا
کاشان	صفت	فارسی	3	مشہور شہر
کامگار	صفت	فارسی	3	مراد پایا ہوا، کامیاب و کامران
کاہن	مذکر	عربی	4	کاوش کرنے والا، قال بتانے والا
کاہنہ	مؤنث	عربی	9	کوشش کرنے والی، قال بتانے والی
کاردار	صفت	فارسی	3	عمدے دار، تجربہ کار
کاذب	مذکر	عربی	3	جھوٹا، صاف ہونے والا
کاوی	مذکر	عربی	2	کیوڑہ
کبریا	صفت	عربی، اردو	8	اللہ پاک کا صفاتی نام، عظمت بزرگی
کبیر	مذکر	اردو، عربی	6	اللہ کریم کا صفاتی نام، بڑا، عظیم
کبیرہ	مؤنث	عربی	2	بزرگ خاتون
کتمان	صفت	عربی	7	چھپانا، راز، پوشیدگی
کشیب	مذکر	عربی	1	ریت کا ٹیلہ
کشنہ	مؤنث	عربی	8	پھولوں کا گلدستہ

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطالب و معانی
کتاب	صفت	عربی	1	فراوانی، کثرت، زیادتی
کثیف	مذکر	عربی	7	گاڑھا
کحلت	مذکر	عربی	8	آنکھوں کا سرگیں ہونا
کیل	مونث	عربی	5	سرئی والی آنکھ جیسی خوبصورت
کحیلہ	مونث	عربی	1	سری آنکھوں والی
کمال	مذکر	عربی	5	آنکھوں میں سرمہ لگانے والا
کرار	مذکر	عربی / اردو	7	سیدنا علی المرتضیٰ کا لقب حیدر کرار، بار بار حملہ کرنے والا
کرن	صفت	اردو	9	شعاع، روشنی، چاندی سونے کا تار
کرام	مذکر	عربی	9	بخی، خواں مرد، عالی رتبہ
کران	مذکر	فارسی	1	کنارا
کرامت	مذکر	اردو، عربی	4	بزرگان دین کی صفات، بڑائی، عظمت
کرم	مذکر	عربی، اردو	8	صلہ رحمی، مہربانی، عنایت
کردبی	مذکر	اردو	4	مقرب فرشتہ
کرمانی	صفت	اردو، فارسی	6	ایران کے شہر کرمان کا رہتا والا ایک معروف ولی کامل حضرت شجاع کرمانی
کریم	صفت	اردو، عربی	9	اللہ پاک کی صفت اور صفاتی نام کرم کرنے والا، مہربان
کریمہ	مونث	عربی	5	کرم کرنے والی، بختی خاتون
کردگار	مذکر	اردو، فارسی	4	بنانے والا، خالق، اللہ کریم کے لئے مستقل
کری	مذکر	ہندی، اردو	9	پوربی ہندوؤں کی ایک ذات
کرپانو	مونث	اردو	9	گھروالی، دلہن، بیوی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
کردم	مذکر	عربی	3	دلیر بہادر، پست قامت شخص
کریمان	مذکر	عربی	6	جہاد اور حج
کرانی	مذکر	عربی	2	نصرانی، عیسائی، محرر
کسام	مذکر	عربی	4	کھلا ہوا پھول
کتوری	مونث	اردو، ہندی	3	ایک خوشبو
کسریٰ	صفت	عربی، فارسی	2	ایران کے شاہ کا خطاب
کسفہ	مونث	عربی	3	پارہ پارہ، ٹکڑے
کسمہ	مونث	عربی	8	کٹی ہوئی بالوں کی جوت رخسار پر آجائے
کسول	مونث	عربی	8	لاڈ پیار میں پرورش پانے والی
کشف	مذکر	عربی، اردو	4	اولیائے کرام کی صفت، ظاہر کرنا
کشفہ	مونث	عربی	9	ظاہر کرنے والی
کشاء	مونث	فارسی	6	ظاہر، عیاں، کھولنے والی
کشفیہ	مونث	فارسی	1	دکھانے والی، ظاہر کرنے والی
کشفی	مذکر	عربی	5	عیاں کرنا، انکشاف کرنا
کشور	مونث	فارسی	4	مملکت، ملک
کشود	مذکر	عربی	6	فائدہ، کامیابی
کظام	مذکر	عربی	7	وادی کا دہانہ
کظامہ	مونث	عربی	3	وادی کا دہانہ
کظیم	مذکر	عربی	7	غصہ برداشت کرنے والا
کظیمہ	مونث	عربی	3	غصہ برداشت کرنے والی
کعب	مذکر	عربی	2	صحابی رسول کا نام، تخت بزرگی
کعبہ	مذکر	عربی	3	عندیب، بلبل
کفاح	صفت	عربی	9	محنت، کشش

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
کفالت	صفت	اردو، عربی	9	برداشت کرنے والا، ضمانت
کفالت	مذکر	عربی	6	شیر
کفایت	صفت	عربی، اردو	7	بچانا، ہاتھ روکنا، پس انداز کرنا
کفیل	مذکر	اردو، عربی	5	ضامن، برداشت کرنے والا
کفلا	مونث	عربی	5	کفالت کرنے والی، ضامن
کفہہ	صفت	عربی	7	گزر بسر ہونا
کلابہ	مذکر	عربی	5	ریشم کے دھاگے کی چھچی
کلج	مذکر	عربی	8	دلیر لوگ
کلام	مذکر	عربی	1	گفتگو، بات
کلارا	صفت	لاطینی	9	روشن، اجیالہ
کلف	مذکر	عربی	4	عاشق صادق
کلب	مذکر	عربی	7	کتا، بعض لوگ اظہار عقیدت کے لئے کلب علی اور کلب عباس نام بھی رکھتے ہیں۔
کلبہ	مونث	فارسی	3	چھوٹا سا گھر
کلیم	مذکر	عربی، اردو	1	حضرت موسیٰ کا لقب موسیٰ کلیم اللہ، باتیں کرنے والا
کذافہ	صفت	عربی	5	بے شمار
کدبار	مذکر	عربی	1	ایک توراتی پہلوؤں کا نام
کلیمہ	مونث	عربی	5	بات کرنے والی
کلج	مذکر	عربی	8	دلیر لوگ
کلیم اللہ	صفت	عربی	4	حضرت موسیٰ کا لقب، اللہ پاک سے باتیں کرنے والا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
کلتوم	مونث	عربی	2	حضرت علی کریم اللہ وجہ کی صاحبزادی کا نام جو حضرت عمرؓ کے نکاح میں آئیں، بھرے رخسار، جھنڈے کے سبرے پر ریشمی ککڑا
کلبانی	مذکر	عربی	7	فصیح و بلیغ بات کرنے والا
کلاں	صفت	فارسی	2	طویل، بزرگ، بلند
کلید	مونث	اردو، فارسی	1	کنجی، چابی
کمال	مذکر	اردو، عربی	1	عروج، لیاقت
کمالہ	مونث	عربی	6	عروج حاصل کرنے والی، لیاقت دکھانے والی
کسل	صفت	اردو، ہندی	9	کنول کا پھول
کسل	مذکر	عربی	9	مکمل ہونا، پورا ہونا
ککلا	مونث	ہندی	1	خوبصورت خاتون
ککمیل	صفت	عربی	1	مکمل صفات، کامل، مکمل
کنول	مونث	ہندی	7	پانی میں کھلنے والا خوبصورت پھول
کنعان	مذکر	عربی	3	حضرت نوح کے بیٹے کا نام
کنیر	مونث	فارسی	6	تابع دار، باندی، نوکرانی
کنیر فاطمہ	مونث	فارسی، اردو	6	حضرت فاطمہؓ سے عقدت کے طور پر اکثر خواتین یہ نام اختیار کر لیتیں ہیں
کنور	مذکر	عربی، ہندی	6	عربی میں بادلوں کی گرج اور ہندی میں راجہ
کنوم	مذکر	عربی	8	بھروسہ کے قابل
کنوز	مذکر	عربی	2	خزانہ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
کنف	مذکر	عربی	6	ساحل، کنارہ
کنیف	مذکر	عربی	7	چھپانے والا، پردہ کرنے والا
کنیفہ	مونث	عربی	3	پردہ کرنے والی
کنیا	مونث	اردو، ہندی	9	بچی، دوشیزہ، محصوم لڑکی
کنہیا	مذکر	ہندی	5	ہندوں کا ایک اوتار سری کرشن چندر، خوبصورت لڑکا
کنول نین	مونث	اردو	9	کنول کے پھول جیسی آنکھوں والی
کوثر	صفت	اردو، عربی	6	کلام اللہ شریف کی ایک سورۃ، بہشت کی نھر
کوپلہ	مونث	فارسی	2	زلف، بکلی، بلبلہ
کوشار	مذکر	عربی	5	سعی کرنے والا
کورا	مونث	یونانی	2	کنواری
کورہ	مونث	عربی	2	شہر، آبادی
کوشک	مذکر	فارسی	4	محل، قہر
کورالیہ	مونث	یونانی	2	جل، پری، خوبصورت لڑکی
کوکب	صفت	عربی	3	ستارہ، قوم کا سردار
کورین	مونث	یونانی	7	حسین ترین لڑکی
کولاب	مذکر	فارسی	5	پانی کا تالاب
کوتل	مونث	اردو، فارسی	3	بڑی پیاری آواز والا پرندہ
کورینا	مونث	یونانی	8	حسن کی دیوی، خوبصورت لڑکی
کومل	مونث	ہندی	6	نرم و نازک لڑکی
کیقبلو	مذکر	فارسی	2	ایران کا ایک عظیم بادشاہ، برحق اور عادل
کیمان	صفت	فارسی	5	زمانہ، کائنات، دنیا

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
کوشی	مونث	فارسی	3	کوشش کرنے والی
کوے	صفت	ترکی	4	ستاروں کا جھرمٹ
کوشیہ	مذکر	فارسی	8	چمکتے ستارے
کواکب	مذکر	عربی	4	ستارے
کوفان	صفت	فارسی	4	امان، حفاظت میں، پناہ
کونی	مذکر	عربی، فارسی	8	کوفہ شہر کا رہنے والا
کوفیہ	مونث	عربی، فارسی	4	کوفہ شہر کی رہنے والی
کوکبہ	مونث	عربی، فارسی	8	ستارے جیسی
کولت	صفت	لاطینی	6	کامیاب و کامران، فاتح
کوشیار	مذکر	فارسی	6	ایران کا ایک مشہور حکیم
کوہکن	صفت	فارسی	2	خسرو پرویز کی ملکہ شیریں کا عاشق فرماؤ جو عشق میں سچائی ثابت کرنے کے لئے پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالنے نکلا، کوہکن کے نام سے شہرت پائی
کیازند	مذکر	فارسی	2	بڑا سردار، حاکم، بزرگ
کیانی	مذکر	عربی، فارسی	1	عربی میں فطرت والا، اور فارسی میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو عظیم الشان بادشاہوں کے لائق ہو
کیاست	صفت	عربی	4	چالاک، ذہانت، دانائی
کیف	مذکر	فارسی	2	سرور، خمار، نشہ
کیوان	مذکر	عربی	6	زحل ستارے کا نام
کیفی	مذکر	فارسی	3	مست، نشہ میں گم، سرشار
کیفیہ	مونث	فارسی	8	مستی والی، نشہ میں مست رہنے والی
کیان	صفت	عربی، فارسی	9	عربی میں طبعیت اور فطرت، جبکہ فارسی میں عظیم الشان بادشاہ

گ

گ	نام کا ابتدائی حرف
جدی	برج کا نام
زحل	ستارے کا نام
سدا بہار بلیں	موافق پھول
مردارید یا قوت	موافق پتھر
سیلینٹی نیوی پلو	موافق رنگ
20	اعداد

زحل اور جدی کے باہم ملاپ کے اثرات

زیادہ اولاد پیدا کرنے کو یہ بہت اچھا خیال کرتے ہیں۔ مگر کثرت عیال سے عام طور پر یہ لوگ از حد پریشان ہی رہتے ہیں۔ جسکی وجہ سے ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہی رہتے ہیں۔ حرص اور طمع کے چنگل سے نکل نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ لوگ تنگ نظر یا بد فطرت نہیں ہوتے۔ یہ بہت ذہین و فطین ہوتے ہیں مگر ترقی کرنے والوں سے خواہ مخواہ خائف رہتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لئے ان کو بہت سخت محنت اور سہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح راہنمائی سے یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	بزدبان	عدد	مطالب و معانی
سج بخش	صفت	اردو فارسی	2	حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش کا لقب خزانے بخش والا
گرامی	مذکر	فارسی اردو	1	عزت سے مخاطب کرنے کے لئے باعزت، محترم، معزز
گل	صفت	فارسی اردو	5	پھول، پیارا
گل	مونث	فارسی اردو	5	مٹی
گمرزین	صفت	فارسی	8	عرش، سما ہوا تاج، بادشاہوں کے لائق
گزمین	مذکر	فارسی اردو	6	بیسے والا، پسندیدہ
گزمینہ	مونث	فارسی اردو	2	دل میں گھر کرنے والی، بیسے والی پسندیدہ
گل احمر	صفت	فارسی اردو	2	سرخ پھول، سرخ پھول کی مانند
گل آفتاب	صفت	فارسی اردو	3	سورج کبھی کا پھول، خوبصورت
گل افشان	مونث	فارسی اردو	5	پھول اور سونا نکھیرنے والی، سنہرا پھول
گل اندام	مونث	فارسی اردو	2	پھول جیسی نازک
گلناز	مونث	فارسی اردو	4	دکھتا ہوا پھول، دکھتے پھول جیسی
گل چر	صفت	فارسی اردو	6	پھول سامنے، پھول کی طرح خوبصورت
گلبدن	مونث	فارسی اردو	7	پھول سے جسم والی
گمناز	مونث	فارسی اردو	9	شراب کی طرح گل نشاط، شراب، پھول جیسی اداؤں والی۔
گلدین	مونث	ترکی	6	پھولوں سے نکلی ہوئی
گلباشم	مونث	فارسی	6	چنبیلی کا پھول
گل نسرین	مونث	فارسی اردو	6	جنگلی پھول
گل بن	صفت	فارسی اردو	3	جنگل کا پھول

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
گلید	صفت	ترکی	8	نازک، خوبصورت
گل جان	صفت	فارسی، اردو	5	پھول جیسی، جان
گلین	مونث	ترکی	2	خوبصورت مسکراہٹ والی، پھول جیسی خوبصورت
گلشاندہ	صفت	فارسی	3	بے مثال پھول، نایاب پھول
گلشن	مونث	ترکی	5	پھول سے جسم والی
گل خندہ	مونث	فارسی	7	شوخ پھول جیسی
گل گوہ	مونث	فارسی، اردو	5	سرخ رخسار، سرخاب
گلشن	مونث	فارسی، اردو	4	پھولوں کا باغ، خوبصورت
گل متاب	صفت	فارسی، اردو	3	چاند جیسا پھول، پیارا بچہ
گل رخ	مونث	فارسی، اردو	4	پھول نظر آنے والی، محبوبہ، پھول جیسے گالوں والی
گلشن آرا	مونث	فارسی، اردو	3	محفل سجانے والی، باغ کو سنوارنے والی
گل رعنا	مونث	فارسی، اردو	2	دور گئے پھول جیسی، پیارے پھول جیسی
گل عذرا	مونث	فارسی، اردو	4	پھول سے رخسار والی
گل رنگ	صفت	فارسی، اردو	5	پھولوں جیسے رنگ والی، خوبصورت
گلالہ	صفت	فارسی، اردو	5	گھونگر یا لے بال
گلرو	صفت	فارسی، اردو	4	پیارا چہرہ، پھول جیسا چہرہ
گلاکوب	مونث	فارسی، اردو	8	ڈالیا کا پھول
گلمالا	مونث	فارسی، اردو	5	پھولوں کے ہار، گجرے
گل بار	مذکر	فارسی، اردو	1	پھول برسانے والا
گلابہ	مذکر	فارسی، اردو	8	دنیا کا خوبصورت پھول، پھولوں کا بادشاہ
گل انداز	مذکر	فارسی، اردو	5	پھولوں کو نشانہ بنانے والا

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
گلبرگ	مونث	فارسی، اردو	2	پھول کی پنکھڑی
گلرین	صفت	اردو، فارسی	6	بکھری کلیاں، پھلجھڑی، گلدستہ
گلیم پوش	صفت	اردو، فارسی	5	کبل پوش، گذری پوش، فقرا
گلہام	مذکر	اردو، فارسی	9	پھول جیسا
گلزار	صفت	اردو، فارسی	6	چمن، پھولوں کا باغ
گلستان	صفت	اردو، فارسی	3	پھولوں کا گھر، باغ
گلدَم	مذکر	اردو، فارسی	4	ایسا پرندہ جس کی دم سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔
گل صنوبر	مذکر	اردو، فارسی	2	صنوبر پھول جیسا
گل بیکولی	مذکر	اردو، فارسی	2	ایسا خوشبودار سفید رنگ کا پھول جس کا پودا پیلے رنگ کا ہوتا ہے
گل چین	مذکر	فارسی	5	مالی، پھولوں کو چنے والا
گل ابر	مذکر	فارسی	1	بادل کے ٹکڑے جیسا خوبصورت
گل ٹگفتہ	مذکر	اردو، فارسی	9	کھلے پھول جیسا
گلجبانہ	مونث	پشتو، فارسی	1	پھول سی جان والی، پیاری نازک
گوزیل	صفت	ترکی	1	شجاع، بہادر
گوہر	صفت	اردو، فارسی	6	موتی، ہیرا
گوناب	مونث	فارسی	7	ستکھار کی سرخی
گوہر بار	مذکر	فارسی	2	موتی لٹانے والا، سختی فیاض
گونسل	صفت	فارسی	4	مبارک تھوار، سعدیوم
گوہر تاب	مونث	فارسی	4	خواتین کا باریک لباس
گونڈز	مذکر	ترکی	6	صاف سورج کی مانند
گونیش	مذکر	ترکی	8	آفتاب، سورج

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
گوشی	مونث	فارسی	3	گوش سے منسوب
گوئل	صفت	ترکی	7	منور، روشن
گیتی	مونث	فارسی	8	دنیا، عالم، جس کی دنیا تعریف کرے
گیتی آفرین	صفت	فارسی	7	دنیا کے لائق
گیتی فراز	مذکر	فارسی	8	دنیا میں چمکنے والا، نامور، مشہور
گیتی آرا	مونث	فارسی، اردو	3	دنیا کو سنوارنے والی
گیتا	مونث	ہندی	8	گیتوں والی، ہندوؤں کی مذہبی کتاب
گیلن	مونث	ترکی	2	دلن
گیلان	صفت	فارسی	3	ایران کا ایک شہر، عربی میں جیلان کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں حضرت غوث الاعظم نے جنم لیا
گیلانی	صفت	فارسی، اردو	4	حضرت محی الدین گیلانی سے منسوب، گیلان شہر کا رہنے والا
گیہان	مونث	فارسی	5	کائنات، دنیا
گنجینہ	صفت	فارسی، اردو	3	خزانہ، ذخیرہ
گہسو آرا	صفت	اردو، فارسی	1	زلفیں سنوارنے والی
گنجبور	مذکر	اردو، فارسی	9	خزانے والا، امیر کبیر دولت مند
گرد آفرید	صفت	فارسی	6	زمانہ قدیم کی ایک ایرانی شہزادی
گلاسا	تابع فعل	اردو	5	سفید و ملائم

ل

نام کا ابتدائی حرف

ل

برج کا نام

حمل

ستارے کا نام

مرخ

موافق پھول

سورج مکھی

موافق پتھر

حجر میلان، حجر الام یا قوت

موافق رنگ

سرخ

اعداد

30

حمل اور مرخ کے باہم ملنے سے اثرات

فیاضی اور حکمرانی کا جذبہ نیز خود غرضی اور انانیت کا جذبہ ان لوگوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ انانیت اور خود غرض طبع کی وجہ سے کبھی کبھار ادواجی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ مگر غیروں سے تعلقات بہتر رکھتے ہیں، اپنے اعزاء سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ترقی کے اذہد خواہاں ہوتے ہیں، ان میں حکم چلانے کا جذبہ، اعلیٰ سرکاری حکام سے رابطہ کی سعی۔ بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ خود نمائی کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ بلاشبہ ان کا ذہن ہر وقت کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا ہی سوچتا رہتا ہے۔ عقل مندی ان کی سرشت میں شامل ہوتی ہے۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
لابد	مذکر	عربی	1	سیر
لاہف	صفت	عربی	8	فریادی، مظلوم
لامع	مذکر	عربی	6	منور، چمکنے والا
لامعہ	مونث	عربی	2	منور، چمکنے والی
لاہشہ	مونث	عربی	7	ست، وزیر کرنے والی
لاتب	مذکر	عربی	1	استحکام والا، چمکنے والا
لاحظ	مذکر	عربی	3	انتظار کرنے والا، ہتھیوں سے دیکھنے والا
لاحظہ	مونث	عربی	8	انتظار کرنے والی، ہتھیوں سے دیکھنے والی
لاحف	مذکر	عربی	2	مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا
لاحفہ	صفت	عربی	7	مدد کرنے والی، ساتھ دینے والی
لاجورد	صفت	فارسی	1	نیلے رنگ کا قیمتی پتھر
لاذب	مذکر	فارسی	4	گلنے والا، چمکنے والا
لامز	مذکر	عربی	6	لگا کر بات کرنے والا، اشارے کنائے سے بات کرنا
لامزہ	مونث	عربی	2	اشارے کنائے سے بات کرنے والی
لازمق	مذکر	فارسی	3	چمکنے والا
لارا	مونث	لاطینی	7	شررت والی، دنیائے کرکٹ کا شرہ
لاعب	مونث	فارسی	4	آفاق کھلاڑی
لالہ	صفت	فارسی	3	کھیلنے والا، کھیلوں کا شوقین
لافظ	مذکر	عربی	3	بھائی، پختونوں کا نام، پھول کا نام
لافظہ	مونث	عربی	8	سمندر جیسا گہرا، عقل والا
				سمندر جیسی گہری، عقل والی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
لامس	مذکر	عربی	5	چھونے والا، پکڑنے والا
لاجور	مذکر	اردو	6	عزتوں کا رکھوالا
لالہ رخ	مونث	فارسی	2	پھول جیسی، پھول سے چہرے والی
لامع	مذکر	عربی	7	منور، روشن کرنے والا، چمکنے والا
لامعہ	مونث	عربی	3	منور، روشن کرنے والی
لامیہ	مونث	عربی	5	خوبصورت زلفوں والی
لائحہ	مونث	عربی	9	چمکنے والی چیز
لائم	مذکر	عربی	9	تنبیہ کرنے والا، طاعت کرنے والا
لائق	مذکر	عربی، اردو	6	قابل، واسطے، مناسب، ذہین
لائقہ	مونث	عربی، اردو	2	قابل، ذہین
لاہب	مونث	فارسی	2	شعلوں والی آگ، چمکتی ہوئی
لاہنر	مذکر	عربی	7	پہاڑ اور ٹیلے جو راستوں کو دشوار گزار بنادے
لاریب	صفت	عربی	9	جس میں جھوٹ نہ ہو
لیب	مذکر	عربی	8	دانائی والا عقل و فہم والا
لیتی	مونث	عربی، اردو	2	دودھ جیسی سفید رنگت والی، خوبصورت
لیبید	مذکر	عربی	1	عرب کا ایک مشہور شاعر
لیوہ	مونث	عربی	7	شیرینی
لیبکہ	مونث	عربی	3	ہشیار خاتون، عقل والی، دانائی والی
لبان	مذکر	عربی	2	شیر فروش
لٹ	مونث	ہندی	8	لبی ترنگی، انگوڑی نیل
لجاف	مذکر	عربی	6	پہاڑی غار
لجام	صفت	عربی	2	عنان، باگ ڈور

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
لج	صفت	اردو	6	عزت
لجہاں	مذکر	اردو	5	عزت رکھنے والا، لعل شہباز قلندر کا لقب
لجین	صفت	عربی	3	ایک دعوات چاندی
لخشان	صفت	عربی	7	صاف ستھری چیز
لختہ	مونث	عربی	7	زینت، و آرائش دینا
لخشمہ	صفت	عربی	8	آتش، انگارہ
لحم	مذکر	عربی	7	مونا
لحمیانی	مذکر	عربی	1	دراز ریش، جس کی لمبی داڑھی ہو
لزم	مذکر	عربی	5	حکم دینے والا، فیصلے کرنے والا
لزیر	صفت	عربی	4	نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار
لراز	مذکر	عربی	9	آنحضرتؐ کے گھوڑے کا نام، دروازے
لنکر	مذکر	اردو، فارسی	1	کاشت بان بہت چکنے والی چیز
لنکری	مذکر	اردو، فارسی	2	فوج
لصیف	صفت	عربی	3	فوج کا سپاہی
لطیف	صفت	اردو، عربی	3	منور، درخشاں
لطاف	مذکر	عربی	3	اللہ کریم کا صفاتی نام، باریک بین، نازک
لطفان	مذکر	عربی	8	مہربان، لطف و کرم کرنے والا
لطفانہ	مونث	عربی	4	غور کے بعد سمجھ میں آنے والی
لطاقت	صفت	اردو، عربی	7	نیکی کرنے والی
لطیمہ	مونث	عربی	4	نیکی کرنے والی
لعین	صفت	فارسی	1	نزاکت، عمدگی، پاکیزگی
			4	مشک
			1	لال گننے کی طرح

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
لحبت	مونث	عربی	7	کھلونا، گڑیا جیسی
لحوب	مونث	عربی	9	نازد و نحرے والی، تکلف کرنے والی
لقاط	مذکر	اردو، عربی	5	باتیں بنانے والا، خوش بیان
لغیف	مذکر	عربی	2	گھنے درخت، مخلوط گروہ
لغیظ	مذکر	عربی	3	پھینکا ہوا۔
لقمان	مذکر	اردو، عربی	5	کلام اللہ شریف میں ان کا ذکر حکمت و دانائی کے ساتھ وارد ہوا ہے
لقاط	مذکر	عربی	7	گرے ہوئے خوشے جمع کرنا
لقا	صفت	اردو، عربی	7	غیبی پرندہ
لقانت	صفت	عربی	7	عقل مند، زیرک
لقاعت	صفت	عربی	9	حاضر جواب
لقاف	مذکر	عربی	6	ہوشیار، ماہر
لقب	مذکر	اردو، عربی	6	کسی خاص مدح کی وجہ سے جو نام پڑ جائے، یا عطا ہو
لقیظ	مذکر	اردو، عربی	5	راستے میں پڑا ملنے والا بچہ
لقیس	مذکر	عربی	2	غیر مستقل مزاج، لوگوں کے نام رکھنے والا
لعاز	مذکر	عربی	4	آنکھوں سے اشارے کرنے والا
لعان	مذکر	عربی	2	منور، چکیلا
لغظہ	مونث	عربی	1	ہوتلوں کی سفیدی
لمحہ	مونث	عربی	1	منور، چمک، روشن
لماء	صفت	عربی	8	چمکے سے لینا
لمیس	مونث	عربی	5	نازک اندام خاتون

نام	مذکر / مونث	بی زبان	عدد	مطالب و معانی
لیا	مونث	عربی	9	درخت کا گھنا سایہ، سیاہی مائل ہونٹوں والی
لیما	مونث	عربی	9	مشابہت والی، صلح
لمبک	مذکر	عربی	1	سرگیں آنکھوں والا
لندا	مونث	لاطینی	4	عقل مند اور خوبصورت لڑکی
لوط	مذکر	عربی	9	اللہ پاک کے ایک پیغمبر جن کی قوم ہم جنس پرستی کی وجہ سے تباہ ہوئی، دل پسند چیز
لواز	صفت	عربی، فارسی	8	قربت، پناہ حاصل کرنا، نزدیک ہونا
لورا	صفت	لاطینی	3	طرز اختیار
لولوہ	مذکر	عربی	5	چھوٹا موتی
لولو	مذکر	عربی	9	موتی
لورندا	مونث	لاطینی	3	پھولوں کا تاج
لولہ	مونث	ہسپانوی	8	ہمت والی
لورین	صفت	لاطینی	8	پھولوں کا تاج
لوسندہ	مونث	لاطینی	2	نور، روشنی
لوسی	مونث	لاطینی	7	نور، روشنی
لودھی	مذکر	ہندی، اردو	1	افغانوں کے ایک قبیلہ کا نام
لوقا	مذکر	عربی	2	حضرت عیسیٰ کے ایک قریبی ساتھی کا نام، چمکیلا منور
لوشا	مذکر	فارسی	4	روم کے ایک نامور مصور کا نام
لماق	مذکر	عربی	1	سفید، سفید تیل
لہری	صفت	عربی	2	زندہ دل، شوخ و چنچل

نام	مذکر / مونث	پڑبان	عدد	مطالب و معانی
لہلہ	صفت	عربی	7	وسیع و عریض زمین
لہنہ	مونث	عربی	9	تحفہ، عطیہ
لہام	مذکر	عربی	6	الہام
لہیم	مذکر	عربی	4	سبقت لیجانے والا
لہیمہ	مونث	عربی	5	انعام، عطیہ
لہوم	مذکر	عربی	9	بسیار فور
لہتا	مذکر	اردو، ہندی	5	قسمت کا لکھا، تقدیر
لیرنے	مونث	عربی	3	نرم و چمک دار کمان
لیرا	مونث	عبرانی	3	اللہ کریم کے لئے وقف چیز
لئیم	مذکر	عربی	8	جیت جانے والی، سبقت لے جانے والا
لئیق	مذکر	اردو، عربی	5	قابل، لائق، مستحق
لئیقہ	مونث	عربی	1	مستحق، قابل، لائق
لیلیٰ	مونث	اردو	8	مجنوں کی محبوبہ، سانولی سلونی، رات جیسی
لیاقت	مذکر	اردو، عربی	3	سمجھ داری، قابلیت
لیلا	مونث	عبرانی	8	لہانے والی، دل کش
لیلہ	مونث	لاطینی	8	مرضی
لیلہ	مونث	لاطینی	8	سوہن کا پھول
لیت	مذکر	عربی	8	بایاب چیز
للی	صفت	لاطینی	7	سوہن کا پھول
لیٹ	مذکر	عربی	9	بر شیر
للی	مونث	عربی	8	رات کی رانی
لیزم	مونث	عربی	6	نرم کمان
لیمان	مذکر	ترکش	9	ترش رو
لینا	صفت	یونانی	5	ہمت، روشن، منور

م

نام کا ابتدائی حرف	م
برج کا نام	اسد
ستارے کا نام	شمس
موافق پھول	سرخ گلاب، گل مریم
موافق پتھر	سرخ و زرد یا قوت
موافق رنگ	اورنج، نارنجی
اعداد	40

شمس اور اسد کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ کمزور قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو فنون لطیفہ کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ان کا ذہن مختلف خیالات کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ محنت سے جی چراتے ہیں۔ اسی لئے دولت کو حاصل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی دل چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لئے مالی اور جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ چونکہ سوچتے بہت زیادہ ہیں۔ مگر یہ لوگ بلا کے حسن پرست ہوتے ہیں۔

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ماجد	مذکر	عربی، اردو	3	قابل احترام، نیک اطوار
ماجدہ	مونث	عربی، اردو	8	عزت و احترام والی
ماثر	مذکر	عربی	3	نیک لوگوں کی نشانیاں، اچھے آثار
ماثرہ	مونث	عربی	8	اچھے کام کرنے والی، اچھے آثار
ماثل	مذکر	عربی	4	مثال، صفات کا حامل
ماثلہ	مونث	عربی	9	مثال، نظیر، صفت والی
مائد	مذکر	عربی	5	دیکھنے والا، پہچان کرنے والا
مادخ	صفت	عربی	6	معزز، عالی رتبہ، محترم
ماطلہ	صفت	عربی	3	تیز مزاج، لڑاکا
ماراب	مذکر	فارسی	1	نود و لقمہ، نیانیا امیر
ماخرہ	مونث	عربی	9	چھوٹی کشتی
مارب	مونث	فارسی	9	طلب، حاجت
مادخہ	مونث	عربی	2	معزز، معظمہ، عزت والی
مادر	مونث	اردو، فارسی	2	والدہ ماں
ماؤن	مذکر	عربی	8	اذن دیا ہوا، اجازت دیا ہوا
مازیہ	مونث	عربی	9	سفید زرہ، نرم، عمدہ ترین شراب
مارد	مذکر	عربی	2	خود سر بلند خیال
ماردہ	مونث	عربی	7	خود سر بلند خیال
مارا	صفت	عبرانی	8	سرفراز، تلخ، جبکہ اردو میں ظلم کرنے کو
ماسد	مذکر	عربی	6	شیروں کی کھچار، شیروں والا
مارسیا	مونث	یونانی	5	گمر، موتی
مارسیلہ	مونث	عربی	4	گمر، موتی، ہیرا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
مارشا	مونث	یونانی	2	ہیرا، موتی
مارشا	مذکر	لاطینی	2	سیاہ مریخ کے اثر کے تحت، جنگجو
ماریہ	مونث	عربی	4	گوری رنگت والی، خوبصورت
ماریا	مونث	عربی	9	تمنا اور چاہت کی جانے والی، بلند مرتبہ
مارگو	صفت	یونانی	6	ہیرا، موتی
کارلین	صفت	عبرانی	7	قابل بھروسہ
مازحہ	صفت	عربی	7	خوش طبع، خوش مزاج
مازیہ	مونث	عربی	9	ممتاز، افضل و اعلیٰ
ماسد	مذکر	عربی	6	شیریں کا مسکن
ماصف	مذکر	عربی	4	صاف، نیک اطوار
ماصفہ	مونث	عربی	9	صاف، نیک اطوار
ماعون	مذکر	عربی	5	بارش کا پانی
مالا	مونث	اردو ہندی	9	عورتوں کا زیور، گلے کا ہار
مالہ	مونث	فارسی	4	میل کرنے والی
مالک	مذکر	اردو، عربی	1	آقا، صاحب
مالتی	مونث	ہندی	4	چنبیلی کا پھول
مامون	مذکر	عربی	2	حفاظت میں آیا ہوا، عباسی خلیفہ مامون الرشید
مامونہ	مونث	عربی	7	حفاظت میں آئی ہوئی
مانت	مذکر	عربی	5	مثال، نظیر
مانی	مونث	ہندی	2	مان کرنے والی، بھروسہ کرنے والی
مانج	مذکر	عربی	4	نفاض، خرچ کرنے والا
ماہرہ	مونث	عربی، اردو	8	فن کی استاد، شائق

نام	مذکر / مونث	بہان	عدد	مطاب و معانی
ماک	صفت	ہندی	3	لعل، یاقوت
مادرا	صفت	عربی	5	بلند تر، غیر مرئی، غیبی
ماہر	مذکر	عربی، اردو	3	پورا ہنر اور علم رکھنے والا، کاریگر
ماز	مذکر	عربی	8	نیک کام کرنے والا
مازہ	مونث	عربی	4	اچھے کام کرنے والی، تعریف کے قابل
مایہ	مونث	فارسی، ہندی	2	اللہ کی قدرت، دولت، حقدار، سرمایہ
ماہ	صفت	فارسی	1	چاند
ماہ منیر	مذکر	فارسی	4	روشن چاند
ماہ بانو	مونث	فارسی	6	چاند جیسی
ماہ لقا	مونث	فارسی	6	بہت خوبصورت، چاندی جیسی خوبصورت
ماہ پارہ	صفت	فارسی، اردو	4	چاند کا ٹکڑا
ماہ طلعت	صفت	فارسی	6	محبوب، جس کا دیدار چاند جیسا ہو
ماہ پیکر	مونث	فارسی	1	چاند سے جسمانی
ماہ سیمہ	صفت	فارسی	4	چاند جیسی پیشانی والا محبوب
ماہتاب	مونث	فارسی	8	چاند کی چاندنی
ماہ رو	مونث	فارسی	9	چاند سے نکھڑے والی
ماہیر	مذکر	عربی	4	شجاع، دلیر
ماہین	مذکر	فارسی	7	چاند جیسی خوبصورت
ماہین	مذکر	عربی	6	نور، خادم، غلام
ماہنہ	مونث	عربی	2	نورانی، خادمہ، ہنیز
مالکہ	مونث	عربی، فارسی	5	جھکی ہوئی، نائل، متوجہ عربی میں مدد کرنا، محبت کرنا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	نذر	مطالب و معانی
مبارز	مذکر	عربی	7	جنگجو، جنگ کے لئے لڑنے والا
مبارک	صفت	فارسی، اردو	2	سعد راس آنے والا
مستور	مذکر	عربی	9	امیر کبیر، دولت مند
مبروک	مذکر	عربی	7	مبارک، سعد
مبرم	مذکر	عربی	3	استحکام والا، مضبوط و مستحکم
مبشر	مذکر	عربی	3	خوشخبری دینے والا
مبینہ	مونث	عربی	7	عیاں، صاف، ظاہر
مبین	مذکر	عربی، اردو	3	روشن، ظاہر ہونے والی
مبینہ	مونث	عربی	8	روشنی، ظاہر ہونے والی
مبسم	مذکر	عربی	8	ہمیشہ ہنسنے مکرانے والا
مبلغ	مذکر	عربی	1	راہ ہدایت پہنچانے والا، بھیجت کرنے والا
ممتاز	صفت	اردو، عربی	9	مضبوطی، سنجیدگی
متیم	مذکر	عربی	4	تابع فرمان، احکامات بجالانے والا
متبسم	مذکر	عربی	2	تبسم کرنے والا، مسکرانے والا
متمعد	مذکر	عربی	5	نیا ارادہ کرنے والا
متعال	صفت	عربی	1	بلند مرتبہ، عالی قدر
متین	مذکر	اردو، عربی	5	ٹھوس، مضبوط و مستحکم، سنجیدہ طبع
متناع	صفت	عربی	7	نرم و نازک، ملائمت
متقی	مذکر	اردو، عربی	1	عابد، پرہیزگار تقویٰ کرنے والا
مثنیٰ	مذکر	عربی	6	ایک صحابی رسول کریم، حضرت سیدنا مثنیٰ بن حارثہ، نو سرا، ثانی
مشر	مذکر	عربی	6	بدلا دینے والا، پھل دینے والا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
مشیل	صفت	عربی	4	قشایہ، ہمشکل
مشقال	مذکر	عربی	5	چاندی کا ایک سکہ
مجنون	مذکر	عربی	5	لیلۃ کا عاشق، فاطر العقل، دیوانہ، ایک شاعر کا تخلص
مشیب	مذکر	عربی	3	اچھے کام کا بدلہ دینے والا
مشرب	مذکر	عربی	4	کم سخاوت کرنے والا
مجاز	مذکر	عربی	6	بااختیار، اہل، طبیعت
مجازیہ	مونث	عربی	2	بااختیار، اہل، طبیعت
مجاہد	مذکر	عربی	8	اللہ کریم کی راہ میں جنگ کرنے والا
مجاہدہ	مونث	عربی	4	کوشش، ریاضت، مجاہد کی بیوی، جنگ کرنے والی
مجتبیٰ	مذکر	عربی	5	آنحضرتؐ کا صفاتی نام، برگزیدہ، منتخب
مجرہ	مونث	عربی	5	چھوٹے ستارے کی کشتیاں
مجتہد	مذکر	عربی	2	اجتہاد کرنے والا، کوشش کرنے والا
مجلہ	مونث	عربی	6	روشن کرنے کی جگہ
مجدد	مذکر	عربی	-	نیا کام کرنے والا، تجدید کرنے والا، مجدد الف ثانی
محمیر	مذکر	عربی	1	پناہ اور مدد کرنے والا، اللہ کریم کا صفاتی نام
محمیہ	مونث	عربی	6	پناہ اور مدد کرنے والی
محبیب	صفت	عربی	1	اللہ پاک کا صفاتی نام، قبول کرنے والا، جواب دینے والا
مجید	صفت	عربی	3	اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام، پاک، بڑا بزرگ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
مجیز	مذکر	عربی	6	یتیم کی نگرانی کرنے والا، ولی
محمد	مذکر	عربی، اردو	2	نبی اکرم کا اسم مبارک، بہت ہی تعریف کیا گیا۔
محمود	مذکر	عربی، اردو	8	پسندیدہ، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ آنحضرت کا صفاتی نام
محمودہ	مونث	عربی، اردو	4	پسندیدہ تعریف کی جانے والی
محارب	مذکر	عربی	8	لڑنے والا
محاسب	صفت	عربی	3	اللہ کریم کا صفاتی نام، حساب لینے والا
محالہ	مونث	فارسی	3	علاج، چارہ
محاصر	مذکر	عربی	6	احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا
مخالفہ	مونث	فارسی	4	عہد کرنے والی
محاصر	مونث	عربی	4	چکنے والی بجلی
مخائل	صفت	عربی	2	اچھائیاں، نیکیاں
مخافظہ	مذکر	عربی، اردو	3	حفاظت کرنے والا
مخافل	مذکر	عربی	6	مہفل کی جمع
محب	مذکر	عربی	5	پیار کرنے والا
محبث	صفت	اردو	9	پیار، عشق، انیت
محبوب	صفت	عربی، اردو	4	پیارا، دوست، عزیز ترین
محبوس	مذکر	عربی	2	جس کا سب حکم مانتے ہوں، معزز ترین شخص
محرم	مذکر	عربی	9	جس سے پردہ کرنا ضروری نہ ہو، اسلامی
محترس	مذکر	عربی	6	سال کا پہلا مہینہ، صحیح کرنے والا چو کنا، خبردار

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
محیط	مذکر	عربی	4	احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا
مختب	مذکر	عربی	6	حساب لینے والا
معنی	صفت	عربی	4	اللہ کریم کا صفاتی نام، زندگی عطا کرنے والا
محکم	صفت	عربی	9	قائم، مستحکم، مضبوط
مختتم	مذکر	عربی	5	ختم والا، عزت و قار والا، دولت مند
محفوظ	مذکر	عربی	8	پناہ میں آمان میں، حفاظت میں آیا ہوا
محدث	مذکر	عربی	3	حدیث کے علم کا ماہر
محمت	مذکر	ترکی	9	تعریف کیا گیا، محمدؐ
مخطوط	مذکر	عربی	9	خط، مزہ، تماشہ، لطف
معتمد	صفت	عربی	4	آزمائش
محمش	مذکر	عربی	1	ایک دلی کال کا نام جن کا تعلق نیشا پور سے تھا۔
محسن	مذکر	عربی، اردو	5	احسان کرنے والا
محنت	مونث	اردو، عربی	1	احسان کرنے والی
محرور	مذکر	عربی	4	گرم، حرارت والا، آتش
محمند	مونث	عربی	4	نیک اور پارسا خاتون
محسان	مذکر	عربی	6	احسان ہی احسان کرنے والا
محفذ	مذکر	عربی	6	خالص، امیل
محضر	مذکر	عربی	4	حاضر ہونے کی جگہ
محشر	مذکر	عربی	8	قیامت، ایک معروف شاعر کا تخلص محشر بدایونی
محشور	مذکر	عربی	7	جس کا حکم لوگ خوش ہو کر مانیں

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
محرم	مذکر	عربی	9	بوچھ اٹھانے والا
محتضر	مذکر	عربی	8	شہر میں داخل ہونے والا
مقاتل	مذکر	عربی	8	کبھتی باڑی کرنے والا، کسان
مخلد	مذکر	عربی	8	ایک صحابی رسول کریمؐ ہمیشہ دوام
مختار	مذکر	عربی، اردو	8	جس کو اختیار دیدیا گیا ہو، با اختیار، امیر
				مختار بقی اہل بیت اطہار کے ساتھ
				ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینے والا
مخزن	مذکر	عربی	4	خزانہ
مخدوم	مذکر	عربی	6	خادمہ کا آقا، بزرگ، قابل عزت
مختوم	مذکر	عربی	6	مہربند
مذہب	مذکر	اردو، عربی	3	دانشور، عقل و فہم کا مالک تدبر والا
مدحہ	مونث	عربی	4	تقریف کی گئی
مذثر	مذکر	عربی	6	سرکار دو عالمؐ کا لقب، کمبل اوڑھنے
				والا
مدیحہ	مونث	عربی	4	تقریف و ستائش کرنے والی
مدحت	صفت	عربی	2	ستائش، ثناء
مدیہ	مذکر	عربی	4	طویل، دراز، عرصہ
مدیرہ	مونث	عربی	9	طویل لمبی، دراز، عرصہ
مدنی	مذکر	عربی، اردو	5	بنی کریمؐ کا لقب، مدینہ کا رہنے والا
مدین	مذکر	عربی	5	ایک شہر کا نام، شیر
مدح	مذکر	عربی	8	تقریف کیا گیا، جس کی بہت تقریف کی گئی
				ہو۔
مدیان	صفت	عربی	6	جو بہت قرض دے یا لے

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
مذرب	مذکر	عربی	3	شیر، تجربہ کار شخص
مذکر	صفت	عربی	6	یاد دہانی
مذیب	مونث	عربی	8	آئینہ
مذنب	مذکر	عربی	9	خاصی، گناہگار
مذیب	مذکر	عربی	5	دلوں کو نرم کرنے والا، پگھلانے والا
مذیب	مونث	عربی	1	دلوں کو نرم کرنے والی، پگھلانے والی
مرتضیٰ	مذکر	عربی	1	حضرت علیؑ کا صفائی نام، مقبول پسندیدہ
مرات	صفت	ترکی	2	خواہش، مراد
مزاج	مونث	عربی	6	خوشحالی، شادی
مراتب	مذکر	عربی	4	درجات، مقام، درجہ
مراحت	صفت	عربی	1	خوشی، شادی، راحت
مراد	مذکر	عربی، اردو	2	طلب، حاجت
مرافدہ	مونث	فارسی	6	دوستی کرنے والی، مدد کرنے والی
مرام	صفت	عربی	2	مراد، مقصد، طلب
مرافقہ	صفت	فارسی	3	دوستی کرنا، امداد کرنا
مرشد	مذکر	عربی، اردو	4	سیدھا راستہ دکھانے والا، پیر، بزرگ
مرائلہ	مونث	فارسی	7	جلدی جانا، پہنچنا
مرئاج	صفت	فارسی	5	عیش و نشاط میں زندگی گزارنا
مرتجعہ	مذکر	فارسی	9	امیدوار، امید والا
مرتاض	مذکر	عربی	1	عبادت و ریاضت کرنے والا
مرتأ	صفت	یونانی	2	شای تاج، کامیابی حاصل کیا ہوا
مرتسم	مذکر	عربی	2	نقش پکڑنے والی، کھوج لگانے والا
مرجان	مونث	عربی	6	موتی، ہیرا

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
مرزا	ذکر	فارسی	5	امیر زادہ، مظلوم کی ایک ذات
مرزاب	ذکر	فارسی	7	میزاب، پر نالہ
مرحی	صفت	عربی	6	خوشحال ہونا، خوش و خرم ہونا
مرزوق	ذکر	عربی	2	رزق حاصل کرنے والا
مرزہ	مونث	عربی	9	ایک شکاری پرندہ
مرشح	ذکر	فارسی	8	سیراب، بھرا ہوا
مرصع	صفت	فارسی	5	آراستہ، سجاوٹ
مرصاد	ذکر	فارسی	2	خطر، امید کرنے والا
مرنا	صفت	لاطینی	3	نازک مزاج
مرمد	ذکر	فارسی	1	خطر
مرضیہ	مونث	عربی	2	سیدہ فاطمہؓ کا لقب، پسند کی چیز
مرصود	ذکر	فارسی	7	پرکھا ہوا، چانچا ہوا
مرعت	صفت	عربی	8	رعایت، حفاظت
مرغوب	صفت	عربی	6	دل پسند، جو من کو بھائے
مرغلے	مونث	پشتو	2	ہیرا، موتی
مریحہ	مونث	عربی	2	خوشحال، از حد خوش
مردا	مونث	فارسی	4	نیک و سدا فال
مروارید	صفت	فارسی	2	گوہر، موتی، قیمتی موتی
مرسل	ذکر	عربی	6	نمی کریم، کامغالی نام، بھیجا ہوا
مرینا	مونث	لاطینی	4	سمندری دو شیرہ
مروان	ذکر	عربی	9	حضرت عثمان غنیؓ کے چچا زاد بھائی کا نام
مریم	مونث	عربی	2	حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام کنواری
مریان	صفت	عربی	4	جذبہ ہونا، رات کا چلنا

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
مروء	مونث	فارسی	7	راحت کی چیز
مزل	مذکر	عربی	9	آنحضرتؐ کا لقب، پٹروں میں پہننے والے
مزکاء	صفت	عربی	5	نیک، پاک کیا ہوا، پاکیزہ
مزاحم	مذکر	عربی	6	مزاحمت کرنے والا، روکنے والا
مزیہ	مذکر	عربی	5	وافر، فضیلت
مزمین	مذکر	عربی	8	سجانے والا
مزدہ	مونث	عربی	8	دھجی، پکڑے کا ٹکڑا
مزیل	مذکر	عربی	6	مٹانے والا، صاف کرنے والا، ڈرانے والا
مزنہ	مونث	عربی	3	بادل کے ٹکڑے جیسی
مزیب	صفت	عربی	5	آراستہ، زیبائش
مزرہ	صفت	عربی	9	مہمان نواز
مزلہ	مونث	عربی	1	راز طشت از بام کرنے والی
مزرز	مذکر	عربی	5	احاطہ کرنے والا، حصار باندھنے والا، شیر
مزیلہ	مونث	عربی	2	ڈرانے والی، صاف کرنے والی
مژدہ	مونث	عربی	2	خوشخبری، بشارت
مژگان	مونث	اردو، فارسی	1	پلکیں
مژہ	مونث	فارسی	7	آنکھ کی پلک
مسالک	مذکر	عربی، اردو	7	فرقے، راہیں
مسیحہ	مونث	عربی	9	عبادت کرنے والی، تسبیح کرنے والی
مساعد	مذکر	عربی	4	معاونت کرنے والا، مدد کرنے والا
مستور	صفت	عربی	4	پوشیدہ
مستقبہ	مذکر	عربی	2	خود مختار

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
سرت	مونث	عربی 'اردو	7	خوشحالی، خوشی
مستنصر	ذکر	عربی	3	عباسی خلیفہ مستنصر باللہ، عدل و انصاف میں پکتا
مساء	مونث	عربی	6	اچھے نام والی، نیک نام
مسرور	ذکر	اردو، عربی	2	شاداں، خوش و خرام
مسعود	ذکر	عربی، اردو	9	نیک، سعد، مبارک
مسعودہ	مونث	عربی، اردو	5	نیک مبارک سعد
مسطور	ذکر	عربی	9	تحریر کیا ہوا، لکھا ہوا
مسکور	صفت	عربی	2	نرم آواز، خوش گفتار
مسلم	ذکر	عربی، اردو	8	حضرت مسلم بن عقیل، اسلام کا ماننے والا، مسلمان
مسلمہ	مونث	عربی، اردو	4	مسلمان، اسلام کی ماننے والی، مکمل
مشاہد	ذکر	عربی	8	گواہی دینے والا، مشاہدہ کرنے والا
مسکین	ذکر	اردو، عربی	9	نادر، مفلس
میسر	ذکر	عربی	4	سیر کا پر فضا مقام، تفریح کرنا
مسجد	ذکر	فارسی	1	بیدار مغز، جاگنے والا، خبر رکھنے والا
مسح	صفت	عربی	1	زندہ کرنے والا، جلا بخشنے والا، حضرت عیسیٰ کا لقب
مسیب	صفت	عربی	4	بااختیار، خود مختار
مشتري	مونث	اردو، فارسی	5	برجیس، ستارے کا نام
مشام	صفت	عربی	3	سوتلھنے کی قوت، دماغ
مشرف	ذکر	عربی، اردو	8	عزت حاصل کرنے والا، بلند مرتبہ
مشرّف	مونث	عربی، اردو	4	عزت حاصل کرنے والی

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
مشاق	مذکر	عربی، اردو	4	دیدار کا طالب، شدید آرزو مند
مشعل	صفت	عربی، اردو	8	شمع دان، روشنی، شعلہ
مشرب	مذکر	عربی	2	مذہب، پانی کا چشمہ، پانی کا برتن
مشکنہ	مونث	پشتو	1	پا قوت پتھر کے دانے
مشتر	مذکر	عربی	7	عیان کرنے والا، خبر کرنے والا
مشفق	مذکر	عربی	6	مہربانی کرنے والا
مشفقہ	مونث	عربی	2	مہربانی و عنایت کرنے والی
مشکوٰۃ	مذکر	عربی	1	چراغ رکھنے کی جگہ، طاق
مشور	مذکر	عربی	7	منظر
مشعر	مذکر	عربی، اردو	4	چستی اور پھرتی سے کام کرنے والا
مشبود	مذکر	عربی، اردو	4	موجود، حاضر ہونے والا
مشبودہ	مونث	عربی، اردو	9	موجود، حاضر ہونے والی
مشیر	مذکر	عربی، اردو	1	معاون، مشورہ دینے والا
مشیرہ	مونث	اردو، عربی	6	مشورہ دینے والی، معاون و مددگار
مشاق	مذکر	اردو، عربی	9	ماہر، ہنرمند
مصباح	صفت	اردو، عربی	6	جام صبحی، چراغ، نور
مصباح الدین	صفت	اردو، عربی	1	دین کا نور
مصطفیٰ	صفت	اردو، عربی	4	رسول کریمؐ کا صفاتی اسم گرامی، منتخب، چنا ہوا۔
مصیر	مذکر	عربی	7	واپس لوٹ آنے والا
مصیرہ	مونث	عربی	3	واپس پلٹ آنے والی
مصدق	مذکر	اردو، عربی	9	تصدیق کیا ہوا
مصدقہ	مونث	اردو، عربی	5	تصدیق کی ہوئی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
مصعب	مذکر	عربی	4	سیدنا مصعبؓ بن عمیر معروف صحابیؓ برداشت کرنے والا
مصور	مذکر	اردو، عربی	3	تصویر بنانے والا، نقشہ کھینچنے والا
مصورہ	مونث	اردو، عربی	8	تصویر بنانے والی
مصفر	مذکر	عربی	4	چھوٹا کیا ہوا
مصیب	مذکر	عربی	7	تحقیق کے بعد بولنے والا، درست کرنے والا
مصون	مذکر	عربی	6	امان میں، حفاظت و پناہ میں محفوظ
مضامزہ	مونث	عربی	1	امداد کرنے والی
مضمار	مذکر	عربی	1	میدان، جنگ کا میدان
مضیف	مذکر	عربی	3	مہمان نوازی کرنے والا، خوش اطوار و خوش اخلاق
مضیفہ	مونث	عربی	8	مہمان نوازی کرنے والی، خوش اخلاق
مضمہ	مذکر	عربی، اردو	9	چھپا ہوا، پوشیدہ
منضیاف	مذکر	عربی	6	بڑھ چڑھ کر مہمان نوازی کرنے والا
مطاف	صفت	عربی	4	طواف کرنے کی جگہ
مطاء	صفت	عربی	5	حفاظت، امداد، نگہبانی
مطار	مذکر	عربی	8	مل کر پرواز کرنا
مطارہ	مونث	عربی	4	اڑانا
مطرب	مذکر	فارسی	8	گانا گانے والا، گلوکار
مطربہ	مونث	فارسی	4	گانے والی، گلوکارہ
مطابہ	مونث	فارسی	4	تفریح مح کرنے والی، مذہب
مطرز	مذکر	فارسی	4	زینت دیا ہوا، سجایا ہوا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
مطرزہ	مونث	فارسی	9	زینت دی ہوئی، سجائی ہوئی
مطرف	مذکر	عربی	5	نیا نیا حاصل کیا ہوا
مطیز	مذکر	عربی	7	بارش برسانے والا، بادل
مطیہ	مونث	عربی	3	بارش برسانے والی
مطلب	مذکر	عربی، اردو	9	سرکار دو جہاں کے دادا کا نام، طلب کیا ہوا اردو میں جواب
مطع	مذکر	عربی، اردو	3	اطاعت گزار
مطعم	مذکر	عربی	6	خوراک، ایک صحابی کا نام
مطیہ	مونث	عربی	1	سواری
مطر	مذکر	عربی، اردو	2	پاکباز، پاکیزہ
مطرہ	مونث	عربی، اردو	7	پاکباز، پاکیزہ خاتون
مطفیہ	مونث	عربی	9	آگ کو سرد کرنے والی
مطیہ	مونث	عربی	3	جس سے اچھی خوشبو آئے
مظاہر	مذکر	عربی، اردو	3	دکھانے والا، ظاہر کرنے والا، گواہی دینے والا
مظہر	مذکر	اردو، عربی	2	سر بلند، ظاہر ہونا، عیاں
مظفر	مذکر	اردو، عربی	5	کامیاب و کامران، مراد حاصل کرنے والا
معاذ	مذکر	عربی	1	ابو جہل کو کم عمری میں حضرت معاذ اور ان کے بھائی حضرت معوذ نے ہی جنگ بدر میں واصل جہنم کیا تھا۔ پناہ کی جگہ
معان	صفت	عربی	1	عارضی چٹک، منزل
معارف	مذکر	اردو، عربی	4	معروف لوگ، سر بلند، بلند درجہ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
معاون	صفت	اردو، عربی	5	ساتھی دوست، مدد کرنے والے
مخافہ	مذکر	عربی	4	ساتھ دینے والا، ساتھ چلنے والا
معراج	صفت	اردو، عربی	8	بلند درجہ، آنحضرتؐ کا آسمانوں اور بیت المقدس پر تشریف لے جانا
مقیم	مذکر	عربی	1	توکل کرنے والا، عباسی خلیفہ معتمد باللہ
مقترض	مذکر	اردو، عربی	7	اعتراض کرنے والا
معروف	مذکر	اردو، عربی	8	معلوم نامور، مشہور
معروفہ	مونث	اردو، عربی	5	مشہور، نامور
معشوق	صفت	اردو	3	پیارا، محبوب، عزیز از جان
معظم	مذکر	اردو، عربی	6	عظمت والا، باوقار، بزرگ
معظمہ	مونث	اردو، عربی	2	عظمت والی
معصوم	مذکر	اردو، عربی	3	گناہوں سے دور
معصومہ	اردو	عربی	8	گناہوں سے دور، سیدہ فاطمہؑ کا لقب
معلیٰ	صفت	اردو، عربی	6	عرش معلیٰ، بلند ترین
معوز	مذکر	عربی	6	حضرت معاذ کے بھائی جنہوں نے جنگ بدر میں ابو جہل کو قتل کیا تھا، مطلب بچایا ہوا، محفوظ کیا گیا۔
مغیق	مذکر	عربی	7	ہشیار، وچالاک
معین	مونث	عربی	1	معاون و مددگار
معینہ	مونث	عربی	6	مدد کرنے والی
معید	مذکر	عربی	7	دہرانے والا، اعادہ کرنے والا
معین	مذکر	اردو، عربی	8	حضرت معین الدین چشتی اجمیری، معاون و مددگار

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
مغیرہ	مذکر	عربی	4	سیف اللہ خالد بن ولید کے دادا کا نام
مغافر	مذکر	عربی	7	لوہے کی ٹوپی جو زمانہ قدیم میں جنگوں کے دوران سر پر حفاظت کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔
مغیر	مذکر	عربی	8	جلد باز
مغیث	مذکر	عربی	2	منصور حلاج کا اصلی نام، فریاد رس
مفتاح	مذکر	عربی	7	کلید، چابی
مفکر	مذکر	عربی، اردو	7	سوچنے والا، فکر کرنے والا، علامہ محمد اقبال کا خطاب مفکر پاکستان
مفضل	مذکر	عربی	6	حد درجہ فضل کرنے والا
مفیض	مذکر	عربی	3	فیض دینے والا، بھلائی کرنے والا
مفیضہ	مونث	عربی	8	فیض کرنے والی، بھلائی کرنے والی
مفضل	مذکر	عربی	5	جس پر فضل ہوا ہو
مفتوح	مذکر	عربی، اردو	3	فتح کیا ہوا
مفتوحہ	مونث	عربی، اردو	8	فتح کی ہوئی
مقارب	مذکر	عربی	1	قریبی، متوسط
مقرب	مذکر	عربی	9	قریب، نزدیک
مقبل	مذکر	عربی	1	اقبال مند، اللہ کا حکم قبول کرنے والا
مقبول	مذکر	عربی	7	مشہور، قبول کیا گیا، پسند کیا گیا
مقتدا	مذکر	عربی	5	جس کی پیروی کی جائے، رہبر و پیشوا
مقتضا	صفت	عربی	5	جسے چاہا گیا ہو، محبوب، پسندیدہ
مقیت	صفت	عربی	1	اللہ کریم کا صفاتی نام، روزی عطا کرنے والا، طاقت ور

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
مقصود	مذکر	عربی، اردو	6	ارادہ، قصد کرنا
مقصودہ	مونث	اردو، عربی	2	ارادہ کرنا، قصد کرنا
مہکیشہ	مونث	عربی	8	صبر کرنے والی
مقیم	مذکر	عربی، اردو	1	ٹھہرنا، قیام کرنا
مہکیت	مذکر	عربی	3	صبر کرنے والا
مکارم	صفت	عربی	4	نوازش، عطا، بزرگی
مکین	مذکر	اردو، فارسی	3	مکان والا، رہنے والا
کرم	مذکر	اردو، عربی	3	کرم کرنے والا، احسان
مکشوف	صفت	عربی	7	واضح، ظاہر کیا گیا
مکرام	مذکر	عربی	4	تکریم کرنے والا
مکسار	مذکر	عربی	6	باتونی
ملاح	مونث	فارسی، اردو	2	چہرے کی خوبصورتی
ملاٹ	مذکر	عربی	4	شریف النفس شخص، بلند مرتبہ
ملاحہ	مونث	فارسی	3	خوبصورت چہرے والی، مہریاں
ملاذ	مذکر	عربی	6	پناہ، امان، حفاظت کی جگہ
ملکہ	مونث	اردو، عربی	5	بادشاہ کی بیوی، ملک کی بیوی
ملبوب	مذکر	عربی	8	عقل و فہم والا
ملک	مذکر	عربی، اردو	9	فرشتہ، مالک، سردار، بنو امیہ کا ایک خلیفہ
ملت	مونث	اردو، فارسی	2	عبدالملک بن مردان
مملیق	مذکر	عربی	9	قوم، برداری، ملاپ
مملیقہ	مونث	عربی	5	برق رفتار
ملج	مذکر	عربی، اردو	7	برق رفتار
				خوبصورت، ایک شاعر، جوش ملیح آبادی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
یلیہ	مونث	فارسی	3	خوبصورت خاتون
ملوحہ	مونث	فارسی	8	تازگی، ملاحیت
مدوح	صفت	عربی، اردو	8	جس کی تعریف کی جائے
ممتاز	صفت	عربی، اردو	2	برتر، عالی قدر، سر بلند
منان	صفت	عربی، اردو	6	اللہ کریم کا صفاتی نام، انعام دینے والا
منار	مذکر	عربی	3	شیخ دان
مناف	مذکر	عربی	9	حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے والد کا اصلی نام عبد مناف
مناظر	مذکر	عربی، اردو	3	منظر کی جمع، مناظرے کرنے والا
منال	مونث	عربی	4	کوئی چیز پانے کی جگہ
مناعم	صفت	عربی	3	نرم و نازک، ملائم
منا	مونث	یونانی، عربی	1	موتی جبکہ عربی میں خواہش، آرزو اور اردو میں چھوٹے بچے کو
منتصر	مذکر	عربی	6	عباسی خلیفہ کا نام منتصر باللہ
منجہ	مذکر	عربی	4	عنایت کرنا بخش دینا
منذر	مونث	عربی	9	ڈرانے والا
منکشیہ	مونث	ترکی	6	ایک پھول کا نام
منجد	مذکر	فارسی	7	معاون و مددگار
منزہ	مونث	عربی	3	عیب سے پاک
منجی	مذکر	عربی	4	رہائی دلانے والا، نجات دہندہ، حضرت عیسیٰ کا لقب
منوہ	مونث	عربی	2	طلب، خواہش مانگی ہوئی چیز
منہجار	مذکر	عربی	2	مہمان، شریف النفس

نام	ذکر / مونث	ہزبان	عدد	مطالب و معانی
مختصر	ذکر	عربی، اردو	1	انتظار کرنے والا
منتہی	ذکر	عربی، اردو	1	بلندی کی آخری حد
منحل	ذکر	عربی	2	کھلنے والا، کشادہ ہونے والا
منشب	ذکر	عربی	3	انسیٹ رکھنے والا، پیار کرنے والا
منشا	ذکر	عربی، اردو	4	ارادہ، مرضی، بلند جھنڈا
منصور	ذکر	عربی، اردو	8	مدد کیا ہوا، فتح مند
منصورہ	مونث	عربی، اردو	4	مدد کی ہوئی، کامیاب
منشد	ذکر	عربی	7	شاعر، اشعار پڑھنے والا
منشدہ	مونث	عربی	3	شاعرہ، اشعار پڑھنے والی
منسوبہ	ذکر	عربی	8	سیدھا، قائم، راستہ
منصوص	ذکر	عربی	6	تحقیق کو پہنچا ہوا، عیاں کیا گیا
منہل	ذکر	عربی	8	چشمہ
منظار	ذکر	فارسی	3	دور بین
منہاج	ذکر	عربی	9	شاہراہ
منظر	ذکر	عربی، اردو	2	نظر آنے والا، نظارہ
منہب	ذکر	عربی	7	حق کی طرف پھیرنے والا
منظور	ذکر	عربی، اردو	8	قبول کیا گیا، پسند
منعد	ذکر	عربی	2	منور، روشن
منعمام	ذکر	عربی	7	سخاوت کرنے والا، بڑا فیاض
منقاد	ذکر	عربی	6	اطاعت گزار، قرباں بردار
منعم	ذکر	عربی، اردو	2	نعمت دینے والا
منور	صفت	عربی، اردو	8	چمکدار، روشنی دینا
منوہ	مونث	عربی	2	مانگی ہوئی چیز، خواہش

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
منہب	مذکر	عربی	7	حق کی طرف پھیرنے والا
منیر	صفت	عربی، اردو	3	تابناک، چمکدار
منیرہ	مونث	عربی	8	تابناک، روشن کرنے والی، روشنی والی
منیف	مذکر	عربی	9	پاکباز، بزرگ، عالی رتبہ
منیفہ	مونث	عربی	5	پاکباز، بزرگ عورت
مولہ	مونث	عربی	9	محبت سے پیقرار
موحد	صفت	عربی	4	توحید پرست، اللہ ہی کو ماننے والا
موسید	مذکر	عربی	6	تائید کیا ہوا، ہدایت یافتہ
موسیدہ	مونث	عربی	2	تائید کی ہوئی، ہدایت یافتہ
مودود	صفت	عربی	6	دوست، ہمراز، ہمد
موسیٰ	مذکر	عربی	8	ایک جلیل القدر پیغمبر کا نام، پانی سے نکالا ہوا
مونیکا	مونث	لاطینی	1	درست مشورہ دینے والی
موعود	مذکر	عربی	9	وعدہ جو کیا گیا، اقرار
مونیک	مونث	عربی	9	صحیح صلاح دینے والی
موفق	مذکر	عربی	1	توفیق اور صلاحیت والا
مولا	مذکر	عربی	5	دوست، معنی اللہ، مددگار
موقر	مذکر	عربی	4	باعث توقیر، وقعت والا
مومن	مذکر	عربی	1	ایمان پر قائم رہنے والا
مومنہ	مونث	عربی	6	ایمان پر ثابت قدم رہنے والی
موقن	مذکر	عربی	7	ایمان لانے والی، یقین کرنے والا
مونا	مونث	لاطینی	7	شریف النفس، پرسکون
مہابت	مذکر	عربی	7	عظمت کا اظہار

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
مہاء	مونث	عربی	1	بزرگی والی، بلور جیسی
مہتاب	مذکر	عربی 'اردو	7	چاند، قمر، چاند کی روشنی
مہالہ	مونث	فارسی	9	کسی کو راز داں بنانا
مہندی	مذکر	عربی	5	امام غائب کا نام، ہادی پیشوا
مہازقہ	مونث	عربی	5	مسکراتا، آہستگی سے ہنسا، تبسم
مہر	مونث	فارسی	2	الفت، محبت، شیفگی، آرائیوں کی شناخت کا لفظ
مہران	مذکر	فارسی	8	دریا کا نام، ایک بادشاہ کا نام
مہ جین	مونث	فارسی	2	چاند جیسی پیشانی والی
مہر افروز	مونث	فارسی	8	سورج کی روشنی جیسی محبت
مہرو	صفت	فارسی	8	چاند سا کھڑا
مہربانو	مونث	فارسی	5	پیار کرنے والی
مہر نگار	مونث	فارسی	3	چاند جیسی خوبصورت
مہرائگیز	مونث	فارسی	9	پیار و محبت سے بھرپور
مہرین	مونث	فارسی	8	چاند اور سورج جتنی محبت کرنے والی
مہشید	مذکر	فارسی	8	چاند
مہملہ	مذکر	عربی	8	آہستگی، نرمی
مہلب	مذکر	عربی	5	از حد خوبصورت
مہمودہ	مذکر	عربی	8	عتایات کرنے والی، مہربان
مہین	مونث	فارسی 'اردو	6	نہایت باریک، بزرگ، باریک بین
مہوش	مونث	فارسی	9	خوبصورت، چاند جیسی
میشاق	مذکر	عربی	1	معادہ، عہد، اقرار
میادہ	مونث	عربی	6	بیقرار، ناز و ادا دکھلا کر چلنے والی

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
میر	مذکر	فارسی	7	ہادی، بڑا افسر، قوم کا سردار
میرا	مونث	لاطینی	8	شہزادیوں جیسی، خوبصورت ترین
میراب	مذکر	فارسی	1	پانی کا نگران
میتا	مونث	یونانی	1	موتی، ہیرا
میرام	مذکر	ترکی	3	طلب، خواہش، حاجت
میراث	مونث	عربی، اردو	4	بزرگوں کی چھوٹی ہوئی چیز، ترکہ، ورثہ
میزاب	مذکر	ترکی	6	بہتا پانی، پرنالہ
میراندہ	صفت	لاطینی	4	جو قابل تعریف ہو
میلاک	مذکر	ترکی	1	فرشتہ
میمونہ	مونث	عربی	7	ام المومنین، سیدہ میمونہ بنت حارثہ، مبارک
میمہ	مونث	عبرانی	5	فاختہ
میمور	مذکر	ترکی	8	بڑا افسر
مینا	مونث	فارسی	2	سونے کا کڑھائی کے لئے کام
مینو	مونث	فارسی	6	بہشت
میمون	صفت	عربی	2	سعید، مبارک
مشکور	مذکر	عربی، اردو	8	شکر ادا کرنے والا

ن

نام کا ابتدائی حرف	ن
برج کا نام	عقرب
ستارے کا نام	مرخ
موافق پھول	سورج مکھی
موافق پتھر	یاقوت
موافق رنگ	سرخ
اعداد	50

مرخ اور عقرب کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ بہت غصیلے ہوتے ہیں۔ بات بات پر غصہ آنا معمول کی بات ہوتی ہے۔ اسی لئے اکثر ان لوگوں کو اپنی قائم کی گئی امیدوں میں ناکامی ہوتی ہے۔ انہیں دولت کی طلب بہت ہوتی ہے۔ عزم و حوصلہ اور قوت ارادہ ان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ان سے ہمیشہ ہمدردی اور اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ مگر عمر اور دولت چلے جانے سے یہ لوگ محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں ان سے لوگ کم میل جول رکھتے ہیں۔ بحث مباحثے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ ہر بات دلیل سے کرتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	ہزبان	عدد	مطالب و معانی
نافع	صفت	عربی	4	اللہ کریم کا صفاتی نام، منافع دینے والا
ناظر	صفت	عربی	8	اللہ کریم کا صفاتی نام، دیکھنے والا، نگہبان
نابت	مذکر	عربی	3	اگائے والا
نابہ	مونث	فارسی	4	خالص شراب جیسی
نافعہ	مذکر	عربی	5	مشہور عربی شاعر، ذہین
ناہل	مذکر	عربی	2	تیر بنانے والا، تیر چلانے والا
نابلہ	مونث	عربی	7	تیر بنانے والی، تیر چلانے والی
نابیہ	مونث	عربی	5	کسی ہوئی کمان جیسی
ناثر	مذکر	عربی	4	نثر لکھنے والا، لکھاری
ناثرہ	مونث	عربی	9	نثر لکھنے والی، لکھیرنے والی
ناجد	مذکر	عربی	4	تعاون و مدد کرنے والا
ناجدہ	مونث	عربی	9	مدد کرنے والی
ناجل	مذکر	عربی	3	شرافت کا پیکر
ناجی	مذکر	عربی	1	نجات حاصل کرنے والا، آزاد منش
ناجیہ	مونث	عربی	6	نجات حاصل کرنے والی، آزاد ہونے والی
ناجز	مذکر	عربی	7	تیار، موجود، نقد
ناجی	مذکر	عربی	6	نحو کے علم کا ماہر
ناجح	مذکر	عربی	8	ربائی پانے والا، مشکل سے آزاد ہونے والا
ناجحہ	مونث	عربی	4	مشکلات سے نجات پانے والی
ناجیہ	مونث	عربی	2	آگے بڑھنے کی قوت، قصد کرنے والی
ناغل	مذکر	عربی	6	اچھی باتیں بتانے والا، نصیحت کرنے والا

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
ناخلہ	مونث	عربی	2	اچھی باتوں کی تلقین کرنے والی، نصیحت کرنے والی
نادر	مذکر	فارسی، اردو	3	کم یاب، قیمتی
نادرہ	مونث	فارسی، اردو	8	کم یاب، قیمتی
نازش	مذکر	اردو فارسی	7	ناز، گھمنہ، فخر
نازیہ	مذکر	فارسی	9	ناز کرنے والی
نازندہ	مونث	عربی	9	نخرے کرنے والی، اٹھلانے والی
نارینہ	مونث	عربی	3	تمنا، خواہش، امید
نادیہ	مذکر	فارسی	7	ندادینے والی، پکارنے والی
ناز	مونث	فارسی	4	انداز، تکبر
ناز پرور	صفت	فارسی	9	نازد نعم میں پرورش پانا
نازلی	مونث	فارسی	8	نرماہٹ، نزاکت
نازلہ	مونث	فارسی	3	ناز کرنے والی
نازیہ	مذکر	فارسی	2	ناز کرنے والا
نازیدہ	مونث	فارسی	7	ناز کرنے والا
نازہ	صفت	فارسی	1	فخر میں مقابلہ کرنا
نازاں	صفت	فارسی، اردو	1	مغرور، انداز قفاخر
نازی	مونث	فارسی	5	ناز کرنے والی، مغرور
نازک ادا	صفت	فارسی، اردو	3	نخرے کرنا، ادا نہیں دکھانا، محبوب
نازیہ	مونث	عربی	1	ناز و ادا دکھانے والی
نازنین	مونث	اردو فارسی	6	خوبصورت لڑکی، نازک
ناخ	صفت	عربی		منسوخ کرنے والا، مشہور شاعر شیخ امام بخش لکھنؤی کا تخلص

نام	مذکر / مؤنث	بر زبان	عدد	مطالب و معانی
ناخہ	مؤنث	عربی		منسوب کرنے والی، لکھنے والی
ناسق	مذکر	فارسی	4	لوگوں کو اکٹھا کرنے والا
ناسقہ	مؤنث	فارسی	9	منظم کرنے والی
ناسک	مذکر	فارسی	5	نیک، پارسا، عبادت کرنے والا
ناسکہ	مؤنث	فارسی	1	پاکیزہ، عبادت کرنے والا
ناسمہ	صفت	عربی	9	قریب، میل ملاقات
ناشاد	مذکر	فارسی	5	افردہ، لہلہ
ناشبہ	مؤنث	عربی	7	تیر انداز، تیروں والی
ناشیہ	مؤنث	عربی	6	چنچل، دویشیزہ، خوب روڑکی
ناشکر	مؤنث	عربی	7	نیک و پارسا خاتون
ناشدہ	مؤنث	عربی	9	مشہور کرنے والی
ناشہ	مؤنث	عربی	5	نوفز روڑکی، کسی چیز کا آغاز
ناشط	مذکر	عربی	9	پھرتیلا، چستی سے بھرپور
ناصح	مذکر	عربی	5	نصیحت کرنے والا
ناصحہ	مؤنث	عربی	1	نصیحت کرنے والی
ناصر	مذکر	عربی	8	ملازم، کام کرنے والا، نصب کرنے والا
ناصرہ	مؤنث	عربی	4	ملازمہ، نصب کرنے والی
ناصح	مذکر	عربی	5	بے نظیر، کامل، اصیل
ناصیہ	مؤنث	عربی	3	جبین، پیشانی
ناصر	مذکر	عربی	8	معاونت کرنے والا، مددگار
اصرہ	مؤنث	عربی	4	معاونت کرنے والی، مددگار
اضر	مذکر	عربی	9	شاراب چربے والا
ناصل	مذکر	عربی	1	تیر اندازی کا ماہر

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
نامنہ	مونث	عربی	6	تیر اندازی کی ماہر
ناطق	مذکر	عربی	7	بولنے والا
ناطق	مذکر	عربی	5	خالص رنگ
ناطقہ	مونث	عربی	1	خالص رنگ
ناظر	مذکر	عربی	8	نگہبان، نگران
ناظر	مذکر	عربی، اردو	8	دیکھنے والا، نظارہ کرنے والا
ناظرہ	مونث	عربی، اردو	4	دیکھنے والی، نظارہ کرنے والی
ناظم	مذکر	اردو، عربی	1	منتظم، نگران
ناظمہ	مونث	عربی، اردو	6	منتظمہ، انتظام و انصرام کرنے والی
ناظورہ	مونث	عربی	1	اصل، نکل، چین، محبوب و پسند
ناعشہ	مذکر	عربی	7	نئی زندگی دینے والا
ناعجہ	مونث	عربی	3	نئی زندگی دینے والی
ناعجہ	مونث	عربی	3	بست گوری اور خوبصورت
ناعم	مذکر	عربی	8	خوشحال زندگی بسر کرنے والا
نافع	مذکر	عربی	4	فائدہ حاصل کرنے والا
نافعہ	مونث	عربی	9	فائدہ حاصل کرنے والی
ناعمہ	مونث	عربی	4	خوشحال زندگی بسر کرنے والی
نافل	مذکر	عربی	8	عطیہ، نفل پڑھنے والا
نافلہ	مونث	عربی	4	عطیہ، نفل پڑھنے والی
نالجہ	صفت	عربی	4	نافذ، خوشبودار، مشک
نائد	مذکر	فارسی	2	تقید کرنے والا، پرکھنے والا
نائدہ	مونث	فارسی	7	تقید کرنے والی، پرکھنے والی
نامیہ	صفت	فارسی	7	ترقی کرنے کی طاقت

ن

نام کا ابتدائی حرف	ن
برج کا نام	عقرب
ستارے کا نام	مرخ
موافق پھول	سورج مکھی
موافق پتھر	یاقوت
موافق رنگ	سرخ
اعداد	50

مرخ اور عقرب کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ بہت غصیلے ہوتے ہیں۔ بات بات پر غصہ آنا معمول کی بات ہوتی ہے۔ اسی لئے اکثر ان لوگوں کو اپنی قائم کی گئی امیدوں میں ناکامی ہوتی ہے۔ انہیں دولت کی طلب بہت ہوتی ہے۔ عزم و حوصلہ اور قوت ارادہ ان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ان سے ہمیشہ ہمدردی اور اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ مگر عمر اور دولت چلے جانے سے یہ لوگ محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں ان سے لوگ کم میل جول رکھتے ہیں۔ بحث مباحثے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ ہر بات دلیل سے کرتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	بہاں	عدد	مطالب و معانی
نامی	مذکر	اردو، فارسی	2	نام والا
نامہ	مذکر	اردو، فارسی	6	پیام، خط، رقعہ
نامین	مونث	فارسی	7	ترقی کرنے والی، نام والی، مشہور
نانون	صفت	عبرانی	4	عزت و وقار، حسین، خوبصورت
نانہ	صفت	عبرانی	7	خوبصورت، شان و شوکت
نادک	مذکر	فارسی	5	تیر، نشتر
نامید	صفت	فارسی	7	مدد، نصرت، زہرہ ستارہ
ناہدہ	مونث	فارسی	2	نامور لڑکی، نوخیز لڑکی
ناہیہ	مذکر	عربی	8	روکنے والی، باز کرنے والی
نائب	مذکر	عربی	9	ماتحت، قائم مقام
ناکدہ	مونث	عربی	7	نہا دینے والی، پکارنے والی
نائف	مذکر	عربی	6	بست وافر، زیادتی
نائفہ	مونث	عربی	2	بست وافر، زیادہ
نازہ	صفت	عربی	5	آتش، شعلے
نائل	مذکر	عربی	1	حاصل کرنے والا، پہنچانے والا
ناکلہ	مونث	عربی	6	حاصل کرنے والی، پہنچانے والی، سیدنا
نامہ	مونث	عربی	7	عثمان بن عفان کی زوجہ کا نام
نایاب	صفت	فارسی	1	سونے والی
ناہی	مذکر	فارسی	3	ناہید، کم ملنے والی چیز
ناشی	مذکر	عربی	1	روکنے والا
نافر	مذکر	عربی	7	ابتدا کرنے والا، ظاہر کرنے والا
نازیری	مونث	فارسی	2	غلبہ حاصل کرنے والا، تیز رفتار
				پریوں جیسے ناز والی، ہیرام گور کی ملکہ جو
				خوارزم شاہ کی بیٹی تھی

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
ناقر	مذکر	عربی	9	ہن پر لگنے والا تیر
نامدار	مذکر	عربی	8	نبی کریمؐ کا لقب اطہر آقائے نامدار اچھے نام والا، مشہور
نادی	مذکر	عربی	2	محفل، مجلس آواز دینے والا پکارنے والا
ناد	صفت	عربی	1	پکار
نبات	صفت	فارسی	6	عالی مرتبہ، فضیلت، بزرگی
نبالہ	مونث	عربی	7	نجات، شرا، مذکر، عربیت، شہرت، فہم عطیہ
نبار	صفت	عربی	1	فسح و بلغ
نہایت	مذکر	فارسی	8	شہرہ عظمت
نہابہ	مذکر	فارسی	9	شہرت، شرافت
نہراس	مذکر	عربی	7	جرات مند، بہادر، دلیر
نہرا	مونث	فارسی	1	سر بلند کیا ہوا
نہی	صفت	عربی	8	اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ مقرر کردہ بندے جو اس کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، سرکار دو عالمؐ آخری نبی ہیں۔
نہیمہ	مونث	عربی	4	مطلع کرنے والی، آگاہی دینے والی
نہیدہ	صفت	عربی	8	خوشخبری نوید مسرت
نہید	مذکر	عربی	6	پھلوں کا رس پھلوں کی شراب
نہیرہ	مونث	عربی	6	عقل و دانائی والی
نثار	مذکر	عربی	4	قرآن، صدقے
نخیل	مذکر	عربی	2	ہشیار، شرافت کا پیکر، ذہین

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
نبیلہ	مونث	عربی	7	ذہن، خوبصورت، شریف عقل والی
نشاہ	مونث	روسی	9	خدا کا تحفہ
نقیلہ	صفت	عربی	9	قربت داری، وسیلہ
نجات	صفت	عربی	6	نفیلت، شرافت
نجاہ	مذکر	عربی	5	بصارت، نگاہ
نجاح	مذکر	عربی	8	کامیاب و کامران
نجاح	مونث	عربی	4	کامیابی، صبر، قناعت پسند
نجدت	صفت	فارسی	7	شجاعت، بہادری
نجاوہ	مونث	عربی	2	زمین کی وسعت
نجم	مذکر	عربی، اردو	3	ستارا
نجم السحور	صفت	عربی، اردو	5	صبح کا ستارہ
نجم الثاقب	مذکر	عربی، اردو	7	روشن ستارہ
نجی	مذکر	عربی، اردو	4	ستاروں کے علم کا ماہر، ستارے والا
نجدہ	صفت	عربی	8	مدد کرنا، امداد کرنا
نجف	مذکر	عربی	7	حضرت علی المرتضیٰ کا مزار مقدس نجف اشرف میں ہے۔
نجدہ	مونث	عربی	3	قلیل شے
نجمہ	مونث	عربی، اردو	8	نجم کی مونث ستارہ
نجلہ	مونث	عربی	7	اولاد، نسل
نجمع	مذکر	عربی	8	راز داں، صابر، افضل رائے دینے والا
نجمہ	مونث	عربی	4	راز داں، صابرہ
نجیب	مذکر	عربی، اردو	2	اصیل، شریف، پاک
نجمیہ	مونث	عربی	7	اصیل، شریف، پاکباز

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
نجید	مذکر	عربی	4	شیر جیسا، بہادر دلیر
نجیدہ	مونث	عربی	9	شیرنی جیسی، بے خوف، دلیر
نحلہ	صفت	عربی	7	عنایت، بخش
نحام	مذکر	عربی	4	سرخاب
نحامہ	مونث	عربی	9	سرخاب کی مادہ، چکوری
نخشب	مذکر	فارسی	7	کنوین کا چاند
نخشارہ	مونث	عربی	4	عارض، رخسار
نذاہل	صفت	فارسی	3	پکارنا، صدا لگانا
ندان	مذکر	فارسی	1	شرمسار، پشیمان ہونے والا
ندبہ	مونث	عربی	7	ام المومنین سیدہ میمونہؓ کی کنیز، چست و ہشیار
نداء	مونث	اردو، عربی	1	پکار، آواز، آہ
ندرت	صفت	عربی، اردو	6	انوکھاپن
ندوہ	صفت	عربی، اردو	2	محفل، مجلس
ندیر	مذکر	فارسی	3	نادر الوجود
ندیا	مونث	لاطینی	2	اسن و پناہ کی جگہ
ندیم	مذکر	عربی	5	ہم نشین، ہم قدم قریبی دوست
ندیمہ	مونث	عربی	1	قریبی ساتھی، ہم نشین، ہمدم
ندین	صفت	عربی	6	آرزو، خواہش
ندری	مونث	عربی	3	کم یاب، عقا
نذر	صفت	عربی	5	پیش کرنا، صدقہ، منت
نزاء	مونث	عربی	4	بہت سے چشموں والی
نذیر	صفت	عربی، اردو	6	آنحضرت کا صفاتی نام، اللہ سے ڈرانے والے

نام	مذکر / مونث	بیزبان	عدد	مطالب و معانی
نذارت	مونث	عربی	1	خدا خونی، خدا ترسی
نذیل	مذکر	عربی	7	مسافر، ٹھہرنے والا
نرجس	صفت	فارسی	7	نرگس کا پھول
نریسا	مونث	یونانی	6	بحری، سمندری
نزدہ	مونث	ترکی	7	خوشحال، خوش و خرم
نزمین	مذکر	فارسی	8	صاف و شفاف، نازک اندام
نرین	صفت	ترکی	4	نازک، نرم
نزل	مونث	ہندی	5	پاکیزہ، صاف
نریتا	مونث	یونانی	4	سمندری شہزادی، سمندری دو شیزہ
نرملہ	مونث	ہندی	1	نکھری ہوئی، پیاری
نرما	مونث	ہندی	3	دھلی ہوئی، بہت خوبصورت
نزاکت	صفت	فارسی اردو	1	نخرو، باریکی، لطافت ناز
نزاہت	صفت	عربی	4	طہارت، پاکیزگی، خوشحالی
نزہت	مونث	عربی	3	پاکیزہ خاتون، خوشحالی، نیک
نزال	مذکر	عربی	7	دارد ہونا منزل
نزیہ	مونث	فارسی	4	پاکیزہ، خوشحال
نناج	مونث	فارسی	6	کپڑا بننے والا، فقرے چست کرنے والا
ننسن	مونث	فارسی	4	سفید پھولوں کی کیاری
نسیق	مذکر	عربی	4	ترتیب وار
نسرین	مونث	اردو فارسی	1	دو ستارے، سیوتی کا پھول
نسیم	صفت	عربی فارسی	7	ٹھنڈی ہوا، پاکیزہ ہوا
نسیم صبح	مونث	عربی اردو	8	صبح کی صاف و پاکیزہ ہوا
نسیمہ	مونث	عربی اردو	3	پاکیزہ ہوا جیسی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
نساء	مونث	عربی، اردو	3	خاتون، خواتین کے ناموں کا لاحقہ
نسیہ	مونث	فارسی	8	مہلت، وقفہ
نشان	مذکر	عربی	3	کھوج لگانے والا
نشا	مونث	عربی	9	اطمنان، حوصلہ جلی
نشاط	صفت	اردو	9	عیش و سرور خوشی
نشاطیہ	مونث	فارسی	6	عیش کرنے والی، سرور لطیف دینے والی
نشید	مذکر	عربی	4	نغمہ، سرور
نشیدہ	مونث	عربی	9	آواز، صدا
نشرہ	مونث	عربی	6	مشہور کرنا، صبح کا آغاز، نشر کرنا، خوشبو
نشیط	مذکر	عربی	9	ہشاش، ہشاش خوش
نشیطہ	مونث	عربی	5	خوشحال، خوش و خرم
نشوہ	مونث	عربی	1	پہلی خبر، تازہ خبر
نشل	مذکر	عربی	3	تکوار، تازہ پانی کی پھوہار
نشیمہ	مونث	عربی	5	خوشبو، مہک
نصر	مذکر	عربی	7	مددگار، بنو نصر
نصبہ	مونث	عربی	3	نصب کرنے والی
نصرت	صفت	عربی	2	حمایت، فتح، امداد
نصوح	مذکر	عربی	1	نصیحت کرنے والا، امیل، کھرا
نصیر	مذکر	عربی	8	اللہ پاک کا صفاتی نام، مدد کرنے والا، فتح دلانے والا
نصیرہ	مونث	عربی	4	معاونت کرنے والی، امداد کرنے والی
نضارت	صفت	عربی	4	تازگی، چمک
نضرب	مذکر	عربی	8	سونا، خالص

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
نضروہ	مونث	عربی	4	سونا، اسیل حسن، نعمت، خوبصورتی
نضال	مذکر	عربی	1	اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والا
نصرت	مونث	عربی	3	مجاہد شکستگی، تازگی
نصیر	مذکر	عربی	9	تازگی
نظامت	مذکر	عربی	9	صفائی، پاکیزگی
نظام	مذکر	عربی، اردو	1	حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، بنیاد حیدر آباد کے حکمرانوں کا لقب
نظالیہ	مونث	عبرانی	6	اللہ پاک کا تحفہ
نظیر	مذکر	عربی	8	مثال، بدل
نظیف	مذکر	عربی	5	حلال، پاکیزہ
نظیفہ	مونث	عربی	1	حلال، پاکیزہ
نعماء	مونث	عربی	8	مال، نعمتیں
نعمان	مذکر	عربی، اردو	4	حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا نام، نعمتیں پانے والا
نعمانہ	مونث	عربی	4	خوشی، نفاست
نعمت	صفت	عربی، اردو	2	انعام، مال و دولت، ثروت
نعیم	مذکر	عربی، اردو	8	نعمت لینے والا
نعمہ	مونث	عربی، اردو	4	نعمت لینے والی
نعمہ	مونث	عربی، اردو	6	گیت، گانے والی
نقیس	مذکر	عربی، اردو	4	اعلیٰ درجہ، بہترین عمدہ
نقیسہ	مونث	عربی، اردو	9	نفاست والی، عمدہ ترین، اعلیٰ درجہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ایک عزیز ترین کنیز

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
تفسیر	مذکر	عربی	9	عدل اور انصاف کرنے والا
نقی	مذکر	عربی، اردو	7	خالص، پاک، امام حضرت علی بن محمد کا لقب
نقاش	مذکر	عربی، اردو	1	نقش و نگار بنانے والا
نقیب	مذکر	عربی، اردو	9	نقارہ بجانے والا، مشہوری کرنے والا
نکمت	مونث	فارسی، اردو	7	مہک، اچھی خوشبو
نگت	مونث	فارسی، اردو	7	مہک، اچھی خوشبو
نگار	مونث	فارسی، اردو	1	زیبائش، نقش
نگارش	مونث	فارسی، اردو	4	نقش، عرض تحریر
نگین	مونث	فارسی، اردو	4	قبضہ مفتوح، انگوٹھی کا پتھر
نگینہ	مونث	فارسی، اردو	9	انگوٹھی کا پتھر
نمرہ	مونث	اردو، عربی	7	ایک مشہور مسجد کا نام
نمیرہ	مونث	اردو، عربی	8	پاکیزہ خاتون
نمیر	مذکر	اردو، عربی	3	پاکباز شخص
نواز	مذکر	اردو، عربی	1	سرفراز کرنا، پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف
نوار	مونث	عربی	5	صاف دل
نوبہار	صفت	فارسی	3	نئی بہار
نور	صفت	اردو، عربی	4	روشنی، چمک، اجالا
نوازش	مذکر	اردو، عربی	4	عنایات، مہربانی
نواف	مذکر	عربی	2	زیادہ کرنے والا، ترقی کرنے والا
نور افزا	مونث	عربی	3	نور بڑھانے والی
نور جہاں	مونث	فارسی، عربی	9	زمانے کی روشنی، پاکستان کی شہرہ آفاق گلوکارہ مغل بادشاہ شہنشاہ جہانگیر کی ایرانی ملکہ کا نام

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
نور افشاں	مونث	فارسی 'اردو	4	نور بکھیرنے والی
نورہ	صفت	فارسی	9	منور اجالا
نوشاب	مذکر	فارسی 'اردو	8	شربت، آب حیات
نوید	صفت	فارسی 'اردو	7	خوشی کی خبر، بشارت
نویدہ	مونث	فارسی	3	خوشی کی خبر والی
نومیر	مذکر	عربی	5	ادھ کھلا پھول
نومیرہ	مونث	عربی	1	پھولوں کی کلی
نوبین	مونث	فارسی	8	جدید تازہ
نہاء	مونث	عربی	2	شوخی و چنچل
نہال	صفت	فارسی	5	خوش و خرم، کامیاب
نہالہ	مونث	فارسی	1	نیا لگایا ہوا درخت
نہیلہ	مونث	عربی	1	خوش ہونے والی
نیاز	مذکر	عربی 'اردو	5	ارادت، آرزو، مرض، تمنا
نیازی	مذکر	عربی 'اردو	6	ڈیرہ غازی خان کے چٹانوں کا ایک قبیلہ
نیر	مذکر	فارسی 'اردو	8	عرض کرنے والا، نیاز حاصل کرنے والا
نیرہ	مونث	فارسی 'اردو	4	روشنی دینے والی، چمکتا ستارہ
نیلیم	مونث	فارسی 'اردو	4	نیلا پتھر، کشمیر میں ایک دریا
نیلو فر	مونث	فارسی 'اردو	7	نیلے رنگ کا ایک خوبصورت پھول

نام کا ابتدائی حرف

برج کا نام

ستارے کا نام

موافق پھول

موافق پتھر

موافق رنگ

اعداد

و

ثور

زہرہ

سفید و سرخ

فیروزہ، زمرہ

گلابی، نیلا

6

ثور اور زہرہ کے باہم ملاپ کے اثرات

یہ لوگ علم ہندسہ سے رغبت رکھتے ہیں۔ ان کی فطرت میں جنگ و جدل کی بجائے صلح کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ اپنا نام مشہور کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے مذہب سے ہمت ہی زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ جبکہ ان کے خیالات یکجہ نہیں ہو پاتے۔ حسن پرستی کے قائل ہوتے ہیں اور لڑائی مار کٹائی سے دور ہی ان کو دیکھا گیا ہے۔ انہیں غیروں سے زیادہ اپنے اعزاء سے پیار ہوتا ہے۔ انہوں میں ان کو دلی راحت میسر آتی ہے۔ حکمرانی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ بلا کے بااخلاق ملنسار ہوتے ہیں۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
واثق	مذکر	عربی، اردو	4	طاقت و ر، مضبوط، ثابت قدم
والثقة	مونث	عربی، اردو	9	مستحکم، ثابت قدم
واثقى	صفت	عربی	5	پختہ یقین
واجد	مذکر	عربی، اردو	5	وجود پانے والا
واجدہ	مونث	عربی، اردو	1	وجود پانے والی
واجب	مذکر	عربی، اردو	3	لازمی، ضروری
واحد	مذکر	عربی، اردو	1	اللہ کریم کی صفت، تنہا اکیلا
واحدہ	مونث	عربی، اردو	6	تنہا، ایک ہی، اکیلی
وارث	مذکر	عربی، اردو	5	حضرت حاجی پیر وارث علی شاہ لکھنوی
				حاجی، مددگار، مالک
وارثہ	مونث	عربی، اردو	1	مالکہ، حقدار، مددگار
وارد	مذکر	عربی، اردو	4	تشریف لانے والا، قاصد
وارہہ	صفت	عربی	1	وسیع، کشادہ
وارق	مذکر	عربی	1	خوبصورت چوں والا درخت
وارقہ	مونث	عربی	6	خوبصورت چوں والا چھوٹا درخت
واسط	مذکر	عربی	4	معتدل، میانہ روی اختیار کرنے والا
واسطی	مذکر	عربی، اردو	5	سرودگار، عمدہ قلم
وارینہ	صفت	عربی	2	مشابہت مثل
واسع	مذکر	عربی، اردو	2	اللہ کریم کا صفاتی نام بھلنے پھولنے والا
				فراخی دینے والا
واسعہ	مونث	عربی	7	وسیع بھلنے پھولنے والی
واسف	مذکر	عربی	3	خالص، اچھا، بہترین

نام	مذکر / مونث	زبان	عدد	مطالب و معانی
واسفہ	مونث	عربی	8	خالص، اصل
وازعہ	مونث	عربی	8	حکم دینے والی، پھیلنے والی
واشدہ	مذکر	عربی	5	کھل اٹھنا، منتشر
واشدہ	مونث	عربی	1	کھل اٹھنے والی
واصف	مذکر	عربی، اردو	5	تعریف کرنے والا
واصفہ	مونث	عربی، اردو	2	تعریف کرنے والی
واصل	مذکر	عربی، اردو	1	روانہ کرنا، پہنچنا
واصلہ	مونث	عربی	6	روانہ ہونے والی، پہنچی ہوئی
وانی	مذکر	عربی	7	کمل، حقوق پوری طرح ادا کرنے والا
وانیہ	مونث	عربی	3	کمل حقوق پوری طرح ادا کرنے والی
وافر	صفت	عربی، اردو	8	زیادہ بکثرت
واقدہ	مذکر	عربی	3	مشعل جلانے والا، آگ روشن کرنے والا
واقدہ	مونث	عربی	8	مشعل جلانے والی، آگ روشن کرنے والی
وامق	مذکر	فارسی	3	مشہور عشقیہ داستان کا مرکزی کردار، عاشق، پیار کرنے والا، داستان کا نام و امق عذرا
والی	مذکر	عربی، اردو	2	حاکم، مالک، وارث
والیہ	مونث	عربی، اردو	7	حکمران کی بیوی، مالکہ، وارثہ
واکل	مذکر	عربی	6	امان میں آنا، نجات پانا
وانیا	صفت	عبرانی	5	خداوند عالم کا تحفہ
واہب	مذکر	عربی	5	عطا کرنے والا، بخش دینے والا، بخشنے والا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
واہبہ	مونث	عربی	2	بخش دینے والی، عنایت کرنے والی نیاضی
واہیہ	صفت	عربی	4	طلب، مراد، حاجت
واند	مذکر	عربی	7	سفیر، پیغام لے کر آنے والا
واعد	مذکر	عربی	9	اقرار کرنے والا، وعدہ کرنے والا
واعی	مذکر	عربی	6	نگہبان، محافظ
واعیہ	مونث	عربی	2	حفاظت کرنے والی، نگہبان
وارہ	مونث	عربی	5	لائق، منور، طریقہ
وثاق	مذکر	عربی	4	عہد کرنے والا، معاہدہ کرنے والا
وثبہ	مونث	عربی	9	چھلانگ، چوکڑی
وثنیق	مذکر	عربی	4	عہد نامہ، معاہدہ، پختہ
وثقہ	مونث	عربی	8	پختہ یقین
وجاح	صفت	فارسی	9	پردہ حیا
وجاہت	مذکر	فارسی، اردو	1	مردانہ خوبصورت، خوبصورتی
وجنہ	مونث	فارسی	1	عارض، رخسار
وجدان	مذکر	عربی، اردو	1	طاری ہونا، کھو جانا، وجد سے متعلق دریافت کرنا
وجیہ	مونث	عربی	6	حسین و جمیل خاتون
وجیہہ	مذکر	عربی، اردو	6	خوبصورت، خوش شکل
وجیہہ	مونث	عربی	2	خوبصورت خاتون، باوقار، شان والی
وجدان	صفت	عربی	6	اکیلے، تنہا
وحید	مذکر	عربی، اردو	1	اکیلا، یکتا، منفرد
وحیدہ	صفت	عربی	6	اکیلی، یکتا، منفرد

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
وداد	صفت	عربی	6	پیار، محبت الفت
ودھاء	مونث	عربی	7	بست سفید رنگت والی خوبصورت خاتون
ودود	مذکر	عربی	2	اللہ کریم کا صفاتی نام، چاہنے والا، دوست
ودیعہ	صفت	عربی	5	سپردگی، امانت
ودید	مذکر	عربی	1	پیار کرنے والا
ودیدہ	مونث	عربی	6	محبت کرنے والی
ودیقہ	مونث	عربی	8	سبزہ زار
ورده	مونث	عربی	8	گلاب کا پھول
ورده	صفت	ترکی	8	جگہ بنانا، راستہ چھوڑنا
وراد	مذکر	عربی	4	دلیر، شیر جیسا بڈر
ورقانہ	مونث	عربی	9	شفارش کرنے والی، حمایت کرنا
ورقان	مذکر	عربی	6	شفارش کرنے والی، حمایت کرنا
ورقہ	مونث	عربی	1	کبوتر، فاختہ، فیالہ رنگ
ورقہ	مذکر	عربی	5	ام المومنین سیدہ خدیجہؓ کے چچا زاد
				بھائی کا نام ورقہ بن نوفل، پیر، ڈھال
وریقہ	مذکر	عربی	6	بست ہی سرسبز درخت
وزیر	مذکر	عربی اردو	7	نائب، مشورہ دینے والا
وساھت	صفت	عربی	2	واسطہ، وسیلہ
وسام	مذکر	عربی	8	طرہ امتیاز، فخریہ
وسامہ	مونث	عربی	4	حسن و جمال کا اثر، تمکنت
وسیم	مذکر	عربی	8	حسن و جمال کا مرقع، خوبصورت
وسیمہ	مونث	عربی	4	خوبصورت خاتون
وشہ	مونث	عربی	9	بارش کا قطرہ

نام	مذکر / مونث	بہ زبان	عدد	مطالب و معانی
وشار	مونث	عربی	5	تلوار
وصاف	مذکر	عربی	8	تعریف کرنے والا
وصال	مذکر	عربی 'اردو	1	میل ملاقات، ملاپ
وصی	مذکر	عربی	7	جس کے لئے وصیت کی گئی ہو، سربراہ
وصیہ	مونث	عربی	3	جس عورت کے لئے وصیت کئی ہو
وصف	مذکر	عربی	5	خوبی، کمال کردار
وصفیہ	مونث	عربی	1	کردار، خوبی، کمال
وصید	مذکر	عربی	2	آستانہ، چوکھٹ
وصیل	مذکر	عربی	1	ساتھ نبھانے والا
وصیلہ	مونث	عربی	6	ساتھ نبھانے والی
وفا	صفت	اردو، فارسی	6	پیار و محبت میں ساتھ نبھانا
وقار	مذکر	عربی 'اردو	1	عظمت، جاہ و جلال
وقاص	مذکر	عربی 'اردو	8	حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، مخلوط
				گروہ
وقام	مذکر	عربی	3	تلوار
وقع	مذکر	عربی	7	عزت والا، قدر و منزلت والا
وقیعہ	مونث	عربی	3	عزت والی، قدر و منزلت والی
وقر	صفت	عربی	9	شان و شوکت، عزت
ولایت	صفت	اردو، عربی	6	تصوف کا ایک درجہ، سلطنت
ولی	مذکر	اردو، عربی	1	اللہ پاک کا مقرب، سرپرست
ولیہ	مونث	عربی 'اردو	6	اللہ پاک کی مقرب، سرپرست
ولید	مذکر	عربی	5	سیدنا خالد سیف اللہؓ کے والد کا نام
				صاحب اولاد

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
وہاج	مذکر	عربی	6	ہست چمکنے والا، منور
وہاب	مذکر	عربی اردو	5	اللہ کریم کا صفاتی نام، ہست بخشے والا
ویدہ	مونث	عبرانی	7	معشوق محبوبہ، عزیز از جان
وینا	مونث	لاطینی	3	روما کی بیٹی

نام کا ابتدائی حرف	۵
برج کا نام	سرطان
ستارے کا نام	قمر
موافق پھول	سفید گلاب کنول
موافق پتھر	مروارید ہیرا
موافق رنگ	آسمانی اور سفید
اعداد	5

سرطان اور قمر کے باہم ملاپ کے اثرات

ان لوگوں کو ملک کی سیاحت میں بہت سکون ملتا ہے۔ نئے نئے لوگوں سے مل کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ مذہبی جذبات کو ان میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اور کسی حد تک یہ لوگ مذہبی جنونی بھی ہوتے ہیں۔ اگر سیاحت نہ کریں تو ان کو کاشت کاری اور زمینداری میں کامیاب و کامران دیکھا جاسکتا ہے۔ اپنا ہر کام انتہائی محنت اور لگن سے سرانجام دیتے ہیں۔ زیادہ بچوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ ان میں جنگ و جدل کی بجائے امن کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔

نام	مذکر / مونث	بزبان	عدد	مطالب و معانی
ہابل	مذکر	عربی	2	کمانی کرنے والا
ہابلہ	مونث	عربی	7	کمانی کرنے والی
ہاتن	مذکر	عربی	5	خوب برسنے والا بادل
ہاتف	مذکر	عربی	8	تعریف کرنے والا، فرشتہ، غیب کی آواز
ہاجر	مذکر	عربی، اردو	2	ہجرت کرنے والا
ہاجرہ	مونث	عربی، اردو	7	ہجرت کرنے والی، سیدنا ابراہیم کی زوجہ اور سیدنا اسماعیل کی والدہ
ہاجس	مذکر	عربی	6	دل میں گزرنے والا خیال
ہاجہ	مونث	عربی	2	دل میں گزرنے والی کیفیت
ہاجل	مذکر	عربی	3	مصروف سفر رہنے والا
ہاجلہ	مونث	عربی	8	مصروف سفر رہنے والی
ہادی	مذکر	عربی، اردو	2	آنحضرتؐ کا لقب، ہدایت دینے والا
ہادیہ	مذکر	عربی، اردو	7	ہدایت دینے والی
ہارب	مذکر	عربی	1	تیز رفتار
ہارہ	مونث	عربی	6	تیز رفتار، تیز ترین بھاگنے والی
ہارون	مذکر	عربی	1	حضرت موسیٰ کے برادر حقیقی کا نام
				پاسبان سردار
ہارونہ	مونث	عربی	6	پاسبان، قاصدہ
ہاشم	مذکر	عربی	4	رسول کریمؐ کے جد امجد کا نام، توڑنے والا
ہاشمہ	مونث	عربی	9	توڑنے والی

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ہالہ	صفت	عربی، اردو	5	پورے چاند کے گرد بکھری ہوئی سفید روشنی
ہامان	مذکر	عبرانی	7	سیدنا ابراہیم کا عبرانی میں نام
ہامز	مذکر	عربی	8	آنکھوں کے اشارے سے بات کرنے والا
ہامزہ	مونث	عربی	4	آنکھوں سے اشارہ کرنے والی
ہانی	مذکر	عربی	3	خادم، مسرور، خوشحال
ہانیہ	مونث	عربی	8	خوشحال، مسرور
ہایہ	مذکر	عربی	3	توبہ کرنے والا
ہائیدہ	مونث	عربی	7	توبہ کرنے والی
ہائل	مذکر	عربی	1	ڈرانے والا
ہائلہ	مونث	عربی	6	ڈرانے والی
ہانی	صفت	عربی	3	حضرت ام ہانی، سیدنا المرتضیٰ کی بہن کا نام، مطلب خوشحال، آسودہ، مسرور
ہانیہ	مونث	عربی	8	خوش، مسرور
ہائم	مذکر	عربی	2	محبت کا متوالا
ہائمہ	مونث	عربی	7	محبت کی متوالی
ہتال	مذکر	عربی	4	طاقتور، شہزور
ہجراں	مونث	فارسی، اردو	7	جدائی، ہجرت
ہجویری	صفت	فارسی، اردو	9	حضرت داتا گنج بخش ہجویری سے مناسبت رکھنے والا، ہجویر کارہنے والا
ہدی	صفت	عربی	1	ہدایت، اچھائی
ہدیہ	صفت	فارسی، اردو	6	بطور عقیدت پیش کرنا، تحفہ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ہدایت	مذکر	عربی / اردو	6	اچھائی کی تلقین، راہ و کھانا
ہداد	مذکر	عربی	5	نرم، رویہ، مہربانی، نوازش
ہزیرہ	صفت	فارسی	2	عقل مند، دانائی، معاملہ فہمی
ہزام	مذکر	عربی	8	تیز لکوار جیسی کٹ والا، ہمدار، بے خوف
ہلابہ	مونث	عربی	7	بارش کے ساتھ تیز اور ٹھنڈی ہوا جیسی
ہرماس	مذکر	فارسی	9	ایال دار شیر
ہرمس	مذکر	عبرانی	7	ذلیل، بے خوف، جنگجو، زرتشت مذہب
				میں بدی کے خدا کا نام
ہرمان	صفت	فارسی	8	عقل مندی، فہم و فراست
ہرمزد	صفت	فارسی	4	ایک فرشتہ کا نام، ستارہ مشتری
ہرمزان	مذکر	فارسی	6	ستارے، ہرمز کی جمع
ہزمان	مذکر	فارسی	4	ہر لحظہ، ہر وقت
ہشام	مذکر	عربی	4	بست ہی سختی، فیاض باطل عقائد توڑنے
				والا، سیدنا خالد بن ولید کے بھائی کا نام
ہشیش	مذکر	عربی	3	سقاوت پسند
ہلا	مذکر	عربی	3	پہلی بارش، نئی تاریخوں کا باریک چاند
ہلیہ	مونث	عربی	5	ایک ستارے کا نام، چھوٹی کشتی کا چپو
ہما	صفت	فارسی	1	خیالی پرندہ، بادشاہ پرندہ
ہمایوں	مذکر	فارسی	4	دوسرے مغل شہنشاہ کا نام، بابرکت، مبارک
ہماس	مذکر	عربی	7	شیر جیسا
ہمان	مذکر	فارسی	6	ہم خیال، ذہنی ہم آہنگی رکھنے والا
ہمجاز	مذکر	فارسی	1	شریک

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
ہمبر	مذکر	فارسی	4	پیلو بہ پیلو
ہمدوش	مذکر	فارسی	4	دوش بدوش چلنے والا، ساتھی، ساتھ نبھانے والا
ہمراہی	مذکر	فارسی اردو	9	ساتھ نبھانے والا
ہمین	مذکر	فارسی	6	تائبستان، گرم موسم
ہمس	مذکر	عربی	5	ہلکی اور لطیف آواز
ہمیم	مذکر	عربی	5	آہستہ روئی، نرمی
ہسنا	مونث	عربی	2	عنایت، عطا بخششیں
ہنداز	مذکر	عربی	4	حدود قیاس، قیافہ
ہنیمہ	صفت	عربی	7	اچھا خیال، پسندیدہ، خوش کن
ہند	مذکر	عربی	5	ایک ملک کا نام، معشوق کے رخسار کا قتل
ہند	مونث	عربی	1	اُمّ المؤمنین سیدہ ام سلمیٰ کا اصلی نام، زلف معشوق
ہندال	مذکر	ترکی	9	منغل شہنشاہ شاہ جہاں کے بیٹے کا نام
ہندوس	صفت	عربی	8	دائلی، ہشیاری
ہندہ	مونث	عربی	1	معشوق کے چہرے کا قتل
ہود	مذکر	عربی	6	نیک کام کرنا، توبہ کرنے والا، ایک پیغمبر
ہشیار	مونث	عربی	7	ہوش والی، عقل مندی
ہورخپشن	مذکر	عربی	6	سورج
ہوش	صفت	عربی	3	صلح جوئی، تسکین
ہوزان	صفت	فارسی	6	نرگس جیسی، شگفتگی
ہوش مند	صفت	فارسی، اردو	9	عقل والا، ہوش والا، سمجھ والا
ہویدا	صفت	فارسی	8	عیاں، صاف، ظاہر کھلا ہوا

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
پیشم	مذکر	عربی	4	توڑنے والا
ہیام	مذکر	عربی	2	گرتی ہوئی ریت، عاشق زار
ہیصم	مذکر	عربی	1	ایک چمکیلا پتھر، قوی اور دلیر شیر جیسا
ہیفا	مونث	عربی	6	نازک کمر والی
ہیمنہ	مونث	عربی	7	پرسکون، باوقار
ہیما	مونث	عربی	2	سراب، بے پانی کاجنگل
ہیکل	مذکر	عربی	2	یہودیوں کی عبادت گاہ، شکوہ، عظمت
				مشہور اسلامی، دانشور اور ادیب محمد حسین ہیکل

یے

نام کا ابتدائی حرف	یے
برج کا نام	حمل
ستارے کا نام	مرخ
موافق پھول	سورج مکھی
موافق پتھر	حجر سیلان لعل 'یا قوت
موافق رنگ	سرخ
اعداد	10

حمل اور مرخ کے باہم ملنے سے اثرات







فیاضی اور حکمرانی کا جذبہ نیز خود غرضی اور انانیت کا جذبہ ان لوگوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ انانیت اور خود غرض طبع کی وجہ سے کبھی کبھار ازدواجی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ مگر فیروں سے تعلقات بہتر رکھتے ہیں، اپنے اعزاء سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ترقی کے ازمہ خواہاں ہوتے ہیں، ان میں حکم چلانے کا جذبہ، اعلیٰ سرکاری حکام سے رابطہ کی سعی۔ بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ خود نمائی کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ بلاشبہ ان کا ذہن ہر وقت کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا ہی سوچتا رہتا ہے۔ عقل مندی ان کی سرشت میں شامل ہوتی ہے۔

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
یاسر	مذکر	عربی، اردو	1	ایک صحابی رسول عمار بن یاسر، دولت مند
یارق	صفت	ترکی	5	ظاہر، چمکدار، منور
یازہ	مونث	فارسی	5	شوخی، انگڑائی
یزان	مذکر	فارسی	6	ارادہ کرنے والا، قصد کرنے والا
یاسم	مذکر	عربی، اردو	3	گل سمن، چنبیلی کا پھول
یاسہ	مونث	عربی	8	گل سمن، چنبیلی کا پھول
یاسین	مذکر	عربی، اردو	5	آنحضرتؐ کا صفاتی نام، کلام اللہ شریف کی معروف سورۃ
یاسمین	مذکر	عربی، اردو	8	چنبیلی کا پھول
یاشا	صفت	عربی	6	دعائیہ کلمہ، زندہ رہو
یاشر	مذکر	ترکی، اردو	7	زندہ رہنے والا
یاشم	مذکر	فارسی	9	سبز رنگ کا قیمتی پتھر
یافت	مذکر	فارسی	5	حاصل شدہ، آمدنی، منافع
یاقتہ	مونث	فارسی	1	بچی ہوئی چیز، پس انداز شدہ
یافر	مذکر	فارسی	3	نقش کرنے والا
یافره	مونث	فارسی	8	نقش کرنے والا
یا قوت	مذکر	عربی، اردو	4	ایک نہایت قیمتی سرخ رنگ کا پتھر
یافہ	مونث	عربی	6	حاصل شدہ
یا من	مذکر	عربی	2	امن والا، داہنی طرف والا
یامنہ	مونث	عربی	7	امن والی، داہنی طرف والی
یسین	صفت	عربی، اردو	3	سچا، گھرا، سیدھا ہاتھ

نام	مذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
یادور	مذکر	عربی	1	حمایتی، مددگار
یدین	مذکر	عربی	2	دونوں ہاتھ
یشرب	مذکر	عربی	1	دیرانہ، مدینہ النبی کا سابقہ نام
ید اللہ	صفت	عربی	5	اللہ کریم کا ہاتھ
یحییٰ	مذکر	عربی	2	ایک نامور پیغمبر کا نام، زندہ رہنے والا
یرسل	مذکر	عربی	3	روانہ کردہ، ارسال کردہ
یرسلہ	مونث	عربی	8	روانہ کردہ، ارسال کردہ
یرغا	صفت	ترکی	5	حملہ، تیز رفتار گھوڑا
یرید	مذکر	عربی	8	طلب، چاہت
یرمغان	صفت	اردو	5	عطیہ، تحفہ
یزداں	صفت	فارسی	9	زرتشت مذہب میں نیکیوں کے خدا کا نام
یزدانی	صفت	فارسی	1	یزدان کا
یسیر	مذکر	عربی	1	قلیل، تھوڑا
یسری	صفت	عربی	1	خوشحالی
یساط	مذکر	عربی	8	قاصد، نقارہ بجانے والا
یسوع	صفت	عبرانی	2	حضرت عیسیٰ کا نام
یصال	مذکر	فارسی	2	پھولوں کا تاج
یصول	مذکر	عربی	8	چوبدار، قاصد
یشعر	مذکر	عربی	5	عقل مند، سمجھنے والا
یشعیرہ	مونث	عربی	2	عقل والی، سمجھ والی
یشم	مذکر	ترکی	8	سبز قیمتی پتھر
یسوب	مذکر	فارسی	5	راہنما، قومی قائد
یعقوب	مذکر	عبرانی	9	نامور پیغمبر، تعاقب کرنے والا، حضرت یوسف کے والد

نام	ذکر / مونث	ب زبان	عدد	مطالب و معانی
یغما	مونث	فارسی	7	ترکستان کا ایک شہر
بغمور	ذکر	عربی	5	طویل قامت شخص
ہمیمہ	مونث	عربی	6	قصہ کرنے والی اور ادہ کرنے والی

نام	مذکر / مونث	بر زبان	عدد	مطالب و معانی
یگانہ	مذکر	فارسی	5	بے مثال، جس کی مثال ہی نہ ہو
یغمان	مذکر	عربی	8	جنگ یا حاصل شدہ مال غنیمت
یفاع	مذکر	عربی	8	سرفرازی، اونچی زمین
یقطان	مذکر	عربی	8	ہشیار، بیدار مغز
یلناز	صفت	ترکی	8	بے نظیر، یکتا، لاثانی
یلدرم	مذکر	ترکی	5	بجلی کی ترپ
یلماز	مذکر	ترکی	7	ناقابل شکست
یمام	مذکر	عربی	1	ارادہ، مقصد
یمین	مذکر	عربی	2	برکتوں والا، سیدھا ہاتھ، دائیں طرف والا
یمین	مذکر	عربی، اردو	1	برکت، اقبال مندی، مشہور عرب ملک
یمان	مذکر	عربی	2	یمین والا
یمنہ	مونث	عربی	6	دائیں طرف والی، نیک اطوار
یوجنا	صفت	عربی	7	ستائش، عزت افزائی
یوضا	صفت	عربی	7	خداوند عالم کا فضل و کرم
یوعان	صفت	عبرانی	2	خداوند کا فضل
یونس	مذکر	عربی	9	مشہور پیغمبر، ستون
یوکسل	صفت	ترکی	9	سر بلندی، سرفرازی، اونچائی
یوسف	مذکر	عبرانی، عربی	3	مشہور پیغمبر، خوب صورت حسین و جمیل
یوزلہ	مذکر	عربی	3	نازی کی ہوئی، آماری ہوئی
یوسا	مونث	ترکی	9	خوبصورت حسین
یزید	مذکر	عربی	4	دولت میں اضافہ کرنا، ایک معروف ولی کامل، حضرت یازید بسطامی



Rs. 98/-

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, N. Delhi - 2

Phones : 3289786, 3289159 Fax : 3279998 Res.: 3262486

E-mail : farid@ndf.vsnl.net.in Websites : faridexport.com, faridbook.com